


بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سَقْفَرِیْقُ اَمْتَیْتُ ثَلَاثًا وَسَبْعِینَ فَرَقَةً كُلُّهُمْ فِی التَّارِیْخِ الْاَوَّلِ وَاحِدَةً
عقریب میری امت تہریزوں میں بنتے گی۔ ایک کے علاوہ سب جنمی ہونگے



عقائد اہل سنت

خطیب مشرق ملاہ

مرتبہ

مشتاق احمد نظامی

اللہ آباد

سب ارشاد

حسین الدین شاہ حب
علیہ السلام

مہتمم جامعہ رضویہ ضیاء العلوم راولپنڈی

ناشر ضیاء العلوم پبلیکیشنز
راولپنڈی
پاکستان

عقاائد اہل سنت

خطیب مشرق علامہ

مشتاق احمد نظامی الہ آباد

ہدایہ ارشاد

حسین الدین شاہ صاحب

شیخ الحدیث
استاذ العلماء
حضرت علامہ سید حسین الدین
ابوالخیر میرزا

مہتمم جامع درضویہ ضیاء العلوم راہبندی

ناشر ضیاء العلوم پبلیکیشنز
راولپنڈی - پاکستان

اشاعتی
ضابطہ

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب: عقائد اہل سنت

مرتبہ: خطیب شرق علامہ مشتاق احمد نظامی ال آباد

کپوزنگ: ضیاء الدین کپوزنگ سنٹر اول پنڈیت ناؤن

کمپیوٹر گرافس: قاضی محمد یعقوب چشتی

پروف ریڈنگ شوال احمد ہاشمی

بار طبع: دوسرا ایڈیشن - جون 2009ء

قیمت: روپے

ناشر: سید شہاب الدین شاہ

ضیاء الدین کپوزنگ سنٹر
پاکستان

رباط: 0345-5808018 - 0333-5166587
051-4450404 FAX-051- 4580404

فہرست

نمبر شمار	عنوان	صفحہ
1	عرض ناشر	5
2	عقائد اور مجموعات اہل سنت کا علمی و تحقیقی جائزہ	7
3	عقیدہ ایمان بالرسالت	15
4	شرك و بدعت	28
5	شرك	32
6	بدعت	34
7	علم غیب	38
8	میلاد، سلام و قیام	41
9	العقائد	45
10	عقائد ذریعہ نجات یہ اعمال	46
11	ایمان	52
12	ایمان مقدم یا عمل	61
13	ایمان بالقدر	64
14	قضائے معلق، معلق شبیہ پر مبرم	73
15	عقیدہ تقدیر	81
16	تقدیر بعلم الہی	83
17	توحید و رسالت پر کتاب و سنت کے شواہد	85
18	اسلامی توحید	86
19	رسالت، اسلام میں رسالت کا تصور	90
20	ایک مثال	91
21	ایک غلط فہمی کا ازالہ	92
22	اسلام اور دیگر مذاہب عالم	96
23	عقیدہ اللہ	97
24	عقیدہ رسالت	101
25	نظام عبادت	108
26	نظام اخلاق	111

فہرست

صفحہ	عنوان	نمبر شمار
114	پیغمبر خدا کی حیثیت مخفی قانون داں کی ہے یا قانون ساز کی	27
129	بُشريت کی روشنی میں درود انبياء کا حقیقی پس منظر	29
136	ختم نبوت	30
143	خاتم کا لغوی معنی	31
145	ختم نبوت سے متعلق احادیث	32
151	منکرین ختم نبوت کے شکوہ و شہابات	33
155	منکرین ختم نبوت کے متعلق شرعی احکام	34
159	حیات النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم	35
176	مسکلہ اعتناء عظیم	36
183	صحابہ کرام کا جذبہ عشق رسول	37
201	مولوی اسطعلی دہلوی کی کتابوں کے متعلق چند اشارات	38
206	تقویۃ الایمانی تو حید کا تنقیدی جائزہ	39
223	امکان کذب کا فتنہ	40
238	اسلاف کرام اور جذبہ احترام رسول	41
248	قبر پر عمارت بنانا، چراغ جلانا، پھول اور چادر ڈالنا	42
256	دیوبندیوں کا اپنے حق میں مسلمات سے گریز	43
259	علم غیب کا اشباحی پہلو	44
262	نماۓ یار رسول اللہ	45
264	علمائے دیوبند سے چند سوالات	46
265	حفظ الایمان کا سرسری تنقیدی جائزہ	47
268	اسلام میں تصوف	48
273	تقلید شخصی کی شرعاً حیثیت	49
289	بدعت کیا ہے؟	50
294	بدعت کی تحقیق	51
310	اسلام اور کیمیونزم	52

﴿عرض ناشر﴾

یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ قبولیت اعمال کا مدار عقائد کی صحت پر ہے جس طرح بغیر وضو نماز صحیح نہیں ہوتی، کوئی درخت بغیر جڑ کے سر بزر و شاداب ہو کر منازل ارتقا ط نہیں کر سکتا۔ اور کوئی عمارت بنیاد کے بغیر پایہ تکمیل نہیں پہنچ سکتی اسی طرح بغیر عقیدہ صحیح کے کوئی عمل بارگاہ و صدیت میں مقبول و منظور نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ناقابل انکار حقیقت ہے کہ نیک اعمال کی کمی کو عقیدہ کی صحت پورا کر دیتی ہے۔ لیکن غلط عقائد کی کمی کو اعمال کی کثرت پورا نہیں کر سکتی۔ میسیوؤں مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں کہ ایک آدمی کے پاس نیک اعمال زیادہ نہیں لیکن عقیدہ کی صحت بخشنوش کا سبب بن گئی۔ اور ایسی ایک مثال بھی پیش نہیں کی جاسکتی کہ کسی آدمی کے نیک اعمال بغیر عقیدہ صحیح کے بخشنوش کا سبب بنے ہوں۔

یہی وجہ ہے کہ اسلام نے عقائد کی صحت پر سب سے زیادہ زور دیا ہے۔ لہذا آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسی کتاب پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جسے پڑھ کر آپ اپنے عقائد کو درست رکھتے ہوئے بد عقیدگی کی تمام الاشتوں سے اپنی متاع ایمان کو محفوظ رکھ سکیں گے۔

یہ کتاب خطیب مشرق علامہ مشتاق احمد تقاضی (ائیڈی میر پاسبان اللہ آباد) کی کاؤشوں کا نتیجہ ہے۔ خداۓ قدوس کا شکر ہے کہ موصوف کی اس گراس مایہ تالیف "عقائد اہل سنت" کو پاکستان میں شائع کرنے کا شرف آپ کے محظوظ "ادارہ ضیاء العلوم پبلی کیشن" کو حاصل ہوا ہے۔ ادارہ نے اس کتاب کو اپنی

سابقہ روایات کے مطابق شایان شان طریقہ سے پیش کرنے میں کوئی دیقیقہ فروگذاشت نہیں کیا۔ امید ہے قارئین کرام ہماری اس پیشکش کو بنظر احسان دیکھیں گے اور نہ صرف خود بلکہ اپنے حلقہ، احباب تک مذکورہ کتاب کو پہنچانے میں ادارہ کے مدد و معاون ثابت ہوں گے۔

فقط والسلام

سید شہاب الدین شاہ

ضیاء العلوم پبلی کیشنز راوی پندتی

اگست 2004ء



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿۱﴾

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَىٰ حَبِيبِهِ الَّذِي اصْطَفَىٰ

عقائد اور معمولات اہل سنت

کا علمی و تحقیقی جائزہ

عقیدہ تو حید:

بانام اسلام و مسلمان مذہب اہل سنت ہی ایک ایسا نامہ ہب و مسلک ہے جو افراط و تفریط سے یکسر خالی ہو کر اپنی احتیاط و اعتدال پسند روشن میں ہر ایک سے منفرد و ممتاز ہے۔ اور یہی وہ مذہب حق ہے جو ”ما ناعلیہ واصحابی“ کا آئینہ دار ہے۔

خبر صادق سید عالم روحی فداہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کہ میری امت میں تہتر فرقے ہوں گے۔ ان میں بہتر جہنمی اور ایک ناجی ہے اسی ناجی فرقے کا دوسرا نام اہل سنت و جماعت ہے۔ ہماری نظر میں تو حید و رسالت کا ایک ایسا بنیادی تصور ہے جس سے تمام فرقہ ہائے باطلہ یکسر محروم ہیں، ہم اس کی الہیت میں کسی کو شریک نہیں ظہرا تھی کہ بجدہ تعبد تو در کنار غیر خدا کے لئے بجدہ تعظیمی کو بھی حرام سمجھتے ہیں۔ گندب خضراء کی چھاؤں میں پچھنچنے کے بعد ہم اپنے نبی و رسول کی قبر کو سجدہ نہیں کرتے بلکہ کھڑے ہو کر ان کی بارگاہ بیکس پناہ میں صلواۃ وسلام کی نذر گزارتے ہیں۔ نبیین سے اہل سنت کا نکھرا ہوا مزار سمجھ میں آ گیا کہ جب ہم رسول خدا کی قبر کو بجدہ نہیں کرتے تو غوث و خواہ کی قبر کو کیونکر سجد

کریں گے۔ یہ تو ایک الزام تراشی و بہتان بندی ہے۔ کہ اہل سنت قبروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ معاذ اللہ صد معاذ اللہ۔

جب ہم اس کا یقین و اعتماد رکھتے ہیں کہ سرور کو نین رو جی فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود اس بزرگ و برتر کی بارگاہ میں نیاز مندانہ پیشانی جھکاتے تو اس علم و یقین کے بعد کون ایسا سر پھرا ہو گا جو اس معجود حقیقی کا آستانہ کرم چھوڑ کر کسی غیر اللہ کی چوکھٹ پر سجدہ عبادت یا سجدہ تقطیم کو درست روا کجھے گا جب کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان واجب الاذعان ہمارے سامنے ہے کہ اگر مری شریعت میں سجدہ عبادت کے سوا کوئی اور سجدہ درست ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں۔ حقیقت کے اس اجائے میں کون سجدہ عبادت یا سجدہ تقطیم کو درست کہہ کر اپنی عاقبت برپا دکرے گا؟

البتہ بُرا ہو اس گروپ بندی اور تنگ نظری کا جس نے آج ایک دنیا کی آنکھوں پر تعصّب کی پٹی کو باندھ رکھا ہے جو اپنی آنکھوں سے ہماری ان کتابوں کا مطالعہ بھی کرتے ہیں جس میں ہم نے اپنے عقائد کو ہر غبار و تلچھت سے کھنگاں کر اس کی ہر نوک پلک درست کر کے قوم کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس میں بھی انہیں شرک کا انبار ہی نظر آتا ہے۔ مجھے معاف کیجئے کہیں ایسا تو نہیں کہ میکدہ شرک میں آنخاب نے اتنی پی ہے کہ اب تو حید خالص میں بھی شرک کا کوڑا کبڑا نظر آتا ہے اب اسے عقیدے کی گندگی کہا جائے یا ذہنوں و آنکھوں کا وہ خمار جس نے حقیقت بنی کا دروازہ بند کر دیا ہے حتیٰ کہ خود اب آپ اپنی بھی نظروں میں مسلمان نہیں رہ گئے بلکہ سر سے پاؤں تک شرک کی منہ بولتی تصویر ہیں اگر شرک کے نشے میں

آنجناب پور چورنے ہوتے تو تقویۃ الایمان میں ہرگز ہرگز نہ لکھتے۔

”اس کا رکھنا اور پڑھنا اور عمل کرنا عین اسلام ہے اور موجب اجر کا ہے اس کے رکھنے کو جو کفر کہتا ہے خود یا کافر ہے یا فاس بدعتی ہے۔“

(ذکیر الاخوان ص ۲۶۹ ناشر راشد کمپنی دیوبند)

اب اس آئینے میں اپنی تصویر دیکھ کر مجھے بتائیے کہ آپ موحدہ گئے ہیں یا مشرک ہو کر شرک کی چلتی پھرتی میشیں آپ کا نشہ ہرن کرنے کے لئے کسی معمولی کتاب کا حوالہ انہیں دیا گیا بلکہ آپ کے مشرکانہ مذہب میں تقویۃ الایمان ایک ایسی کتاب ہے جس کا ہر گھر میں ہونا عین اسلام ہے۔ خواہ قرآن حکیم ہو یا نہ ہو لیکن جس گھر سے تقویۃ الایمان غائب گویا عین اسلام رخصت! اسکیں خاطر کے لئے اس کا بھی حوالہ لے لیجئے تاکہ پیشانی پر شرک کا جو میکد لگ گیا ہے وہ صابن کی کئی بھی سے بھی نہ صاف ہو سکے۔

حوالہ نمبر 1: فتاویٰ رشیدیہ حصہ سوم ص ۱۵۰ اس کا (یعنی تقویۃ الایمان کا) رکھنا اور پڑھنا اور عمل کرنا عین اسلام اور موجب اجر ہے۔ [1]

کہنا یہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت لا اله الا اللہ کا وہی مفہوم و معنی سمجھتے اور بتاتے ہیں جسے سرور کوئی نے صحابہ، تابعی، ائمہ مجتہدین، ائمہ محدثین و مجددین علماء حق و اولیاء عظام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے ہم تک پہنچایا ہے خدا کا شکر ہے ہم اہل سنت ہی اُس امانت کے صحیح وارث و امین ہیں۔ یہ خداۓ ذوالجلال کی توفیق اور اس کے پیارے محبوب کا کرم ہے کہ ہم سے اس امانت میں کوئی خیانت نہیں ہوئی البتہ اگر وقت کے کسی خائن نے دست و درازی کی تو آواز

حق کو پھیلانے کے لئے ہم نے زبان و قلم کے جہاد کی مہم شروع کر دی مثلاً اگر تو حید کے غاصبۂ تھیکداروں نے لا اله الا اللہ کے مفہوم میں امکان کذب انسان فر کر کے یہ کہنا شروع کیا کہ معاذ اللہ خدا کا جھوٹ بولنا ممکن ہے تو طبقہ اہل سنت نے اس کفری و باطل عقیدے کے خلاف زبان و قلم کی پوری طاقت صرف کر دی اور وقت کی ایک دینی ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کے لئے کسی بھی پروپیگنڈے کی فکر و پرواہ کئے بغیر توحید خالص کا جھنڈا ہمراہ دیا اگر ہو سکے تو سبعون السبوح فتاویٰ رضویہ، حسام الحر میں وغیرہ کا مطالعہ کیجئے، جو کسی بھی متلاشی حق کے لئے اندر ہرے کا اجالا ہے۔

بہر حال اہل سنت و جماعت ایک تکھری ہوئی بے غبار توحید خالص کا اعتقاد رکھتے ہیں وہ خدا کے لئے جھوٹ یا کسی بھی عیب کے امکان کا تصور تک نہیں کر سکتے چہ جائیکہ یہ عقیدہ رکھنا کہ خدا کا جھوٹ بولنا ممکن ہے۔ ہماری درس نظامی کا مبتدی طالب علم جس نے شرح تہذیب پڑھی ہے وہ بھی یہ جانتا اور مانتا ہے کہ اللہ "اس ذات واجب الوجود کو کہتے ہیں جو مجمع ہے جسی صفات کمالیہ کا" اس کی ہر صفت کمال والی ہوتی ہے خدا کی کوئی بھی صفت رذیل یا گٹھیا درجے کی نہیں ہو سکتی، وہ دیوبند کا خدا ہو سکتا ہے جو جھوٹ بھی بول سکے اور پھر بھی خدا ہی رہ جائے۔ غور فرمائیے جس کا خدا جھوٹا ہو سکتا ہے اس کے بندوں کا کیا عالم ہو گا؟ مگر یہ عجیب و غریب قوم ہے اس کے خدا کو جھوٹا نہ کہیئے تو پیشانی پر بل آجائے اور انہیں جھوٹا کہیئے تو چراغ پا ہو جائیں۔

اللہ رے خود ساختہ قانون کا نیرنگ
جو بات کہیں فخر وہی بات کہیں نہ

حاصل گئتو یہ ہے کہ آج کے سیماں صفت، ابن الوقت توحید کے ٹھیکداروں اور مذہب کے غداروں نے جس بڑی طرح اپنے عقیدے کی مٹی پلید کی ہے وہ سادہ لوح مسلمانوں کو اپنے اسی زمرے میں شامل کر لینے کی جدوجہد کرتے ہیں ان سیاہ بختوں کو جب ہماری کتابوں میں کچھ نہیں ملتا جس پر وہ اعتراض کر سکیں تو اپنی خانہ ساز توحید کارنگ جمانے کے لئے اہل سنت پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ لوگ قبروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ حالانکہ ان ظالموں نے ہمیں بدnam کرنے کے لئے قبروں پر پہنچ کر خود ہی سجدہ کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ لوگ ہم سے گھن اور نفرت محسوس کریں کوئی بھی سنی کسی قبر پر سجدہ کرنے نہیں جاتا بلکہ وہ اللہ کے ولی سے اکتساب فیض اور ایصال ثواب کے لئے جاتا ہے۔

اگر ان کی چیرہ دستیوں کا یعنی مشاہدہ کرنا ہو تو کلیر شریف جائیے جیسا کہ نہ جاتا ہے وہاں ایام عرس میں طوائفوں کا ہجوم اور بعض دوسرے منکرات سے شرعی عرس کی تقدیس و حرمت کو داغدار کیا جاتا ہے۔ (خدا کرے یہ خبر غلط ہو)غور کرنے کا مقام ہے کہ آخرش یہ کلیر شریف ہی میں ایسا کیوں ہوتا ہے جس کی وجہ بالکل ظاہر ہے کہ کلیر شریف سہارنپور اور دیوبند کے قریب ہے نتوہہ مخدوم کلیری کی قبر اکھاڑ سکتے ہیں اور نہ ہی گنبد ڈھا سکتے ہیں (اگر بس چلے تو یہ بھی کر گذریں مگر وہ تو کہیئے کہ خدا نے گنج کو ناخن ہی نہیں دیئے)

الہذا.....! سینیوں اور عرس کو بدnam کرنے کے لئے دیوبند ہی کی سازش معلوم ہوتی ہے کہ وہاں ایسے منکرات کا ارتکاب کیا جائے جس سے عرس کے خلاف کچھ

کہنے کو مواد و میثاقیں مل جائے ورنہ ہم دیوبند کو چیخ کرتے ہیں کہ وہ بریلی، مارہڑہ، گھو، مراد آباد پہنچ کر بدعات و منکرات کی نشاندہی کرے یا پھر ہمارے اکابر کی کتابوں کے حوالہ جات پیش کرے جس میں معاذ اللہ بدعات و منکرات کو درست اور جائز قرار دیا گیا ہے۔ یہ بھی ایک ہی رہی کہ خود ہی اپنے عوام کو ٹریننگ دے کر بھیجیں اور سجدہ و قبر پرستی کا الزام ہمارے سر.....

آنٹا چور کو توال کو ڈائٹ

اگر موقع ملا تو عرس کی بحث میں ہم اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے زیر بحث موضوع میں ہمیں یہ کہنا ہے کہ اہل سنت و جماعت خدا کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں گردانتے وہی اللہ و معبدو ہے وہی ہر شے کا خالق و مالک ہے۔ اُس کی بزرگ و برتر ذات ہر عیب سے پاک و صاف ہے۔ بندوں میں خواہ کوئی کتنے ہی غسل ذکر اہل کا ہو وہ بندہ ہے معمونیں مخلوق ہے خالق نہیں۔ شرک ایک ایسا پاپ ہے کہ گناہوں کی تو معافی ہے مگر شرک کی کوئی معافی نہیں اس لئے ایمان و عقیدے کے کسی گوشہ پر شرک کی پر چھائیں تک نہیں پڑنے دیتے۔

یہ ضرور ہے کہ ہمارا مسلک افراط و تفریط اور غلوکی انتہا پسندی سے بالکل پاک و صاف ہے ہم شرک جملی کو جملی کہتے ہیں اور مشرک خفی کو خفی ہے تو تقویۃ الایمان کے مؤلف کا مزاج ہے جس نے دیدہ دانستہ اور با مقصد بالا رادہ شرک خفی کو شرک جملی لکھا اور اس کا بھی اقرار کیا کہ میں جانتا ہوں کہ اس کتاب کے بعد مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو گا مگر وہ لڑبھڑ کر ٹھیک ہو جائیں گے۔ گویا جان بوجھ کر نہیں پر

چنگاری چھینکی گئی آگ کا بجھنا تو در کنار دامن کی ہوا سے اور بھی اسے بھڑ کایا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں آئے دن مجادلہ و مناظرہ ہوتا رہتا ہے مسلمانوں میں انترائق و انتشار کی تمام ترمذہ داری علماء دیوبند پر ہے جو ان کفری عبارات کی پروش کر رہے ہیں جس سے مسلمانوں کا شیرازہ تتر بتر ہو کر رہ گیا ہے میلاد وسلام، عرس و فاتحہ میں اگر آنحضرت کو کوئی غلطی نظر آتی ہے تو اس کی اصلاح بہت آسان ہے مگر کفر کا وہ غلیظ ٹوکرہ جسے پھولوں کا گلدستہ کہہ کر آپ سر پر لئے پھر رہے ہیں اس سے جسم کے ظاہر و باطن کی تطہیر بہت ضروری ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت خدائے وحدہ لا شریک کی ذات و صفات میں کسی بھی بندے کو شریک نہیں ٹھہراتے البتہ خدا کے جن محبوب بندوں کے لئے اختیارات و تصرفات کو مانتے ہیں وہ خدا ہی کی دین اور اسی کے جود و عطا کا ثمرہ ہے۔ وہ اپنی ذات و صفات میں واجب و قدمیم ہے اس کی ہر صفت ذاتی ہے اللہ کے بندوں میں خواہ انبیاء و رسول اور اولیاء کبار ہی کیوں نہ ہوں ان کے جملہ مجازات و کرامات عطائی ہیں اسی خدائے بزرگ و برتر نے اپنی شان کرم سے انہیں نواز ہے۔ پروردگار اپنی ذات و صفات میں بے مش و بے نظیر ہے ساری کائنات اسی کے تحت قدرت ہے اسے کوئی مادی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، البتہ وہ ساری کائنات کو محیط ہے اس کا علم حضوری ہے وہ عالم غیب والشہادہ ہے۔ موت و زندگی پر اسی کا تصرف کامل ہے۔

آسمان کی بلندی، زمین کی فروتنی، عرش کی عظمت، آفتاب کی روشنی، چاند کی چاندنی، کہکشاں کا جمال، قوس قرخ کی رعنائی، کلیوں کی مسکراہٹ، پھولوں کی زیبائی، موسم کی تبدیلی، بجلیوں کی ترپ، بادل کی گھن گرج، دریا کی روانی، سمندر

کی طغیانی غرض کہ یہ جس قدر بھی مظاہر قدرت ہیں اپنی خاموش زبان میں لا الہ
الا اللہ کی دعوت دے رہے ہیں۔

عارف حق سرکار آسی نے کیا خوب فرمایا ہے۔

بے حجابی یہ کہ ہر ذرے سے جلوہ آشکار
اُس پر گھونگھٹ یہ کہ صورت آج تک نادیدہ ہے

غرض کہ کائنات کا کوئی ذرہ اس کی مشیت و ارادے کے بغیر ہل نہیں سکتا، وہ
ساری کائنات کا پالنہماز ہے وہی خالق و مالک ہے اور انسانی رشد و ہدایت کی
خاطر اسی کے بھیجے ہوئے پچ رسول آقاء دو جہاں حضرت محمد رسول ﷺ ہیں جن
کی نبوت و رسالت کی تصدیق عین ایمان ہے۔



عقیدہ ایمان بالرسالت

محمد رسول اللہ محمد ﷺ کے رسول ہیں۔ لا الہ الا اللہ کے اقرار و تقدیق کے بعد ہم اس کا اقرار کرتے ہیں کہ محمد ابن عبد اللہ اللہ کے صحیح ہوئے سچ نبی اور رسول ہیں وہی خدا اور بندوں کے درمیان رابطہ اور وسیلہ ہیں۔ حتیٰ کہ تمیں ۳۰ پارے کا قرآن بھی اگر ملا تو کلام خدا کا ہے اور زبانِ مصطفیٰ کی ہے ایسے ہی خدا نے یہ فرمایا کہ اقیموا الصلوٰۃ نماز قائم کرو مگر نماز کس طرح پڑھی جائے اور کب پڑھی جائے گی۔ اس کی تعلیم دینے کے لئے آسمان سے کوئی فرشتہ زمین پر نہیں بھیجا گی بلکہ سید عالم روحی فدا ﷺ ارشاد فرماتے ہیں۔

صلوٰۃ کما رأیتمُونِی أصلیٰ

نماز ایسے ہی پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو۔

معلوم ہوا کہ سجدہ خدا کا کیا جاتا ہے اور ادا مصطفیٰ کی دیکھی جاتی ہے۔ غرض کہ نماز اللہ اکبر سے لے کر سلام تک سرور کو نین مصلی اللہ کی ایک ادا ہے۔ گویا اب اس کی مختصر تعریج یہ ہے کہ میں جب کہوں تب پڑھو، جہاں کہوں وہاں پڑھو، جس طرح کہوں اس طرح پڑھو، ہم اس مقام پر اس کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ نماز جو عبادات میں ایک اہم عبادت ہے اس کی جو تفصیلات بتارہا ہے۔ وہ کوئی مجبور نہیں بلکہ اختار ہے۔ اس لئے اب اگر کوئی یہ کہہ کر گذر جانا چاہے کہ۔ ”جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا اختار نہیں۔“

ہم اس بد بخخت و بد نصیب کو قابل گردن زدنی سمجھتے ہیں اور جب ہم اس کا یقین و اعتقاد رکھتے ہیں کہ قرآن حکیم کے تیسوں پارے رسول خدا ہی کی زبان

سے ہمیں ملے ہیں تو اس زبان کی تقدیس و حرمت کا اقرار بھی مقتضاء ایمان ہی سمجھتے ہیں۔ لہذا مقام استفسار میں ہم اطلاق بشرط کر سکتے ہیں مگر زبان و قلم کے عام محاورات میں ہم انہیں اپنا جیسا بشر نہیں کہہ سکتے ورنہ زبان کے مجروح ہو جانے کے بعد خطرہ ہے کہ کہیں کلام الٰہی کی عظمت و تقدیس پر حرف نہ آجائے اس لئے رسول خدا کو اپنے جیسا بشر کہنا ہم اسے خطرے کا ایک سُکُنِ تصور کرتے ہیں بلکہ اس مذموم عقیدے کے بعد ہم یہ اندریشہ محسوس کرتے ہیں کہیں ایمان کا پورا محل پیوند خاک نہ ہو جائے۔ غرض کہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کی جملہ تفصیلات و توضیحات ہمیں سید عالم روحی فداہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی سے ملی ہیں۔ حتیٰ کہ خدا کی معرفت و پیچان، اس کی وحدانیت کا اقرار و تصدیق سب انہیں کی بارگاہ کرم کا عطیہ ہے..... اس لئے ہم اپنے اس عقیدے میں حق بجانب ہیں کہ سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا اور بندوں کے درمیان نہ صرف وسیلہ بلکہ وسیلہ اور مقصد دونوں ہیں۔ اگر وہ مقصد نہ ہوں تو قبر کا اتنا ہی سوال کافی ہوتا کہ من ربک ، تمہارا رب کون ہے۔ مادینک ، اور تمہارا دین کیا ہے۔ یہ نہ دریافت کیا جاتا کہ انہیں جانتے ہو یا نہیں۔ اس سوال نے وسیلہ کے علاوہ ان کے مقصد ہونے پر مہر لگا دی کہ ان سے تمہارا رشتہ ثبوت نہیں گیا ہے۔ دونوں سوالوں کے جوابات کی صحت ان کے پیچانے پر موقوف ہے گویا ان کا پیچانا ہی اس دستاویز کی آخری مہر ہے۔

ہم حضرت محمد ﷺ کو صرف نبی و رسول ہی نہیں مانتے بلکہ ہم انہیں خاتم النبیین بھی مانتے ہیں۔ لہذا اس بحث میں اگر کوئی ختم نبوت ذاتی و زمانی کا افتراضی مسئلہ اٹھا کر اپنی کاؤش فکر کی داد لینا چاہے کہ

”یعنی اگر بالفرض آپ کے زمانے میں یا بالفرض آپ کے بعد بھی کوئی نبی فرض کیا جائے تو بھی خاتمیت محمدی میں فرق نہ آئے گا۔“

(تحذیر الناس ص ۱۳)

تو ہم اس کفری عبارت کو ختم نبوت کی سیسے پکھلانی دیوار پر ایک ایسی چاند ماری تصور کرتے ہیں۔ جس نے اس کی آہنی دیوار میں شگاف ڈال دیا اور نتیجے میں قادیانی فرقہ جو بساط سیاہست کا پٹا ہوا مہرہ ہے اس نے ایک نبی کو جنم دیدیا۔ حالانکہ نگاہیں دیوبند پر لگی تھیں، چونکہ تیج وہاں پہلے پڑھ کا تھا مگر شرہ قادریان میں نمودار ہو گیا۔ اس لئے جس جرم کی پاداش میں قادریانیت کو اقلیت میں شمار کیا گیا ہے دیوبندان سے کہیں زیادہ اس سند کا مستحق ہے۔ لہذا قانون جو تواریکی ایک دھار ہے جس نے قادریانیت جو وقت کا عظیم فتنہ تھا اس کا سر قلم کر کے اپنی انصاف پروری کا ثبوت دیا ہے اسے کسی بھی وقت نیام سے باہر نکل کر دیوبندیت کے لکھ پروار کرنا ہو گا تاکہ فیصلے کا تسلیہ تکمیل محض نامہ اپنے انجام اور تنتہ کو پہنچ جائے۔

اسی طرح ہم اپنے کو مومن اور رسول خدا کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں تاوق تکیہ ہم اس کا اقرار نہ کر لیں کہ محمد ﷺ کے رسول ہیں۔ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے ہم ان کا اور ان کی بارگاہ کا ادب و احترام عین ایمان قرار دیتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن حکیم کا رشاد ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُرْفِعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرٍ بَعْضُكُمْ لِيَعْضِنَ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾
اے ایمان والو! تم اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو اور جس طرح تم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بولتے ہو اس طرح نبی کریم سے نہ بولو (ورنہ

یعنی اگر تم نے اس قانون پر عمل نہ کیا تو تم لوگوں کے اعمال میث دیئے جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہ ہو گا۔

اس سے معلوم ہوا کہ عمل صالح کی روح ایمان اور ایمان کی جان محمد رسول اللہ ہیں۔ محبوب خدا کی بارگاہ میں معمولی سی گستاخی و بے ادبی نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کی پوری کائنات ملیا میث کر دیتی ہے۔ اس لئے ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ تاجدار دو عالم کی بارگاہ میں کوئی بھی ایسا لفظ نہ بولا جائے جس میں تو ہیں نبوت کا شانہ تک ہو۔ جیسا کہ قرآن حکیم کا ارشاد ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَأَيْنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا﴾
یعنی اے ایمان والو! تم مرے محبوب کو راعنا مت کہو انظرنا کہو

صحابہ کرام راعنا سے ایک صحیح مفہوم مراد لیتے ہیں مگر یہودی اس لفظ سے گندہ معنی مراد لیتے، پروردگار کو یہ گوارنیٹ کہ مرے مصطفیٰ کی شان القدس میں کوئی ایسا لفظ استعمال کیا جائے جس میں ابہام و توہین ہو۔ بے ادبی و گستاخی کا کوئی پہلو نکلتا ہو۔ لہذا اگر کوئی رسول کریم کی بارگاہ میں کھلی توہین کرے مثلاً یہ کہے:

”پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل اگر بعض علوم غیریہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ایسا علم غیب زید و عمر بلکہ ہر صیہ و میتوں بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لئے بھی حاصل ہے۔“ (حفظ الایمان ص ۸)

تو ہم ایسے شخص کو خارج از اسلام اور کافر و مرتد سمجھتے ہیں اور جو لوگ بھی اس

عبارت پر مطلع ہو کر اس کی تائید کرتے ہوں انہیں بھی کافرو مرتد جانتے ہیں۔
امام قاضی عیاض رحم اللہ تعالیٰ علیہ شفاء مبارک میں فرماتے ہیں۔

”اگر کسی کلمہ گونمازی نے رسول خدا کے پہنچے ہوئے جوتے تو تحریر
بجائے فعل کے نعیل کہہ دیا یعنی یہ کہہ دیا کہ یہ ﷺ کی جتر یا ہے تو
ایسا شخص کافر ہو گیا واجب القتل ہے اسکی گرون ماروئی چاہئے چونکہ
اس نے اس بھوتے کی تو ہین کی جس نے رسول خدا کا قدم چو ما ہے“

جب جو تی کی تو ہین کرنے والا مسلمان نہ رہ جائے گا تو آقائے دو جہاں
علیہ السلام کی تو ہین کرنے والا کس طرح مسلمان رہ سکتا ہے؟..... ہم اہل سنت و
جماعت رسول خدا کو نہ تو خدا کہتے ہیں نہ خدا کا بیٹا، نہ خدا جیسا..... بلکہ اللہ کا ایسا
محبوب بندہ کہتے ہیں جو خدا اور اس کے تمام بندوں کے درمیان وسیلہ ہے اس کی
جملہ صفات خدا ہی کی عطا کردہ ہیں حتیٰ کہ ہم آقائے دو جہاں کو عالم غیب مانتے
ہیں مگر اس طرح کہ ان کے جس قدر علوم ہیں وہ سب خدا ہی کے دینے ہوئے
ہیں۔ جس کا علم نہ تو ابو بکر کو ہے نہ تو جبریل امین کو بلکہ دینے والا خدا جانتا ہے یا
لینے والے مصطفیٰ، امتوں میں کوئی بھی ان کے وسعت علم کو گھیر نہیں سکتا..... اب
اگر کوئی یہ کہے۔

”الی اصل غور کرنا چاہئے۔ کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم
محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس
فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے۔ شیطان
و ملک الموت کو یہ وسعت نفس سے ثابت ہوئی فخر عالم کی وسعت علم
کی کون سی نفس قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کو درکر کے ایک شرک

ثابت کرتا ہے۔

(براہین قاطعہ)

تو ہم ایسے گستاخ و بے ادب کو کافر، ملعون و مردود سمجھتے ہیں اس نے قرآن کا صحیح مطالعہ نہیں کیا اس کا کہنا ہے و سعت علم مصطفیٰ کی قرآن میں کوئی نص نہیں ملتی۔ ہمارا کہنا کہ اگر قرآن کی نص پیش کی جائے گی تو تمہاری ایک ایک نسیخ جائیگی۔ لہذا ان حقائق کی روشنی میں اگر کوئی دریدہ وہیں یہ کہنا چاہے کہ سرور عالم کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں تھی تو اس بے خبر کو اپنی بے خبری پر ماتم کرنا چاہئے وہ تو عالم جیسے ماکان و مایکون تھے۔ ہم اہل سنت اس کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ سرور عالم ﷺ نے ایک لمحے سے بھی کم درجہ کے برابر موت کا ذائقہ چکھا اس کے بعد انہیں حیات سرمدی مل گئی وہ کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہیں اور اب ہمیشہ کے لئے زندگی جسم اطہر زمین کے جس حصے پر ہے وہ عرشِ اعظم سے بھی افضل تر ہے۔ اب اگر کوئی نا آشناے ادب یہ عقیدہ رکھے کہ معاذ اللہ محمد ﷺ مر کر مٹی میں مل گئے۔ تو ہم اس گمراہ و بے ادب کو جہنمی سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی جب ہم اس کا یقین رکھتے ہیں کہ نماز بکیر تحریم سے لے کر التحیات و درود تک آتائے دو جہاں ﷺ کی ادائے تو ہم اس کا بھی اعتقاد رکھتے ہیں۔ کہ مرد موم کی نماز سرکار کی یاد اور تصور سے خالی نہیں رہ سکتی، یہ کیسے ممکن ہے کہ التحیات میں السلام علیک ایها النبی تو کہا جائے اور نبی کا خیال نہ آ سکے۔ ایسے ہی سورہ فاتحہ کے بعد ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعْهُ أَشَدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحْمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ آیات کی تلاوت کی جائے مگر آتائے دو جہاں کا خیال نہ لایا جاسکے یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ جب کہ تلاوت قرآن میں اس کی تلقین ہے کہ صرف زبان سے تلاوت ہی نہ کی جائے بلکہ اس کے مفہوم و معنی کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ لہذا معنی

کا سمجھنا یہ اتفاقی نہ ہوگا بلکہ بالقصد وبالارادہ ہو گا اب جس کی صحیح تعبیر یہی ہو گی کہ سورہ فاتحہ کے بعد اگر ﷺ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعْهُالخ ﷺ کی تلاوت کی جائے تو محمد ﷺ کے معنی کو سمجھنے کے لئے قصد اور ارادے کو خل ہو گا۔

اب ان حقائق کی روشنی میں اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ رسالت مبارکہ ﷺ کے خیال لانے سے نماز جاتی رہے گی۔ تو مجبوراً ہمیں یہی کہنا پڑے گا کہ جن کی نماز گائے بیل کے خیال لانے سے ہو جاتی ہے اور مصطفیٰ کے خیال لانے سے نہ ہوتی ہو تو بیلوں والی نماز انہیں مبارک ہو اور مصطفیٰ والی نماز ہمیں! یہ تو اپنا اپنا نصیبہ ہے اور اپنی اپنی تقدیر!

اسی طرح محمد رسول اللہ کی تصدیق و اقرار کے بعد ہم اس کا بھی یقین و اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ انسانی رشد و ہدایت کی خاطر عالم خاک میں مبعوث تو ہوئے مگر وہ ہم جیسے بشر نہیں تھے بلکہ ان کی بشریت بھی ایک طرح کا مججزہ تھی اگر وہ ہم جیسے بشر ہوتے تو عام انسانوں کی طرح زمین پر ان کا سایہ پڑتا چاہئے تھا لیکن صحابہ کرام کی روایت شاہدِ عدل ہے کہ ہم نے آفتاب کی دھوپ ہو یا چاند کی چاندنی کسی میں بھی سید عالم نور جسم ﷺ کا سایہ زمین پر نہیں دیکھا تھا کہ جسم اطہر پر جو کپڑا ہوتا اس کا بھی سایہ زمین پر نہ پڑتا [1] رسول اللہ ﷺ کے جسم مبارک پر کبھی کبھی نہ پیٹھتی، ایسے ہی آقائے دو جہاں جس راہ سے گزرتے وہ رہ گذر پسینے کی خوبصورتی سے مہک جاتی، جن کلکریوں پر قدم مبارک رکھ دیتے وہ مومن کی طرح پکھل کر اپنے کلیج پر نقش پائے مصطفیٰ لیتیں وہ اگر سو جاتے تو ان کا وضو باقی

[1] مزید تحقیق کیلئے دیکھئے نفی الظل از علماء ظلی صاحب مخلص، ملنے کا پتہ مکتبہ فردوس ایوال۔

رہتا، لعاب دہن اگر کھاری کنویں میں ڈال دیا تو اس کا پانی شیریں ہو گیا۔ غزوہ خیبر میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو آشوب چشم کی شکایت تھی سرکار نے لعاب دہن لگا دیا تو آنکھ کی تکالیف اور سرخی جاتی رہی، غار ثور میں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سانپ نے ڈس لیا تو یہی لعاب دہن زہر کے حق میں تریاق بن گیا۔ معراج کی شب جہاں جبریل امین کا ذہن نہ جائے اس سے کہیں آگے سرکار کا قدم ناز گذر گیا۔ غرض کہ ان کہ ہر ادا فوق البشریت ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

دھوکے میں آئے جائے کہیں فکر و آگئی
آقائے کائنات لباس بشر میں ہے

ایسے ہی ہم سرور کو نین مثیل اللہ کو اپنا شفیع تصور کرتے ہیں اور انہیں شفاعة کرنے کا مقام حاصل ہے۔ وہ شفیع محشر بھی ہیں اور ساقی کو شر بھی! پروردگار نے انہیں علم اوتلیں و آخرین عطا فرمایا اور علم غیب کے خزانے مرحمت فرمائے۔ وہ اللہ کے ایسے محبوب تھے کہ ان کی مرضی پر قانون الہی اترتا۔ نماز کی نیت باندھی بیت المقدس کی طرف مگر بار بار آسمان کی طرف سراخا کر دیکھتے کاش بجائے بیت المقدس کے کعبہ ہمارا قبلہ ہوتا۔ بس اتنے ہی میں جبریل امین تحویل قبلہ کی آیت لے کر حاضر ہوئے۔ اسی مفہوم کی ترجمانی میں مجدد دین و ملت سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔

خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم
خدا چاہتا ہے رضاۓ محمد ﷺ

فریضہ حج کی آیت اترنے کے بعد صحابی رسول نے عرض کیا "یا رسول اللہ!

کیا ج ہم پر ہر سال فرض ہے۔ ”حالانکہ اپنی جملہ شرعاً کے ساتھ حج مسلمان پر پوری زندگی میں ایک ہی بار فرض ہے۔ مگر سرکار نے ارشاد فرمایا، ”اگر مری زبان سے ہاں نکل جاتا تو ہر سال فرض ہو جاتا۔“

اسی لئے ہم اہل سنت و جماعت اس کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو مالک و مختار بنایا..... اب خدا کے لئے پیارے محبوب کو اگر کوئی گاؤں کا چودھری یا زمین دار کا مرتبہ دے۔ تو ہم ایسے سیاہ بخت کو جہنم کا ایندھن تصور کرتے ہیں۔ انہیں خدا، خدا کا بیٹا یا خدا جیسا نہ کہہ کر ہم ان کی بارگاہ میں میلادِ سلام و قیامِ کوغلاموں کی طرف سے خراجِ عقیدت تصور کرتے ہیں۔ غرض کہ ان کے جملہ محسن اور خوبیوں کو سمیٹنا یہ انسانوں کے کس بل سے باہر ہے۔ ایسی ہزار زندگی دیجائے اور ساری عمر زبان و قلم سے ان کے فضائل و مکالات بیان کئے جائیں تو آخر میں حضرت جامی کی زبان میں یہی کہنا پڑے گا۔

لا يمكن الشاء كما كان حقه
بعد از خدا بزرگ توئی قصة منحصر

کہنا یہی ہے کہ ”لا اله الا الله محمد رسول الله“ کی تصدیق و اقرار کے بعد ہم ایک بے غبار نکھری ہوئی تو حید خالص کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ ہم اسی کو خالق، مالک قادر معبود، رازق جانتے ہیں۔ جب ہم ذات باری کے لئے امکان کذب کا عقیدہ نہیں رکھتے تو قوع کذب باری کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ البتہ ہم اس کی قدرت کاملہ کے اظہار میں اس طرزِ نگارش و اسلوب بیان کو قابلِ نہمت ہی نہیں جانتے بلکہ اس میں نفرین و ملامت کرتے ہیں۔ جس میں

انبیاء و رسول کی توبین و تنقیص کا شاید تک ہو جائے۔ مثلاً اگر کوئی خدا کی قدرت اس طرح بیان کرے کہ..... "اللہ کی قدرت سے بعد نہیں اگر وہ چاہے تو محمد جیسے کروڑوں محمد پیدا کر دے۔"

هم اس انداز بیان کو ابلیسی داؤں پیچ سے تعبیر کرتے ہیں اور ایسے بے لگام و بذریمان مؤلفین کو ابلیسی دسترخوان کا خوشہ چیس تصور کرتے ہیں یہ وہی شیطانی حرب ہے جسے اس نے سجدہ آدم سے روگردانی و سرتابی کرتے ہوئے استعمال کیا تھا جس کی پاداں میں ہمیشہ کے لئے اس کے گلے میں لعنت کی طوق ڈال دی گئی۔ اور قرآن حکیم نے کھلے بند کہہ دیا۔

(أَبْيَ وَاسْتَكِبْرَ وَكَانَ مِنَ الْكُفَّارِينَ ﴿١﴾)

اس لئے ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ ہم سید عالم روحی فدا ہیں ﷺ کی ذات والاصفات کو "مکن العظیر" جانتے و مانتے ہیں اب ان کے مثل پیدا ہونا محالات سے ہے لہذا ہم عقیدہ امکان نظری کو باطل جانتے ہوئے مسلکہ امتنا ع نظری کو صحیح، مبرہن اور مدلل سمجھتے ہیں جس کی روشن اور واضح دلیل آیت ختم نبوت ہے۔

(مَا كَانَ مُحَمَّدًا أَبَا أَحَدٍ مِنْ زَوْجَ الْكُمْ وَلِكُنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّنَ ﴿٢﴾)
غرض کہ رسول خدا کو خدا نہ کہہ کر ہم ذات خدا سے جدا بھی نہیں سمجھتے جیسا کہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عن فرماتے ہیں۔

تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو
اللہ کو معلوم ہے کیا جانے کیا ہو

حاصل کلام یہ ہے کہ خدائے وحدۃ لاشریک کے بعد عالم خلق میں جن فضائل و مکالات کا تصور کیا جاسکتا ہے ان تصورات سے بھی کہیں زائد فضل و مکال کا انہیں مجموعہ جانتے ہوئے خلاصہ کائنات تصور کرتے ہیں حالانکہ اس عالم امکان میں جس کو جو کچھ ملا ہے بوسیلہ مصطفیٰ ہی ملا ہے۔ اور انیاء و رسول میں جو خوبیاں علیحدہ علیحدہ پائی جاتی تھیں وہ سارے حasan بیک وقت آپ میں پائے جاتے ہیں۔ اسی لئے کہا گیا ہے۔

حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاء داری
آنچہ خوبیاں ہمہ دارند تو تنہا داری
ذات والاصفات میں کسی نقص کا پایا جانا تو درکنار ہم کسی نقص کا تصور کرنا
بھی مقتضائے ایمان کے خلاف جانتے ہیں۔ ان کی شان تو یہ ہے۔

آفاقہا گردیدہ ام مهر تباہ در زیدہ ام
بسیار خوبیاں دیدہ ام لیکن تو چیزے دیگری
ای لئے سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں۔

وہ کمال حسن حضور ہے کہ گماں نقش جہاں نہیں
یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں

خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ ہم سرور کوئین سید عالم روحی فداہ ﷺ میں جس قدر بھی فضائل و مکالات مانتے ہیں وہ سب خدا ہی کا بخششا اور عطا کر دہ وہ دور و نزدیک سے سنتے ہیں، ہماری دشگیری فرماتے ہیں، وہ پکارنے والوں کی مدد فرماتے ہیں۔ وہ اپنی قبر مبارک میں جسم اطہر کے ساتھ زندہ ہیں وہ علم غیب کا

خزانہ رکھتے ہیں، ان پر جوڑ رو دشیریف بھیجا جاتا ہے اُسے فرشتے آپ کی بارگاہ میں حاضر کرتے ہیں اور جو درود محبت سے بھیجا جاتا ہے سرکار اُسے خود سنتے ہیں۔ جو رسول اللہ کی قبر کی زیارت کرے گا اس پر سرکار کی شفاعت واجب ہوگی، سرکار دو عالم کو مقام محمود عطا کیا گیا۔ آپ ہی کے شفاعت کبریٰ کا مقام حاصل ہے۔ آپ شفیع مبشر بھی ہیں اور ساقی کوثر بھی، قبر میں انہیں کو پیچاننا ہے جس کے بعد عذاب قبر سے نجات ملے گی۔ قبر کی تاریک کوٹھری جہاں ماں باپ کے پیار محبت کی پر چھائیں تک نہ پڑ سکے وہاں سرکار ہی منس و چارہ ساز ہوں گے۔ پروردگار نے آپ کو معراج جسمانی عطا فرمائی۔ معراج کی شب مسجدِ قصیٰ میں آدم سے لے کر تین علیهم السلام تک تمام انبیاء و رسول نے آپ کی اقدامیں نماز ادا کی۔ آپ اس وقت مقام نبوت پر فائز تھے جب کہ حضرت آدم کا خیر آب دگل کے درمیان تھا، عالم ارواح میں پروردگار نے تمام انبیاء و رسول سے آپ پر ایمان لانے اور آپ کی اطاعت (اگر آپ کا زمانہ پا جائیں) کا عہد و پیمان لیا جس پر آیت یثاثق شاہدِ عدل ہے۔

سب سے پہلے خدا نے آپ ہی کے نور کو پیدا فرمایا اور ساری کائنات کو آپ کے نور سے اور سرکار کو اپنے نور سے جیسا کہ حدیث قدسی میں یہ بھی ہے کہ ”اے محبوب! اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو زمین و آسمان اور ساری کائنات کو پیدا نہ فرماتا۔“

خاکدان گتی میں جلوہ گرنے سے پہلے حضرت مسیح نے آپ کی ولادت باسعاوات کا خطبہ ان الفاظ میں پڑھا۔ ﴿مَسْتَعْلِمٌ بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ دِي

اسمہ، احمدؑ وقت ولادت فرشتوں نے آپ پر سلام پڑھا، خانہ کعبہ کے بت سر کے بل اوں دھے گر پڑے، ایوان کسریٰ سرگوں ہوا۔ شوکت قصری پیوند خاک ہوئی۔ کائنات نے جھوم جھوم کر درود وسلام بھیجا بعد ولادت پر وردگارنے بارہا آپ کے میلا دمبارک کا ذکر کیا۔ اور آپ پر درود وسلام بھیجنے کا حکم دیا۔ اسی لئے غلامانِ مصطفیٰ ﷺ میلا دشیریف اور درود وسلام کو سنت الہیہ سمجھ کر کرتے اور پڑھتے ہیں۔

اب آپ شرکِ بدعت، میلا دوسلام و قیام، عرس و فاتحہ وغیرہ کے مباحث ملاحظہ فرمائیں درود وسلام پر ایک شعر آپ کی نظر ہے۔

میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے
کھلے آنکھِ صل علے کہتے کہتے



﴿شُرُكٌ وَّ بَدْعَةٌ﴾

شُرُكٌ وَّ بَدْعَةٌ کا مفہوم سمجھنے سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ اس کے استعمال میں دیوبندی کی تکنیک کیا ہے؟ ”اکابر دیوبندی کی کفری عبارات پر جب علماء اہل سنت اور علماء حرمین طہبین نے ان کی تکفیر کی اور خارج اسلام قرار دیا تو علماء دیوبند نے جذبہ انتقام سے بھر پورا پنی منتظم سازش کے تحت یہ طے کیا کہ اس کا بدلہ کس طرح لیا جائے۔ چنانچہ وہ عقائد اہل سنت کی کتابوں کی چھان پھٹک میں لگ گئے اور انہوں نے سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اساساطین اہل سنت کی کتابوں کا ورق ورق کی سطر، سطر دیک کی طرح چانشا شروع کیا مگر جب اس میں انہیں کچھ نہ مل سکا تو ماہی کے بعد انہوں نے سنی عوام کے کردار عمل کا جائزہ لیا اگر اعراس وغیرہ میں انہیں کچھ خامیاں نظر آئیں۔ تو چھانس کو بانس اور رائی کو پربت بنا کر پیش کیا حتیٰ کہ مزار کی چادر چونے کو وجودہ سے تعبیر کیا۔ چنانچہ دھیرے دھیرے اس ہنگامے کو قیامت صغری بنا کر سنیوں کو قبر پرست اور قبر پکو کہنا شروع کر دیا اور سمجھی بوجھی ایکیم کے تحت اس پر شُرُک جیسے ناقابل معافی جرم کی چھاپ لگادی۔ حالانکہ یہ سراسر الزام اور بہتان ہے۔ ”چونکہ پروپیگنڈے کی مشینری تیز تھی اس لئے یہ فتنہ آندھی اور طوفان کی طرح اٹھا اور وہ عوام جن کے دلوں میں حرمت انبیاء اور عظمت اولیاء کے خلاف چھپا ہوا چور تھا۔ اب وہ نوک قلم و نوک زبان پر آگیا۔ عوام کی اس حوصلہ افزائی نے بڑھا وادیا پھر تدریجی ترکش کا یہ تیر میلا دسلام، قیام نیاز و فاتحہ وغیرہ پر برنسے لگا۔ ”حتیٰ کہ مباحثات و مسحتات کو شُرُک اور بدعت ضلالہ کہنا شروع کر دیا، ”اب سنی عوام کی۔ تی

بھی رسم ہو وہ دیوبند کی نظر میں دو حال سے خالی نہیں یا تو شرک ہے یا بدعت!.....
 یہ صرف اس جلاپے کا نتیجہ ہے کہ ان کے کفریات کا مواخذہ و محاسبة کیوں کیا گیا!
 علمائے دیوبند کی خواہش تھی کہ انہیں ایک بے لگام شرابی کی طرح چھوڑ دیا
 جائے تاکہ وہ رسول خدا کے خلاف جوز ہر بھی اگنا چاہتے اگلتے رہتے لیکن آگے
 بڑھ کر کوئی ان کی کلامی نہ تھام سکے۔ مگر شکر ہے اس خدائے قدیر کا جس نے مجدد
 دین و ملت اعلیٰ حضرت سیدنا امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی اپنی ایک نعمت عطا
 فرمائی جس بوریہ نشین مرد درویش نے اپنے زور قلم سے شرق و غرب، عرب و جنم
 میں ایک تہبلکہ مجا دیا، اور دیوبند جو توہین نبوت جیسے نشین جرم کو نشان سجدہ، لمبی
 داڑھی، لمبے دامن پر چھپا رکھا تھا۔ نیچ چورا ہے پر اس کا بھانڈا اپھوڑ دیا۔ حتیٰ کہ دن
 کے اجائے ہی میں نہیں بلکہ ان کی سکروہ و گندہ صورت رات کی تاریکی میں پیچانی
 جانے لگے اگر علماء دیوبند روز اول اپنی کفریات سے رجوع کر کے توبہ کر لیتے تو
 اختلاف کی خلیج اس قدر نہ بڑھتی۔ جس آگ کے بھڑکتے شعلوں میں نہ جانے
 کتنوں کا دامن سلگ رہا ہے۔

اس مقام پر پہنچنے کے بعد ہم مقدمات کو مثل عوام کے کورٹ میں پیش کر کے
 خود عوام ہی کا فیصلہ سننا چاہتے ہیں۔ اب آنے والی سطروں کو پڑھنے کے لئے
 اپنے آپ کو سنجھاں لیجئے۔

پوری دنیا یو دیوبند کے پیشووا مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب
 حفظ الایمان میں لکھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ..... رسول خدا کو تھوڑا سا علم غیب ہے
 اگر ایسا ہے تو اس میں رسول اللہ کی کیا تخصیص، ایسا علم تو ہر جانور، پاگل، بجنور اور

نچے سمجھی کو حاصل ہے۔

ہم اہل سنت اور ہر خوش عقیدہ مسلمانوں کا کہنا ہے کہ اس عبارت میں تو ہیں نبوت ہے جو موجب کفر ہے۔ (اس کی تفصیل دیکھنی ہو تو میری کتاب ”خون کے آنسو“ کا مطالعہ کیجئے)۔

ایسے ہی مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا خلیل احمد نبیٹھوی نے براہین قاطعہ میں یہ کہا۔ جس کا مفہوم یہ ہے کہ۔

”شیطان کے علم کی زیادتی تو قرآن سے ثابت ہے مگر فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم
کے ”وَسْعَتْ عِلْمُ“، یعنی زیادتی علم کی کوئی نفس ہمیں قرآن میں نہیں ملتی
”الْعِيَادَةُ بِاللَّهِ مِنْ ذَالِكَ“

اسی طرح تقویۃ الایمان مؤلفہ مولوی اسماعیل دہلوی میں:

”رسول خدا کو گاؤں کا چوبہ دری، گاؤں کا زمیندار، مرکرمٹی میں ملے والا، جس کا نام محمد یا علی وہ کسی چیز کا مختار نہیں، رسول خدا کو دیوار کے پیچے کی خبر نہیں وغیرہ وغیرہ“

جیسی ہفوتوں و خرافات لکھ کر اپنا نامہ عمل سیاہ کیا.....حوالہ جات کی اصل عبارات دیکھنی ہوں تو مری کتاب ”خون کے آنسو“، ”انکشافات“، ”قہر آسمانی“، وغیرہ کا مطالعہ کیجئے، میں اس وقت چند تقریری پروگرام پر بھدوہی آیا ہوا ہوں عقائد نبرکی کا پیاس پر یہیں اس لئے نہیں جا رہی ہیں کہ ابھی تک میں اپنا مقدمہ و پیش لفظ دار مصنفوں کو نہیں دے سکا اس لئے شب میں تقریری پروگرام کے بعد دن کے حصے میں کچھ لکھ لیتا ہوں چونکہ کتابیں میرے ہمراہ نہیں ہیں اس لئے

اصل حالہ جات کے لئے اپنی کتابوں کی طرف آپ کو رجوع کر رہا ہوں۔

علماء دیوبند کی چند عبارات کا مفہوم پیش کرنے کے بعد میں اب خود عوام کا فیصلہ چاہتا ہوں آیا یہ عبارتیں قابل موافذہ ہیں یا نہیں؟ ہیں اور یقیناً ہیں۔ تو اس پر چراغ پا ہونے کی بجائے اکابر دیوبند کو سمجھیگی سے غور کرنا چاہئے ان کتابوں میں آپ نے سنیوں کے باپ دادا کو گالیاں نہیں دیں۔ بلکہ آپ تاجدار عالم ﷺ کی بارگاہ کے گستاخ و بے ادب ہیں۔ جن کا ادب و احترام عین ایمان ہے۔ ایسے تینیں حالات میں اگر علماء اہل سنت نے رجوع اور توہبہ کی تلقین کی تو برہم ہونے کی بجائے احسان مند ہو کر شکر گزار ہونا چاہئے تھا ذینیا میں ایسی مثالیں کم ملتی ہیں کہ کوئی اپنے محسن ہتی پر آنکھیں لال پیلی کرے۔ اس جرأت و ڈھنٹائی کی چلتی پھرتی تصویر دیوبند اور صرف دیوبند ہے۔

اپنے اس مجرمانہ کروار کے بعد دیوبندیوں نے اپنی بچت کی دوراہ اختیار کیں..... اولاً تو یہ کہ سنیوں کو بدعتی "مشرك" اور قبر پجو اکہہ کر بدنام کرنا شروع کیا، اور ثانیاً یہ کہ روزہ، نماز میں ریا، دکھاوائی نمائش تیز کر دی تاکہ لوگ ہماری نمازوں کو دیکھ کر ہماری لفڑیات اور عقیدے کی گندگی کو بھول جائیں حتیٰ کہ دھیرے دھیرے کلہ اور نماز کی ایک چلتی پھرتی جماعت ہی بنا ڈالی..... واضح رہے دیوبندیت روزہ نماز اور اتباع سنت کو نہیں کہتے بلکہ توہین نبوت جیسے کوڑھ اور کینسر کا دوسرا نام دیوبندیت ہے۔

چنانچہ ہم اسے پوری برملائیت سے کہہ سکتے ہیں کہ دیوبندیت اپنے گندہ عقائد اور اپنی توہین آمیز عبارتوں سے نہیں پچیل رہی ہے بلکہ اتباع سنت کے

کھو کھلنے کے اور سجدوں کی نمائش میں پھل پھول رہی ہے۔ کاش! عوام کو صحیح احساس ہوتا اور دیوبندی عقائد کا غیر جانبدارانہ جائزہ لے کر حقائق کی کسوٹی پر پر کھتے!..... اگر ذہن نے اُسے قبول کر لیا ہے تو اب شرک و بدعت کا ایک اجمالی خیال پیش کیا جاتا ہے۔

شرک : اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی بھی مخلوق کو شریک تھہرانا اسی کو شرک کہتے ہیں۔

اللہ کی ذات میں شریک گردانے کا مقصد یہ ہے کہ الہ و معبدو کی وہ ذات جو وحدہ لا شریک ہے ایک کے بجائے دو یا چند معبود کو مانا جائے اسی کو شرک فی الذات کہتے ہیں اور ایسی صفات جو خداۓ بزرگ و برتر ہی کے لئے خاص بعینہ انہیں صفات کو کسی اور بندے میں مانا اس کو شرک فی الصفات کہتے ہیں اور شرک ہی ایک ایسا جرم و پاپ ہے جس سے نچنے کی قرآن مجید میں بار بار تاکید ہے۔

علماء دیوبند کی یہ ایک سمجھی بوجھی اسکیم ہے کہ سنی معمولات و مراسم پر مکروہ یا گناہ کی چھاپ نہ لگائی جائے بلکہ ایسی فرد جرم عائد کی جائے کہ جس کے سنتے ہی کلیج کا نپ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ خوش عقیدہ مسلمان اللہ کے ولیوں کے آستانے پر جاتا ہے تو دیوبندی دھرم اسے شرک سے تعبیر کرتا ہے۔ اس مقام پر میں پوری دنیا دیوبند کو چیخ کرتا ہوں کہ وہ بتائے۔

1: ”قبر بنانا شرک ہے۔“ یا ”قبر پر گنبد بنانا شرک ہے۔“ یا ”قبر پر چادر چڑھانا شرک ہے،“ یا ”قبر پر پھول ڈالنا شرک ہے۔“ یا ”ایصال ثواب شرک ہے،“ یا ”قبو چادر کا چومنا شرک ہے،“ یا ”اگر تی سلگانا شرک ہے،“ یا یہ کل کے کل

شرک ہیں۔ لہذا قبر پر جانا شرک ہے۔

:2 یا ان میں تو کوئی بھی شرک نہیں ہے مگر اس کا مجموعہ شرک ہے۔

:3 یا ان میں سے کچھ درست ہیں اور کچھ شرک ہیں مگر غیر شرک و شرک کا مجموعہ شرک ہے۔

بہر حال بظاہر اس کی یہی تین صورتیں ہیں۔ آب علماء دیوبند کو چھوٹ ہے کہ وہ ان تینوں صورتوں میں سے کسی کی بھی نشاندہی کر دیں۔ یعنی جملہ مراسم شرک ہیں۔ یا ”کچھ بھی شرک نہیں ہیں۔“ یا ”کچھ غیر شرک اور کچھ شرک ہیں۔“ واضح رہے شرک کسی ایک فرد سے متعلق نہیں ہوتا شرک کو شرکت چاہئے۔ اس کے لئے کم از کم دو فردا کا ہونا ضروری ہے۔ مثلاً اگر قبر پر گنبد بنانا شرک ہو تو اس سے قبل اس قبر کو معین کرنا ہو گا کہ اس اسی پر گنبد بنانا درست ہے۔ اگر کسی اور بھی قبر پر گنبد بنے گا تو شرک ہو جائے گا ایسے ہی اگر چادر چڑھانا یا پھول ڈالنا وغیرہ، شرک ہو تو بھی کسی قبر کو معین کرنا ہو گا کہ اس اسی قبر پر چادر ڈالی جائے یا پھول ڈالا جائے اور اگر یہ رسم کسی اور قبر پر ادا کی گئی تو شرک ہو جائے گا۔ ان تشریحات و توضیحات کے بعد اب ہم بری الدمہ ہو گئے۔ البتہ یہ علماء دیوبند کی ذمہ داری کو چیلنج ہے کہ وہ اپنے دعوے کی دلیل میں کسی ایسی قبر کا پتہ بتائیں جہاں یہ جملہ مراسم درست ہوں اور وہاں کے علاوہ دوسری قبر پر شرک ہو جائیں۔ ﴿هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ہر مسلمان اسے بخوبی جانتا ہے کہ خدا نے جی و قیوم کے لئے موت نہیں! جب موت نہیں تو قبر نہیں! اور جب قبر نہیں تو چادر نہیں۔ معلوم ہوا یہ تمام چیزیں خدا کے لئے نہیں ہیں بلکہ محبوب خدا کے لئے ہیں۔ اب ایک واضح حقیقت

کا انکار گویادن کے اجائے میں طلوع آفتاب کا انکار ہے۔

اتنی واضح اور روشن دلیل کے بعد اسے ضد، بہت دھرمی اور کث جحتی نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے۔ یہ صرف طبقاتی تقسیم اور اگر وہ بندی کا نتیجہ ہے۔

بدعت: اس کا مادہ ہے۔ ”بدع“ جس کے لغوی معنی ہیں کسی ایسی نئی چیز کا ایجاد کرنا جس کی مثال و نظیر نہ ہو چنانچہ ”مرقات“ کے مصنف مولانا فضل امام خیر آبادی [1] نے اسی رعایت سے خطبہ میں یہ فرمایا ہے۔

”الحمد لله الذي ابدع الافلاك والارضين“

تمام تعریف ثابت ہے اس اللہ کے لئے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو۔

چونکہ اس سے پہلے آسمان اور زمین کی کوئی نظیر اور مثال نہیں تھی اسی لئے ”ابدع“ فرمایا۔ لیکن اصطلاح شریعت میں بدعت کی دو قسمیں ہیں۔

1: بدعت حسنة اور 2: بدعت سیئہ

بدعت حسنة کی تعریف یہ ہے کہ اسلام میں کسی ایسی نئی چیز کا ایجاد کرنا جس سے اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ اور قوت پہنچ۔ اور

بدعت سیئہ کہتے ہیں ”ضد السنۃ“ کو جو کسی سنت کی ضد ہو اور اس کو بدعت ضلالہ بھی کہتے ہیں جس کے متعلق سرور کوئین روحی فدا صلوات اللہ علیہ و آله و سلم نے فرمایا۔ ”کل بدعة ضلالة“ یعنی بدعت سیئہ کی جتنی بھی اقسام ہیں ان سب کو بدعت

[1] یہ حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی کے والد ماجد ہیں علیہ الرحمہ الرضوان

ضلالہ ہی کہا جائے گا۔

گویا بدعت حنفیہ بدعت کی ایک الگ تھلک قسم ہے بدعت ضلالہ سے اس کا کوئی رشتہ و تعلق نہیں۔ بعض لوگ جو یہ ذہن دینا چاہتے ہیں کہ عہد رسالت یا قرون ثانیہ کے بعد اسلام میں جو بھی نئی چیز ہو گی وہ بدعت ضلالہ ہے۔ یہ ان کا سراسر فریب ہے یا تو وہ خود فریب خور وہ ہیں یاد یہ دانستہ امت مسلمہ کو فریب دینا چاہتے ہیں۔

دوستو! بات عہد اور قرآن کی نہیں ہے بلکہ اصل شے اور واقعہ کی ہے دیکھنا یہ، وہ گاہ نفس الامر میں اس شے کی حیثیت کیا ہے۔ خیر القرون ہی کی کوئی بات اگر اسلام و سنت کے خلاف ہو گی تو اسے گلے کا بارہہ بنایا جائے گا بلکہ اسے پاؤں سے روندا اور پا عمال کیا جائے گا ایسے ہی صد یوں گذرنے کے بعد اگر کوئی ایسی نئی چیز ہو جس سے اسلام و مسلمانوں کو فائدہ پہنچے تو اسے پاؤں کی ٹھوکرنہ ماری جائے گی بلکہ اسے خوش آئندہ کہہ کر کلیج سے لگایا جائے گا۔ اب ضابطے کو آپ مثالوں کے ذریعہ سمجھئے۔

مثلاً سید الشہداء سبط پیغمبر نواسہ رسول حضرت امام عالی مقام سرکار حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مسئلہ ہر چند یہ مدتی تھا اور بہت سے اجل صحابہ اس عہد میں اپنی حیات ظاہری میں تھے وہ تو خیر القرون کا تھا لیکن کیا اس رعایت سے قتل حسین کو جائز و مباح قرار دیا جاسکتا ہے۔ العیاذ باللہ من ذالک۔ سیدنا امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختلاف روایت کی بنیاد پر کف لسان فرمایا مگر

اممہ مجتهدین میں بعض نے یزید کی تکفیر تک کی ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ جو امور عہد رسالت کے بعد ہیں وہ بدعت ضلالہ ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ بات وہی درست ہے کہ اصل شے کو دیکھا جائے گا۔ اگر وہ کسی سنت سے مراحم نہیں ہے تو اسے بدعت حسنہ کہا جائے گا ورنہ بدعت ضلالہ..... اگر ہر بدعت ضلالہ ہی ہوتی تو تراویح کے مسئلہ میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ”نعم البدعت“ نے فرماتے۔ بدعت کو بہترین بدعت فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہر بدعت ”بدعت ضلال“ نہیں ہوتی..... عارف حق حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مکتوبات کی کسی دفعہ میں فرمایا ہے۔ کہ بدعت کی کوئی قسم نہیں جس سے علماء دیوبند یہ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں کہ مجدد صاحب کی نظر میں ہر بدعت ”بدعت ضلال“ ہے..... حالانکہ اس کا مفہوم نہیں ہے بلکہ مجدد صاحب علیہ الرحمہ کا فرمانا ہے کہ..... بدعت حسنہ بھی سنت ہی کی ایک قسم ہے لہذا جائے بدعت حسنہ کے اسے سنت کہا جاسکتا ہے۔..... یہ قول ہمارے حق میں زیادہ مفید ہے نہ کہ ان کے حق میں اور خود دیوبند کی چہار دیواری میں آج ایسے معمولات و مراسم مروج ہیں جن کا عہد رسالت میں کوئی وجود نہیں تھا جیسے ختم بخاری شریف حوالہ کیلئے فتاویٰ رشیدیہ ملاحظہ فرمائیے۔

عہد رسالت میں جب بخاری شریف ہی کا وجود نہیں تھا تو ختم بخاری کا کیا سوال؟ معلوم ہوا اسلام میں جب کوئی نئی چیز داخلہ لیتی ہے خواہ ثابت پہلو سے یا منقی پہلو سے اس کی دو صورت ہوگی یا تو اس میں حسن ہو گا یا فتح!..... اسی لئے سید عالم روحي فداہ علیہ السلام نے فرمایا ہے۔

”مَنْ سَنَ سُنَّةً حَسَنَةً الْخُ ، مَنْ سَنَ سُنَّةً سَيِّئَةً الْخُ“

یعنی جس نے اچھا طریقہ ایجاد کیا تو وہ اس پر عمل کرنے والے دونوں ہی مسخر اجر و ثواب ہیں اور جس نے بد اطریقہ ایجاد کیا تو وہ اور اس پر عمل کرنے والے دونوں ہی لاکن زجر و تو سخی ہیں۔

یہ حدیث اس باب میں حرف آخر کی حیثیت رکھتی ہے کہ ہر نئی چیز کو بدعت ضلالہ نہیں کہا جا سکتا۔

اب اسی کسوٹی پر میلا دو سلام و قیام وغیرہ کو پر کھا جائے گا۔ ورق اللئے اور دوسرا مباحث کو ملاحظہ فرمائیے۔



﴿علم غیب﴾

نہ پوچھئے وقت کی فتنہ سامانیوں کا عالم!..... مسئلہ علم غیب بھی اختلافات کی لست میں سرفہرست ہے۔

ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے محبوب سرور کو نین رو جی فداہ ﷺ کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے۔ مگر اسی کے ساتھ حدود ادب میں رہتے ہوئے اس کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ترازو و پیمانہ نہیں جس میں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم مبارک کو تو لا جاسکے!..... بس اس بارے میں ہمارا آخری فیصلہ یہ ہے کہ دینے والا پروردگار جانے یا لینے والے احمد مختار..... سرور کو نین یہ جانتے تھے اور وہ نہ جانتے تھے۔ اس کہنے کو ہم گستاخی و بے ادبی تصور کرتے ہیں۔ گویا چھوٹا منہ اور بڑی بات! اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ پیغمبر خدا کا علم ہمیں معلوم ہو یا نہ معلوم اور یقیناً نہیں معلوم لیکن وہ علم خواہ کتنا ہی وسیع ہو وہ سب خدا ہی کا دیا ہوا ہے۔ اس لئے بطور نتیجہ ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کا علم ذاتی ہے اور سرکار دو عالم کا عطا تی۔ چنانچہ ہم خدا کو عالم الغیب کہتے ہیں اور سید عالم کو عالم غیب ہمارے اس عقیدے پر آیات قرآنی و احادیث نبوی شاہدِ عدل ہیں۔ مثلاً۔

﴿وَعَلِمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾

(سورہ نساء ب ۵ درکوع ۱۷)

اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔

ایسے ہی دوسری جگہ ارشاد ہے۔

(سورہ کوثر ب۔ ۰۷ کوוע ۱)

﴿وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَعْفٍ﴾

اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔

تیرسی جگہ ارشاد ہے۔

﴿عَالَمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظَهِّرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ﴾

(سورہ جن ب۔ ۲۹ دکوع ۲)

غیب کا جاننے والا تو اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں فرماتا سو اپنے پسندیدہ رسول کے۔

ایسے ہی علم غیب کے ثبوت میں بہت سی احادیث ہیں جن کو گھیرا جائے تو ایک وقت چاہئے قرآن حکیم کی چند شہادتیں اس لئے حاضر کر دیں گئیں تاکہ قلب و ذہن کاطمینان حاصل ہو جائے۔

علم غیب سے متعلق منکرین علم غیب کے متعدد اقوال ہیں جس میں بے حد تناقض و تضاد ہے کسی کا کہنا ہے۔

”رسول خدا کو علم غیب نہیں تھا۔“

کسی نے یہ کہا۔

”اگر خدا کے دینے سے بھی رسول خدا کو علم غیب مانا جائے تو بھی شرک ہے۔“

کسی نے لکھا کہ :

”سرور کو نہیں کو دیوار کے پیچے کی خبر نہیں تھی۔“

اور مولا نا تھانوی نے تو یہاں تک لکھ دیا جس کا مفہوم یہ ہے کہ۔

”پیغمبر اسلام کو کل علم غیب نہیں تھا بلکہ تھوڑا سا تھا اور اگر بعض علوم

غیریہ حاصل ہیں تو پھر اس میں رسول اللہ ہی کو کیا تخصیص ایسا علم تو ہر جانور، پاگل، بچے سمجھی کو حاصل ہیں۔ "العياذ بالله من ذالک۔"

یہی وہ ناپاک و گندہ تصور ہے جس پر آئے دن مبارحے اور مناظرے ہوتے رہتے ہیں اس سلسلہ میں یہ بات واضح رہے کہ قرآن مجید کی وہ آیات جن سے علم غیب کا انکار ہوتا ہے اس سے مراد علم غیب ذاتی کا انکار ہے یعنی خدا کے سو اکسی کو بھی علم غیب ذاتی نہیں ہے۔ اور وہ آیات قرآنی جن سے علم غیب کا ثبوت ہوتا ہے اس سے مراد علم غیب عطائی ہے۔

حیرت ہے اس قوم پر جوانبیاء سابقین کے لئے تو علم غیب مانتی ہے مگر اپنے نبی کے متعلق جنگ و جدال کرتی ہے۔ جیسا کہ حضرت مسیح فرماتے ہیں۔

(أَنِّينُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخُلُونَ فِي بَيْوَتِكُمْ)

میں تمہیں بتاؤں گا جو تم لوگ کھا کے آتے ہو اور اپنے گھروں میں جو کچھ جمع کر کے آتے ہو۔

آج تک دیوبند نے اس کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کیا کہ غیب کا جاننا اور بتانا تو خدا ہی کی شان ہے یہ حضرت مسیح کو کیسے خبر ہو گئی۔ ہم انصاف پسند دنیا سے سوال کرنا چاہتے ہیں کہ آج کے وہ کلمہ گو جو اپنے نبی کا علم غیب مانا شرک صحیح ہے، وہ حضرت مسیح کے علم غیب پر ایمان لانے کے بعد کس طرح موحد رہ گئے؟ کلمہ اور نماز کی آڑ میں کہیں ایسا تو نہیں کہ عیسائی مشینری کی تبجیبی و دلالی کا پاٹ ادا کیا جا رہا ہے۔ "فَاعْتَبِرُوا يَا أُولَى الْأَبْصَارِ"



﴿میلاد، سلام و قیام﴾

میلاد شریف کو ہم اہل سنت غلاموں کی طرف سے اپنے آقا کی بارگاہ کرم میں خراج عقیدت تصور کرتے ہیں نہ تو اسے ہم فرض کہتے ہیں اور نہ واجب۔ ہم اسے مہمات دین میں شمار نہیں کرتے البتہ ایوان اسلام کے یہ وہ نقش و نگار ہیں جس کو دیکھ کر ایک اجنبی آنکھ بھی یقین کر لیتی ہے کہ کسی خوش عقیدہ کی زینت نگاہ ہے کسی عمارت کا پرچم اس عمارت کا جز نہیں ہوتا لیکن یہ جھنڈا بہت ذور سے خبردار کر دیتا ہے۔ کہ اس میں کسی مکتبہ فکر کا نظام حیات مرتب ہوتا ہے۔

قرآن حکیم میں پروردگار عالم نے بارہا اپنے محبوب کے میلاد کا ذکر فرمایا ہے۔ سرکار کی آمد سے پیشتر حضرت مسیح نے بشارت دی تھی۔ ﴿یا تُنِّی مِنْ بَعْدِی اسْمَهُ أَخْمَدُ﴾ میلاد شریف ایک ذکر خیر ہے جس کے ذریعہ مسلمانوں کو طہارت نماز روزہ، حج و زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل معلوم ہو جاتے ہیں ایسے ہی عمل صاحب کی تلقین کی جاتی ہے۔ اور برائیوں سے اجتناب و پرہیز کی ہدایت ایک ایسا کار خیر جو عام مسلمانوں کے لئے رشد و ہدایت کا ایک روشن مینارہ ہوا سے کہیا کے جنم کا سوانگ کہہ کر اس سے نفرت و برگشٹگی کی ایک مسموم فضا پیدا کرنا..... یہ اسلام و مسلمان دشمنی نہیں تو اور کیا ہے؟

حاجی امداد اللہ مہاجر جملی جو اکابر دیوبند کے پیر و مرشد ہیں۔ اس مسئلہ میں ان کی کتاب ”فیصلہ ہفت مسئلہ“ ایک نہ جھٹائی جاسکنے والی وسٹاویز ہے۔ جس فیصلے کے رو برو پوری دنیا دیوبندیت مجرموں کے کثیرے میں کھڑی کر دی گئی ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر جملی سے میلاد، سلام و قیام عرس، فاتحہ وغیرہ سے متعلق سات

سوالات کئے گئے تھے جس کا جواب فیصلہ ہفت مسئلہ کے نام سے چھپ چکا ہے۔
 حاجی صاحب فرماتے ہیں..... جس کا مفہوم یہ ہے۔

”فقیر کا مشرب یہ ہے کہ محفل مولود میں شریک ہوتا ہے اور ذریعہ برکات بھج کر محفل مولود منعقد کرتا ہے اور کھڑے ہو کر سلام پڑھنے میں کیف ولڈت محسوس کرتا ہے۔“

پیر و مرشد کے اس فیصلے کے بعد دیوبندیوں کی زبان گذی سے کھینچ لی گئی ہے۔ اب اس کے خلاف ان کی جس قدر بھی بکواس ہے وہ کھسیانی بلی کھمانوچ کی آئینہ دار ہے۔

حاجی صاحب کے اس فیصلے میں سلام و قیام کی حقیقت بھی روشن ہو گئی۔ وہ محفل مولود میں بعض سلام پڑھنے کے قائل نہ تھے بلکہ کھڑے ہو کر سلام پڑھتے۔ میا اور شریف میں سلام و قیام حاجی صاحب کا ایک ایسا عمل ہے جو۔ ”خلف“ و تا خلف کی کسوٹی بن گیا ہے۔ علاوه ازیں آیت درود میں نعمتو، بدھو، خیر و کو درود و سلام پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ بلکہ ایمان والوں کی قید گئی ہے۔ جس قید نے واضح کر دیا کہ جو مومن ہو گا وہ بغیر کسی قیل و قال کے صلوٰۃ و سلام پڑھے گا چونکہ غیر مومن خود ہی جانتا ہے کہ مجھے حکم ہی نہیں دیا گیا اس لئے اس کے صلوٰۃ و سلام پڑھنے کا سوال بھی نہیں ہوتا اس کے انکار نے خود اس کی پوزیشن واضح کر دی کہ وہ اس حکم کا مخاطب ہی نہیں ہے۔ رہ گیا قیام چونکہ ”سلموا“ کے ساتھ ”تسلیما“ اس کا مفعول مطلق بطور تاکید لایا گیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ صرف سلام ہی نہ تیجو بلکہ ایسا سلام جو ان کی شان کے لائق ہو۔ لہذا ایشنا، کھڑے ہونے

میں قیام ہی ایک ایسی کیفیت ہے جس میں احترام و عظمت کا عمل اظہار ہوتا ہے۔ اس لئے قرآن مجید کے اس مفہوم کی رعایت کرتے ہوئے اہل سنت و جماعت نے وہ قیام جو مباح تھا اسے مستحب و محسن قرار دیا تاکہ ”تسليما“ کی قید پر عمل در آمد ہو جائے۔ جو اظہار عظمت کا ایک ذریعہ ہے۔ علاوه ازیں قرآن میں جہاں سلام پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس میں لیٹنے، بیٹھنے کھڑے ہونیکی کوئی قید نہیں ہے جس کا ظاہر اور واضح مفہوم یہی ہے کہ سلام پڑھنے والے کو اختیار ہے وہ جس طرح چاہے پڑھے۔ قرآن کے اس دینے ہوئے اختیار پر اب پھرہ بھانے والا کون ہے۔ کہ کھڑے ہو کر سلام نہ پڑھا جائے۔ اصول فقہ کا یہ دستور ہمارے حریف کو بھی مسلم ہے کہ ”اصل اشیاء میں اباحت ہے“ جس کی حلتو حرمتو حیثیت جو از و عدم جواز سے متعلق شریعت کی زبان خاموش ہے وہ اپنے اصل میں مباح ہے۔ قیام جیسی مباح شے کو روکنا گویا شرعی امور میں اپنی غاصبانہ ٹھیکیداری کو رواج دینا ہے۔ فقهاء کرام نے اس کی بھی صراحة فرمائی ہے اگر مباح جیسی چیزوں کے منعین پیدا ہو جائیں تو اس کی حیثیت مباح ہی کی نہیں رہ جاتی بلکہ وہ واجب کی حدود کو چھو لیتی ہے گویا اس کی حیثیت اگر واجب کی نہیں تو کالو واجب کی ہو جاتی ہے۔ رہ گیا قیام کو روکنے کے لئے جو علماء دیوبند کی حیلہ تراشیاں ہیں الزام و اتهام کی ان تمام گندگیوں سے اہل سنت کا دامن بالکل بے غبار ہے۔ اپنے اعمال و افعال کی تشریحی وضاحت کے ذمہ دار ہم ہیں نہ کہ آن جناب ہمارے عمائد و اساطین کی کتابوں میں اگر کتاب و سنت کے خلاف کچھ آپ کو مل گیا ہو۔ (العياذ بالله من ذالك) تو اسے قوم کی عدالت میں پیش کیجئے۔ البتہ اپنے تصورات کی بنیاد پر ہمارا محل اٹھانے کی کوشش نہ کیجئے۔

قرآن نے ہمیں سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے اور کیفیت ہم پر چھوڑ دی ہے لہذا
اگر قرآن کی کوئی ایسی آیت آپ کوں گئی ہو جس میں قیام کی ممانعت ہو تو۔

﴿هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾

اگر تم دعوے میں سچے ہو تو اس کی دلیل پیش کی۔

عجب کچھ پھیر میں ہے سینے والا جیب و دامان کا
جو یہ ٹانکا تو وہ اوھڑا جو وہ اوھڑا تو یہ ٹانکا

اسی طرح عرس وفاتحہ سے متعلق بھی حاجی احمد الدلیل صاحب نے مسلک اہل سنت
ہی کی تائید و حمایت فرمائی ہے چونکہ اختصار پیش نظر ہے اس لئے میں ناظرین
سے یہ کہہ کر رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ ہر چند کہ عرس وفاتحہ، میلا دو سلام جیسے فروعی
مسائل میں اہل سنت کا علماء دیوبند سے اختلاف ہے لیکن یہ کلیدی و بنیادی
اختلافات نہیں ہیں۔ علماء اہل سنت کی متعدد و مستند اور معترکتابوں میں قرآن و
سنّت، واقوال ائمہ سے ان مسائل کو مبرہن اور مدلل کیا گیا ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ
قہر آسمانی ”جلد دوم“ میں یہ مسائل زیر بحث آئیں گے۔ اور قہر آسمانی جلد دوم
اپنی نویعت کی ایک ممتاز و منفرد کتاب ہو گی جس میں ان مسائل کے ایک ایک
گوشے کو حل کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی۔

واضح رہے دیوبند سے ہمارا بنیادی اختلاف میلا دو سلام کا نہیں ہے۔ بلکہ
علماء دیوبند تو ہیں نبوت کے مجرم ہیں۔ لہذا سفرہست ان سے یہ مطالہ نہیں ہے
کہ وہ عرس وفاتحہ کے قاتل ہو جائیں بلکہ آقائے دو جہاں روحی فدا ﷺ کے
خلاف جوز ہر انسانی کی ہے اس سے رجوع و توبہ کر لیں اللہم فالا هم کے

جب وہ ان منزلوں سے گذر جائیں گے تو میلاد وسلام کے لئے خود ہی دل میں جگہ بن جائے گی۔ پہلے تو ہیں نبوت سے دل کا زنگ ڈور کر دیا جائے پھر عشق کا ہاتھ آگے بڑھ کر خود ہی میقل کر دے گا۔

العقائد: کوہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ اگر پسند خاطر آجائے تو ہمارے علماء کے حق میں صحت وسلامتی اور ترقی درجات کی دعاء کیجئے انہوں نے ہی ادارہ کو اس قابل بنایا کہ وہ اس عظیم کتاب کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی جرأت و سعادت حاصل کر سکے۔
اگر آپ نے ہماری خامیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ادارہ کی خدمات کو سراہا تو ان شاء اللہ العزیز ہم آپ کی خدمت میں علماء حق کی نادر تصنیفات پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے رہیں گے۔

ہم آپ کی مخلصانہ رائے کے منتظر ہیں خدا کرے یہ کتاب عوامی رشد و ہدایت کے لئے ایک روشن منارہ ثابت ہو۔

آمین بجاه سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

مشتاق احمد نظامی

۲۷ / فری ۹۵ مطابق ۲۲ نومبر ۱۹۷۵ء

آفس پاسبان اللہ آباد نمبر ۳

﴿عقائد ذریعہ نجات ہیں یا اعمال﴾

یقین محکم عمل پیغم محبت فاتح عالم
جهاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں

دنیا و آخرۃ کا کوئی بھی کام ہو کسی نہ کسی عقیدے کی پیداوار ہوتا ہے۔ ہر دلیل کی بنیاد کسی نہ کسی عقیدے پر ہوتی ہے۔ اگر عقائد مسلوب ہو جائیں تو دنیا میں نہ تو کسی دلیل کا وجود ہو گا اور نہ کسی عمل کا کیونکہ ہر عمل سے پہلے اس کی غرض و غایت معین ہوتی ہے۔ جس کی کڑیاں عقائد سے جا ملتی ہیں۔ انسانی زندگی کو خاطر خواہ صحیح نتائج سے ہمکنار کرنے کے لئے کشتی حیات کو ساحل نجات تک پہنچانے کے لئے فوز و فلاح کی معراج کا منہجاً عروج معین کرنے کے لئے کسی معاشرے کو سماجی و اصلاحی ارتقاء سے دوچار کرنے کے لئے عقائد کا درست اور غیر متزلزل ہونا نہایت ضروری ہے کہ اسی سے تحریکیں مضبوط و متحدد ہوتی ہیں اور کام کرنے کی حقیقی لگن جنم لیتی ہے جو ایک نہ ایک دن اسے لیلائے کامیابی سے ہم آغوش کر دیتی ہے۔ عقائد جیسے ہوں گے اسی طرح کے نتائج منصہ شہود پر جلوہ گر ہوں گے عقائد غلط ہیں اعمال ضائع ہوں گے۔ حیات انسانی کو منزل نجات تک پہنچانے سے قاصر ہیں گے درحقیقت عقائد روح ہیں اور اعمال جسم۔ عقائد اصل ہیں اعمال اس کی شاخیں، جس طرح شاخیں بلا جڑوں کے تروتازہ نہیں رہ سکتیں، نشوونما کے لئے غذا نہیں حاصل کر سکتیں بالکل اسی طرح نجات و کامیابی کا حسین چہرہ پر دہ عدم میں مخفی رہتا ہے۔ فوز و فلاح مفقود و غیر مربوط رہتی ہے جب تک عقائد درست و متحكم نہ ہوں۔ عقائد روح ہیں۔ اور اعمال جسم عقائد کے

بغیر اعمال کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اسلام نے اسی اصول پر اپنی معمار تعمیر کی۔
تو حید باری عظمت رسالت بنیادی عقائد ہیں جن کے بغیر اعمال ناقص نامکمل اور
بے بنیاد ہوتے ہیں۔ ایمان کے معنی ہیں۔ تصدیق بالجہان صدق دل سے یقین
کرنا، زبانی اقرار اور عمل بالارکان اس کے لوازمات ہیں قرآن نے اعمال کو
دوسرا درجہ دیا ہے اور ایمان کے ساتھ مربوط و مشروط قرار دیا ہے۔
ارشاد ہوتا ہے کہ۔

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾

بیشک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کئے۔

دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ۔

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُغَرِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسْبِخُوهُ بَغْرَةً وَأَصْيَالًا﴾

بیشک ہم نے آپ کو شہادت دینے والا خوشخبری سنائے والا، ڈرانے
والا رسول پنا کر بھیجا ہے تاکہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان
لاوے، یعنی اس کی عزت و توقیر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔

(نمازیں پڑھو)

رسول کی عزت و توقیر کے بغیر نہ ہی ایمان مکمل ہے اور نہ ہی اعمال مقبول،
کوئی خواہ کتنا ہی پر ہیز گار کیوں نہ ہو، کلمہ طیبہ کا کتنا ہی ورد کیوں نہ کرتا ہو، کیسی ہی
لچھے دار تقریر کرتا ہو لیکن اگر اس کی تقریر تحریر اعمال و افعال گفتار و کردار سے تو تقریر
رسالت نہیں ظاہر ہوتی تو ہیں کام مرتب ہوتا ہے۔ وہ کھلا ہوا بے دین ہے۔ ایمان
کی اس کو ہوا بھی نہ لگے گی۔ درحقیقت وہ اسلام کے بنیادی عقیدے ہی سے

مخرف ہو گیا ہے۔ اسے باغیوں کی صفت میں جگہ ملے گی۔ عاشقان رسول کی صفیں کبھی بھی اسے قبول نہ کریں گی۔

معلوم ہوا کہ ایمان تو حید باری عظمت رسالت کا نام ہے۔ اعمال بغیر ایمان کے ناقابل اعتبار ہیں عقیدے میں خامی بے دینی اور بد کرداری پیدا کرتی ہے۔

ایمان کے لئے سب سے مہلک مرض شک و شبہات ہوا کرتے ہیں۔ کیونکہ یقین کامل کے بغیر طمانیت قلبی نہیں حاصل ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ خالق کائنات نے (سورہ فاتحہ کے بعد) قرآن کی سب سے پہلی سورۃ میں اس کی طرف تنبیہہ بلغ فرمائی..... ارشاد فرمایا۔

﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَبَّ لِيْفِيهِ﴾ یہ کتاب اس میں کچھ بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ جہاں شکوں و شبہات ہیں وہیں تذبذب و اضطراب ہے عزم بالجسم پیدا ہی نہ ہو گا اور نہ ہی عقیدہ پختہ ہو گا۔ اسی بنا پر رب العزت جل جلالہ، نے ارشاد فرمایا کہ عقیدے اور ایمان کی پختگی کے ساتھ شکوں و شبہات سے بالاتر ہو کر اس کتاب کی صداقت پر ایمان لاو۔ کوئی کتاب اس وقت تک سرچشمہ ہدایت نہیں بن سکتی جب تک کہ شبہات کو شہر بدر کر کے والہانہ عقیدت اور شیقتوں کے ساتھ اس کو تسلیم نہ کر لیا جائے۔ کیونکہ ہر قسم کی کامیابی اور نجات کا راز عقیدوں کی پختگی میں پوشیدہ ہے۔

سرکار دو عالم روحي الله الفداء علیه السلام نے ارشاد فرمایا ہے۔

”مَنْ قَبَلَ مِنِّي الْكَلْمَةَ الَّتِيْ عَرَضْتُ عَلَىْ عَمَّيْ فَأَبَنَىْ فِهِيَ لَهُ نَجَاهَةً“

جس نے مجھ سے وہ کلمہ قبول کر لیا جس کو میں نے اپنے چچا پر پیش کیا

تحا۔ انہوں نے انکار کر دیا تو وہی کلہ اسی کے لئے باعث نجات ہے۔

جس نے خالص عقیدے کے ساتھ کلمہ قبول کیا نجات صرف اسی کے لئے ہے کیونکہ عقائد ہی سے اعمال کی صحت بنتی ہے۔ عقائد میں ریب و شبہات کا رخنہ ہو۔ تو اعمال میں دراز پڑ جاتی ہے۔ تحریر و تقریر کے انداز بدل جاتے ہیں۔ عشق و محبت کی روح اعمال و کردار سے پرواہ کر جاتی ہے۔

منافقین کے اعمال متزلزل تھے۔ انہوں نے ریب و اضطراب کو عیاری و مکاری کے ذریعہ چھپانے کی کوشش کی۔ مگر جیسا کہ آپ نے دیکھا وہ سی لاحاصل ہی رہی۔ عقائد کی خرابی گفتار و کردار کے درستچے سے برا بر جھائکتی رہی۔ بدر، احد، تبوک وغیرہ غزوہات کے واقعات شاہد ہیں اور اس کے میں ثبوت ہیں۔ انتشار پیدا کرنے کی مختلف سازشیں بے نقاب ہوئیں۔ جنہوں نے عقائد کے خراب ہونے کی غمازی کی اور بہت سے مقامات پر عقائد کی بے راہ روی، اعمال کی خرابی بن کر طشت از بام ہو گئی۔ جس سے سارے معاشرے کو نقصان پہنچا، مبادا یہ مرض متعددی بن کر صحت مند عناصر کی صحت پر اثر انداز نہ ہو جائے۔ طبیب امت نے بروقت بنا ضمی کی، اور انہیں باہر نکال چینکنے کا کھلم کھلا، اعلان کر دیا، ان کے عذر لانگ نا مقبول قرار دیئے گئے۔

غزوہ تبوک میں منافقین شریک نہ ہوئے، مقابلہ رومیوں کی جا بر حکومت سے تھا، دور دور ازا کا سفر گرمی کا زمانہ، اخراجات کی قلت، انہوں نے یہ مشہور کرنا چاہا کہ اس غزوہ میں ہلاکت و تباہی کے علاوہ کوئی نتیجہ نہ ہوگا۔ فرمان رسالت کی عظمت و صداقت کا انکار ہی اس قسم کے ناشائستہ اعمال کا بانی ہو سکتا تھا۔ مونین

صادقین نے صدائے رسالت پر لبیک کہا، ادھر رومیوں پر رعب طاری ہو گیا، مقابلہ کون آئے سرحدی زمینداروں اور حاکموں سے معاهدہ اور تاوان جنگ وغیرہ بہت سامان لے کر فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ شمع رسالت مع پرونوں کے وطن واپس آئے۔ نکتہ چینوں اور عظمت رسالت میں شک و شبہات کے مرتبہ منافقین کے دلوں میں کھلبیلی مج گئی۔ مال غنیمت میں حقدار اور حصہ دار بن جانے کے لائق میں دربار رسالت میں حاضر ہو کر معدرات خواہ ہوئے۔ اعمال کی کوتاہی تو قابل درگذر ہے مگر عقائد کے بنیادی فساد کو کیسے نظر انداز کیا جاسکتا تھا۔

﴿يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمُ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوْلَئِنْ نُؤْمِنَ لِكُمْ قَدْ نَبَأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ تُرْدُونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيَبْيَكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (سورة توبہ پ ۱۱)

منافقین معدرات کرنے آپ کی واپسی پر آئے۔ فرمائے کہ تم عذر نہ کرو، ہم تمہاری بات ہرگز نہ مانیں گے۔ پیشک اللہ نے تمہاری تمام خبریں ہم کو بتا دی ہیں اللہ اور اس کا رسول تمہارے تمام اعمال دیکھے گا۔ پھر تم مرنے بعد غیب و شہادت جانے والے خدا کے حضور میں پیش کئے جاؤ گے جو تم کو تمہاری کرتلوں سے باخبر کر دے گا۔

اپنی منافقت پر دوبارہ پردہ ڈالنے کے لئے معدرات خواہی کا خداۓ وحدہ لا شریک لے نے کیا جواب دیا۔ بات اگر عملی کوتا ہیوں تک ہوتی تو حضرت کعب وغیرہ کی طرح توبہ مقبول ہو سکتی تھی۔ مگر یہاں بنیادی عقیدوں کی خرابی تھی۔ نجات کا دروازہ بھی بند ہو چکا تھا۔ کسی طرح بھی توبہ قبول کرنے کی اجازت نہ دی گئی۔

کیونکہ اس طرح سارا معاشرہ متاثر ہو سکتا تھا۔ حالانکہ وہ کلمہ پڑھتے، روزہ، نماز، حج زکوٰۃ ادا کرتے، مسلمانوں کی طرح صورت ولباس اختیار کرتے لیکن صرف اعمال ہی نجات کا ذریعہ بن سکے۔ اور رسالتاً ﷺ نے ارشاد خداوندی کے مطابق ان کی توبہ نامقبول ہونے کا اعلان کر دیا۔ ان کا باقاعدہ مقاطعہ کر دیا۔ چونکہ انہوں نے انسانیت کی بنیاد کھو کھلی کرنے کی کوشش کر کے نہ صرف اپنا نقصان کیا تھا بلکہ دنیاۓ انسانیت سے غداری بھی کی تھی لہذا ان سے تمام انسانی رشتے بھی منقطع کر دیئے گئے۔ اور حکم نازل ہو گیا کہ۔

“لَا تُصَلِّ عَلَى أَخْدِيَّةِ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقْمِ عَلَى قَبْرِهِ”

ان کے جنازے کی نماز نہ پڑھو اگر ان میں کوئی مر جائے اور نہ اس کی قبر پر

(علامہ مولانا محمد دانش علی صاحب فریدی)

کھڑے ہو۔



﴿ايمان﴾

يوں تو مدعايان اسلام کے کتنے ہی طبقات بساط عالم پر ابھرے اور پھر حرف غلط کی طرح مت گئے کچھ ان میں وہ ہیں جن کا دھند لاس عکس بھی ذہن و دماغ میں باقی نہ رہا۔ صفات تو ارخ و سیر پر ان کے نقش مل سکتے ہیں۔ جیسے معتزلہ جبریہ، قدریہ، کرامیہ وغیرہ الہذا ان پر نقد و نظر محض عبیث بلکہ باعث اضاعت وقت ہے۔ موجودہ مذاہب میں ہر مذہب بانگ دہل تحریر و تقریر کی پوری توانائی کے ساتھ اعلان عام کر رہا ہے کہ ہماری منتخب شاہراہ انسانیت کو فلاح و نجات کی ضمانت دے سکتی ہے۔ ہمارا نظریہ حیات خداری کی منزل کی صحیح نشاندہی کر سکتا ہے۔

قدرت کی جانب سے انسان کو سرمایہ شعور و پنداش کی دولت بے پایاں سے مالا مال کر کے مکلف کر دیا گیا ہے اسی عقل و شعور کی رہنمائی میں انسان کو دنیا میں ایک پاکیزہ اور باوقار زندگی گزارنے کیلئے اور آخرت میں نجات و فلاح کے حصول کیلئے ایک ٹھوس نظریہ ایک غیر مبدل دستور کا پابند ہونا پڑے گا۔ تمام مدعايان اسلام کا یہ مسلسلہ فیصلہ ہے کہ صرف ايمان ہی ایک مقدس معاشرہ مرتب کر سکتا ہے۔ اور ايمان ہی فلاح و نجات، امن و امان اور سکون واطمینان کی ضمانت دے سکتا ہے۔ لہذا ہمیں ايمان ہی کے مفہوم کی وضاحت مقصود ہے۔ ہر طبقہ ايمان کا مدعا ہے۔ حالانکہ ہر طبقہ کے نظریات میں بون بعید اور تصادم تھا لائف موجود ہے۔ قرآن عظیم و احادیث و کتب ملت کا ہی فیصلہ ناطق اور واجب لتسليم ہو گا۔

علم کلام کی غیر معمولی نہایت مستند کتاب شرح عقائد میں ہے۔

”ان الایمان فی الشرع هو التصديق بما جاعه من عند الله ای تصدقیق

النبي ﷺ بالقلب فی جميع ما علیه بالضرورة الاقرار باللسان الا ان التصدقیق رکن منه لا یحتل السقوط اصلاً والا قرار قد یتحمله فی حالتہ اکراه ”

اس کی شرح رمضانی میں ہے۔

”ای فيما الشہر کونہ من دین الرسول بالخبر المتواتر انتھی“

حاصل یہ کہ ایمان نام ہے ان تمام ضروریات دین کی توثیق و تصدیق کا جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے شارع علیہ السلام تک پہنچیں نیز ان تمام امور کا زبان سے اقرار و اظہار کا رمضانی میں تشریح کی گئی کہ امور ضروریہ سے مراد وہ احکام و ارشاد ہیں جن کا دین محمدی سے ہونا خبر متواتر سے ثابت ہو جو عوام میں شہرت عامہ رکھتے ہوں جیسے وجود صانع، نماز پنجگانہ وغیرہ۔ شرع عقائد کی مذکورہ بالاعبارت کا یہ مفہوم بھی ہے کہ رکن ایمان صرف تصدیق ہے اور اقرار و اظہار دنیاوی احکام کے نفاذ کا ذریعہ ہے اس کا حاصل یہ کہ اگر تصدیق قلبی پر کسی کی موت ہو گئی اور وہ اقرار باللسان نہ کر سکا تو عند اللہ وہ صاحب ایمان گیا۔ ایک غیر معروف انسان کی شکل و شابہت میں حاصل وحی حضرت جبریل امین علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر سوال کیا۔

”خبرنی عن الايمان قال ان تو من بالله وملیکة وكتبه ورسله واليوم الآخر و تو من بالقدر خير وشره قال صدقت“

یا رسول اللہ ایمان تقدیر خیر و شر کی تصدیق و یقین کا نام ایمان ہے۔ حضرت جبریل نے عرض کیا آپ نے مج فرمایا زبان نبوت نے ایمان کی غیر مبہم اور نہایت واضح تشریح ارشاد فرمادی۔

امام الائمه سراج الامم عمار الملهم امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ ”لَا تَكُفُرْ أَهْلَ الْقِبْلَةِ“ ہم اہل قبلہ کو کافرنیں کہتے۔ اہل قبلہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو تمام ضروریات دین کو حق مانتے ہوں جو ضروریات دین میں سے کسی ایک کا منکر ہو وہ اہل قبلہ سے نہیں۔ شرح عقائد کے حاشیہ میں ہے۔

ہم اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتے ہم اس کو ایماندار ہی کہیں گے یہ اس لئے کہ ایمان و کفر کے درمیان کوئی تیسرے درجہ نہیں۔ قرآن مجید میں ہے۔

﴿وَيَرِيدُونَ أَن يَتَحَدُّو بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے درمیان کوئی تیسری راہ نکالیں یہی ٹھیک ٹھیک کافر ہیں۔ آج کل کے مذاہب باطلہ نے قول امام سے سیدھے سادھے مسلمانوں کے صحیح و سالم ذہن و فکر کو برپا کر کے رکھ دیا ان کے خرمن کو آتش فریب سے پھونک ڈالا ان کو بزر باغ دکھایا گیا کہ امام مذہب کا ارشاد ہے۔ اہل قبلہ کبھی کافرنہ ہو گا۔ (اہل قبلہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو تمام ضروریات دین کے حق ہونے پر متفق ہوں جیسے عالم کے حادث ہونا، جسموں کا محشور ہونا، عزو، جل کا کلیات اور جزئیات کا عالم ہونا وغیرہ وغیرہ جو عمر بھر نیکیوں پر مداومت کرے اور یہ اعتقاد رکھے کہ عالم قدیم ہے جسموں کا حشر نہیں ہو گا اللہ تعالیٰ جزئیات نہیں جانتا وہ اہل قبلہ سے نہیں۔ اہل قبلہ کو کافرنہ کہنے سے مراد یہ ہے کہ اس میں کفر کی ثانیوں میں سے کوئی ثانی نہ پائی جائے اور اس سے کفر کے موجودات میں سے کوئی موجب نہ صادر ہو۔ اس تشریع کا ماحصل یہ ہوا کہ جو شخص ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کرے پا وہ شان الوہیت یا شان رسالت میں گستاخی کرے وہ اہل قبلہ میں سے

نہیں۔ وہ ضرور بالضرور کافر ہے۔ اس کو کافر کہنا۔ لانکفر اہل القبلة کے
منافی نہیں۔ (امجدی)..... اور اس آیت کریمہ سے ان کو بے خبر رکھا گیا۔

﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُؤْتُوا وُجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلِكُنَّ الْبَرُّ مَنْ
آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلِئَكَةَ وَالْكِتَابَ وَالْبَيِّنَاتِ﴾

یعنی کچھ اصل نیکی نہیں کہ منه مشرق یا مغرب کی طرف کرو، ہاں اصل میں
نیکی یہ ہے کہ ایمان لا و اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر۔

اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہوا کہ مشرق و مغرب خواہ کعبہ مقدسہ کی طرف
رخ کر کے نماز پڑھنا ہی کچھ نیکی نہیں بلکہ اصل نیکی اللہ عزوجل و قیامت وغیرہ
ضروریات دین پر ایمان لانا ہے۔

تفسیر معالم التنزیل میں ہے۔

” فقال قوم عنى بها اليهود والنصارى وذاك ان اليهود كانت
متصلى قبل المغرب الى البيت المقدس والنصارى قبل المشرق
وزعم كل فريق منهم ان البر فى ذاك“

ایک قول پر اس کے مخاطب یہود و نصاری ہیں یہود سم مغرب بیت المقدس
کی طرف نماز میں منہ کرتے اور نصاری مشرق کی طرف اور ہر ایک کامگان تھا کہ
اسی میں نیکی ہے۔

معلوم ہوا کہ کسی سم متجوہ ہو کر خواہ کعبہ ہی ہونماز پڑھنا ہی دلیل ایمان
نہیں..... سرور کوئین علیہ الصلوٰۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں۔

”لَا يُؤْمِنُ احَدٌ كُمْ حَتَّىٰ اكُونَ احَبُّ إِلَيْهِ مِنْ وَالْمُهَمَّةُ لِلَّهِ وَالْبَاسُ احْمَمْ“

ایمان دار ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی اولاد اس کے باپ اور تمام اپنی نوع انسان سے زیادہ محظوظ ہوں۔

کیا امام کی نگاہ اجتہاد میں یہ آیت کریمہ اور حدیث مصطفیٰ علیہ الحتیہ والمشاء نہ تھی۔ صرف نماز پڑھنا یا زکوٰۃ دینا ایمان نہیں ہے بلکہ ایمان اور ہی شے ہے۔ کلمہ شہادت کا اقرار بھی تو دلیل ایمان نہیں جیسا کہ شرح عقائد الامام نسفی میں ہے۔

”لیست حقیقت الایمان مجرد کلمة الشهادة على ما زعمت الكرامية“
بھلا کلمہ شہادت کی عظمت و رفعت کا کون منکر ہو گا مگر تہا تہا یہ بھی ایمان کی صفات نہیں پیش کرتا۔

کہاں ہیں وہ عجیب اخلاقت لوگ جو پیشہ پرستو باندھ کر گاؤں گاؤں نگر نگر کلہ اور نماز پڑھاتے پھرتے ہیں۔

بڑے پاک باطن بڑے پاک دل
ریاض آپ کو کچھ ہمیں جانتے ہیں
ارے وہی کوہ قاف والے جن کی پیشائیوں پر ہاتھی کے پیر کے نشان
بنتے ہوئے ہیں جن کے پاجامے انڈروئیر کی صحیح ترجمانی کرتے ہیں، جن کا چکنا سرفراخ آبادی تربوز کی یاد دلاتا ہے۔

میرے عزیز دوستو! ان تمام اقوال کی تعبیر میں اختلاف ضرور ہے اطلاق میں یقیناً تناقض ہے۔ مگر جن کے دلوں میں محبت رسول کی شمع روشن ہے جن کا قلب و ذہن عشق رسول کی حرارت سے مالا مال ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ

سب کا معنوں سب کا مفہوم و مقصود اختلاف و تضاد کے شایبہ سے پاک ہے۔ امام اعظم قدس سرہ کی عبارت کا حاصل بھی یہی ہے کہ جواہل ہے ہم اس کی تکفیر نہ کریں گے۔ اس پر اسلام و ایمان کا حکم کریں گے جب تک اس سے کوئی ایسا امر ظاہرنہ ہو جو تقدیق قلبی کی تکذیب کرتا ہو اور محبت رسول کا مطلب بھی یہی ہے کہ سرکار نے جو کچھ فرمایا اس کو حق و صواب یقین کرے دل کے تمام گوشے اور دماغ کے تمام اجزاء ان کے احترام و اعزاز سے مالا مال ہوں۔ جیسا کہ اسی شرح عقائد میں امام جلیل الشان نے فرمایا:

”حقیقت الایمان هو الصدیق القلبی فلا يخرج المؤمن من عن الاتصاف به الا بما ينافيه الایمان“

ایمان کی حقیقت وہی تقدیق قلبی ہے اس وقت تک اس کو ایمان دار کہا جائے گا جب تک کوئی ایسا امر اس سے سرزد نہ ہو جو مخالف ایمان ہو۔ اسی میں ہے۔

”فلو حصل هذا المعنى لبعض الكفار و كان اطلاق اسم الكافر عليه من جهته ان عليه شيئا من امارات التكذيب والانكار كما اذا فرض ان احد اصدق بجميع ما جاء به النبي عليه الصلوة والسلام وسلم واقربه و عمل به مع ذلك شد الزنار بالاختيار و جد للصنم بالاختيار نجعله كافراً لما ان النبي ﷺ جعل ذلك علامته للتکذیب والانکار“

یعنی اگر کسی کافر میں تقدیق قلبی پائی جاوے جب بھی اس پر لفظ کافر ہی کا اطلاق کیا جائے گا اگر اس میں کوئی علامت تکذیب و انکار پائی جاوے جیسا کہ ہم ایک ایسا انسان فرض کرتے ہیں کہ شارع علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا اس نے اس کی

تصدیق کی زبان سے اقرار بھی کر لیا اور اس پر عمل پیرا بھی ہوا۔ مگر زنا ربا اختیار باندھتا ہے یا با اختیار پیش اصنام سجدہ ریز ہوتا ہے۔ اس پر حکم کفر ہی کریں گے۔ اس لئے کہ شارع علیہ السلام نے ان چیزوں کو علامت کفر فرمایا ہے۔

ای آیت مذکورہ الصدر میں فرمایا گیا کہ محض رو بے شرق و غرب ہونا ہی ایمان نہیں جب تک تصدیق قلبی نہ ہو اور نہ کوئی ایسا کردار اور کرتوت ہو جو تنہ یہ امر ضروری پر دلیل ہو۔ اسی لئے سرکار عزت مدار علیہ السلام نے فرمایا کہ ”ایمان دار ہو، ہی نہیں سکتا جب تک میں اس کے نزد یک تمام کائنات سے محبوب ترنہ ہوں“ جس کے دل کی تجویز میں عشق رسول کی دولت محفوظ ہوگی جس کے سینہ میں محبت رسول کی شمع روشن ہوگی جس کے سینے میں حرارت ایمانی ہوگی جو سرکار کے دامن رحمت سے مضبوط رابطہ رکھے گا یقیناً ان کے ہر فرمان پر سرتسلیم خم کرے گا۔ ان کے ارشاد کے احترام کو سعادت ابدی اور دولت سرمدی سمجھے گا اگر کوئی بالفرض ہر آن میں لا الہ الا اللہ کی کروڑوں ضریبیں لگائے ہر سانس میں بارگاہ الوہیت میں سجدہ عبادت پیش کرے زکوٰۃ کی ایک ایک پائی حقدار تک پہنچاوے آقائے نامدار کی محبت کا دعویدار ہے اور تمام فرائض و واجبات کو لازم حیات جانے۔ مگر ختم نبوت کا منکر ہے۔ نگاہ شرع مطہر میں یقیناً جزماً کافر ہے۔ اس لئے کہ آیت کریمہ ﴿ ما کانَ مُحَمَّدًا أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِجَالِكُمْ وَلَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ ﴾ اور احادیث متواتر مثلاً ختم بی النبوة کا صراحتہ منکر ہے۔ جبکہ قادریانی مرزا غلام احمد قادریانی کی باطل نبوت پر ایمان لائے اور حضرت مسیح علیہ السلام کی شان اقدس میں سخت گستاخی کی جیسا کہ اس ناپاک شعر میں ہے۔

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو
اس سے بہتر غلام احمد ہے

کیا قادیانی زبان پر کلمہ شہادت نہیں؟ کیا قادیانی نمازی نہیں؟ کیا فرضیت زکوٰۃ، ملائکہ، جنت، دوزخ، تقدیر کا قائل نہیں؟ کیا کلمہ شہادت نہیں پڑھتا؟ باس ہمہ تکذیب امر ضروری کی وجہ سے سرحد ایمان سے نکل گیا ہے۔

وہابی دیوبندی تبلیغی مودودی ان کی شکل و شاہست اور طریقہ کار میں ضرور معمولی ساختلاف جھلکتا ہے مگر ان سب میں وہی ایڈیسی روح ہے۔ شراب ایک ہے رنگ پیانہ بدلا ہوا ہے۔ یہ سب جڑواں ہیں۔ ایک ہی غلیظ اور ستری ہوئی چھاتی کا دودھ پی کر پلے بڑھے ہیں۔ ان سب کو مورث اعلیٰ وہی الحمیل ہے۔ جس کی ناپاک روح ان سب میں رواؤں دواں ہے ان سب کے معقدات مشترک ہیں یہ سب رضاعی بھائی ہیں۔ کہیں علم غیب کو خاصہ خدا بتایا اور مانا تو زید و عمر و پاکل جانوروں کو بھی علم غیب بخش دیا۔ میلاد پاک کو تھیا کے جنم سے بدتر کہہ دیا۔ خدا کو کاذب مان لیا۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بنی اسرائیلی چڑواہا کہہ کر اپنی ذہنی گندگی کا ثبوت فراہم کر دیا۔ حتم نبوت کو مکالات نبوی سے خارج کر دیا۔ ہزاروں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بعثت کو ممکن کہہ دیا یہ تمام اقوال سراسر تصدیق قلبی کی تکذیب پر شہادت و برہان ہیں۔ کیا یہ نمازی حاجی نہیں؟ کیا نماز و کلمہ گاؤں گاؤں پڑھتے پڑھاتے نہیں؟..... کیا ان کو ایمان درکہا جائے گا؟

ایسے تمام منافقین ہر سانس میں ایمان مجمل ایمان مفصل بلکہ ساتوں کلمہ کی رٹ لگائیں۔ ان کے پُرفریب بجدوں کی کثرت سے چنانیں گھس جائیں مگر جب تک اس عناد و نفاق پر قائم ہیں صاحب ایمان نہیں ہو سکتے۔ ان المنافقین

فی الدرک الاسفل -
ارشاد ربانی ہے۔

(اذا جاء ک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول الله والله یعلم انک لرسوله والله یشهد ان المنافقین لکذبون اتخدوا ایمانهم جنة فصدوا عن سبیل الله)

اے حبیب جب آپ کے پاس منافقین آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ گواہی دیتے ہیں کہ بے شک یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ تو جانتا ہی ہے کہ بیشک آپ رسول اللہ ہیں۔ بیشک منافقین جھوٹے ہیں۔ انہوں نے اپنے جھوٹے ایمان کو ڈھال بنا لیا ہے۔ پس یہ اللہ کے راستے سے بسلکے ہوئے ہیں۔ کیا ان کی گواہی ایمان کو بچا سکی قدرت کی جانب سے اس پر کفر کی مہر ہو گئی۔ دور رسالت کے منافقین کلمہ گوبھی تھے نمازی بھی تھے حاجی بھی تھے مگر زبان نبوت نے ان کی فریب کاری کا پروہ چاک کر دیا۔ ان کے چہرہ عیاری کی نقاب کو ہٹا کر ان کی اصلی صورت کو ظاہر فرمادیا۔ مسلمان ان کے ادعائے ایمان ان کی نماز وغیرہ اعمال ظاہری سے فریب نہ کھائیں خدا نے عقل و شعور بخشا ہے۔

آج پاں گجراتی بھولے سیدھے سادے عوام کو ابلیسی توحید سے گمراہ کر رہا ہے۔ ابلیس نے کہا تھا..... تمہیں چاہوں تمہارے چاہنے والوں کو بھی چاہوں گجراتی کے نزدیک توحید کا مفہوم وہی تقویۃ الایمانی مفہوم ہے کہ خدا کے سوا اور وہ کو ماننا خبط ہے اس کے نزدیک شرک ساون بھادوں بن کر برس رہا ہے شب برأت کا حلودہ، نذر و نیاز، میلاد اور قبروں پر پھول ڈالنا، عرس کرنا، یا رسول اللہ،

یا علی، یا غوث کہنا، انبیاء اولیاء سے مدد مانگنا، قوالي سنتا، بزرگوں کو حاجت روائجھتا
غرض ہر وہ کام جس سے عوام یا خواص متعلق ہیں شرک ہیں اور مشرک کی بخشش
نہیں۔ اس کا بھی وہی اسماعیلی انداز فکر ہے۔ رشید احمد، اشرف علی ہی کا کلمہ گو ہے
جیسا کہ ناپاک کتاب شریعت یا جہالت کے صفحہ ۳۰ پر ہے حقائقی عالم ہیں جن کا
تعلق تبلیغی جماعت سے ہے۔ اس کے شرک کی تلوار انہے کی لائھی ہے جس سے
شاید کوئی دامن بچالے۔ اپنے گھروں والوں کو بھی مشرک بنا ڈالا خود بھی اقراری
مشرک تھا مگر کہتا ہے کہ مجھ کو ہدایت مل گئی۔ (شریعت یا جہالت) اپنے گھناؤنے
کردار و گفتار پر پرده ڈالنے کے لئے اہل سنت پر افتراء کرتا ہے۔ کہ یہ لوگ
مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں نمازی، اہل قبلہ کو کافر کہتے ہیں کلمہ پڑھنے والوں کو کافر
کہتے ہیں۔ مگر اس بد مست شرابی سے کوئی پوچھنے کہ کیا اہل سنت کلمہ گونمازی اہل
قبلہ نہیں پھر ان پر شرک کی بمباری کیسی؟ حاصل یہ کہ ایمان کی حقیقت تقدیق قبلی
ہے بشرطیکہ کوئی امر ایسا صادر نہ ہو جس سے کسی امر ضروری کی تکذیب ہوتی ہو۔
واللہ تعالیٰ اعلم۔

ایمان مقدم یا عمل:

آج کل یہ فتنہ بھی کارا کے جراشم سے کچھ کم ہیلک نہیں کہ بھائیو! ہم کو عقیدہ
سے بحث نہیں ہم تو کلمہ اور نماز پڑھانے آئے ہیں۔ اپنے ایمان سے رہیں
سارے نمازی ہوشیار، کچھ شیاطین ہیں مسجد میں خضر کی صورت ہماری آنکھوں
نے دیکھا کہ جب سادہ لوح مسلمان ان کے دام تزویر میں پھنس جاتے ہیں۔ تو
ان کے ذہن و فکر، انداز گنتگو پر ابتدی تو حید والوں کا مکمل قبضہ ہو جاتا ہے، ان

کے متاع ایمان سرمایہ عشق رسول پر خوبصورت انداز میں ڈاک کر ڈالا جاتا ہے۔

ہر کہ در کان نمک رفت نمک شد

کی مثل رنگ وہا بیت میں ایسا رنگ جاتے ہیں کہ ان کا منہ بھی شرک و کفر کا توپ خانہ بن جاتا ہے۔ ان کے منہ سے بھی وہی شرک و کفر کی بمب اری شروع ہو جاتی ہے۔

رسول کے فدائیو! مصطفیٰ کے شیدائیو! پھونک کر قدم رکھو ان کی ناپاک صحبت بلکہ شیطانی سایہ سے دور رہو، ایمان اصل ہے نماز روزہ تمام اعمال اس کی فرع اور اس کا ثمرہ۔ اگر اعمال کو تقدیم حاصل ہوتا بغیر ایمان کے اگر عمل کی کوئی قیمت ہوتی تو منافقین جو کلمہ کو بھی تھے نمازی بھی تھے مسلمانوں کے دوش بدوش رہتے تھے۔ مگر ان کو مسجد نبوی میں بھی پناہ نہ دی گئی۔ اسی لئے بزرگوں نے فرمایا ہے۔

ہزار سال عبادت کند نمازی نیست

قرآن مجید میں ہے۔

﴿عاملة ناصبة تصلى نارا حامية﴾

عمل کریں گے مشقیں بھریں گے مگر بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیئے جائیں گے۔

آئندہ ملت کا اتفاق ہے کہ ایمان مقدم ہے اگر درخت کی جڑیں کاٹ دی جائیں تو وہ کبھی بار آور یا سربرزو شاداب نہیں رہ سکتا بلکہ ایندھن بنا کر آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ اسی طرح انسان اگر تصدیق سے خالی ہو کر عملی مجسمہ بن جائے جہنم ہی کا سزاوار ہو گا۔

امان نفی نے شرع عقائد میں فرمایا۔

”وورد فی الكتاب ايضا جعل الايمان بشرط صحة الاعمال كما في

قوله تعالیٰ و من يَعْمَلْ مِن الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ جَمِيلٌ " وَهُوَ مُؤْمِنٌ "
 حال اور حال بمنزلہ، شرط ہوتا ہے۔ آیت پاک نے وضاحت فرمادی کہ
 صاحب ایمان ہی کا عمل صالح مقبول ہے۔ اور ایمان ہی منجی اور ضامن نجات
 ہے۔ سورہ عصر میں فرمایا گیا۔ ﴿ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا
 الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ اس سے بھی صاف ظاہر ہے کہ ایمان کو
 عمل پر تقدم حاصل ہے پھر قرآن عظیم میں کہیں بھی کفار و مشرکین سے اعمال کا
 مطالبہ نہیں بلکہ ایمانداروں سے ہے۔

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ ﴾

اسی طرح کثیر آیات جن سے آفتاب نصف النہار کی طرح روشن کہ ایمان عمل پر
 مقدم ہے۔ ”وَاللَّهُ الْهَادِي وَهُوَ تَعَالَى أَعْلَمُ“

(مولانا مفتی محمد شریف الحق صاحب)



﴿ایمان بالقدر﴾

اندرون قعرویا تختہ بندم کردا
بازی گوئی کر دامن تر نہ شد ہشیار باش

ایمان بالقدر کا مسئلہ بڑا باریک، اہم اور نازک ہے بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہو گا کہ یہ قدرت خداوندی کے ان سربست رازوں میں ہے جہاں تک پہنچنے میں فکر و فہم کے قدم لڑ کھڑا جاتے ہیں اور لغزشوں، ٹھوکروں کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اس حقیقت کی اتحاد گھرائی تک پہنچنے کے لئے جتنی کرید ہوتی ہے۔ الجھنوں کا دامن اور وسیع تر ہوتا جاتا ہے۔ اسی کثرت تجسس کا بھائیک نتیجہ ہے کہ لوگ گمراہی کے پتے ہوئے صحراؤں میں بھکلتے نظر آتے ہیں۔ اور انہیں ہدایت کی چھاؤں نہیں ملتی، جب ہی اللہ کے بر گذیدہ رسول نے اس پر بحث تجویض کرنے سے سخت منع فرمایا ہے۔ میرا نقطۂ نظر شاید غلط نہ ہو گا کہ مسئلہ قدر کے پیچ و خم میں الجھنے والوں میں جدید علوم و فنون سے وابستہ حضرات زیادہ تعداد میں ہیں یہ لوگ قضاو قدر کی ٹھوس حقیقت کو ایک خواب سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے گویا تقدیر کی انکار بھی کوئی فیشن ہے جس کے بغیر تہذیب یا فتنہ لوگوں میں ان کا شمار نہ ہو گا ہماری یہی بُدسمتی ہے کہ گناہوں کو شہد کی طرح حلق سے نیچے اتار لیتے ہیں اور ایمان کو کڑواہٹ کا احساس تک نہیں ہوتا ہے جیسے ہمارا مذہبی شعور مفلوج ہو گیا!

سائنس و تکنالوجی کی دنیا میں بنے والے حضرات کو سائنسی نظریات نے یکسر مادہ پرست بنادیا ہے وہ رفتہ رفتہ لا دینیت کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ روحانی قوت اور ان دیکھے حقائق پر یقین کرنے کے لئے تیار نہیں وہ اس پر اسرار حقیقت

پر قہقہہ لگاتے ہیں کہ انسان کے وجود سے پہلے اس کی تمام حرکات و سکنات صحیفہ ازل میں مرقوم ہو چکی ہیں اور اس کے لباس وجود میں آنے کے بعد اسی از لی تحریر کے مطابق ہر چیز رونما ہوتی ہے یہ لوگ مادی پیچیدگیوں میں گم ہو کر متاع ایمان کھور ہے ہیں اور ایک ایسی نئی پگڈٹڑی اختیار کر رہے ہیں۔ جو گراہی و بد دینی کے شہر کی طرف جاتی ہے۔ حالانکہ وہ اپنے زعم میں صحیح منزل کی طرف گامزن ہیں اب انہیں کون بتائے؟

ترجم نہ رسی بہ کعبہ اے اعرابی
کیں رہ کہ تو می روی بہ ترکستان ست
یہ لوگ اپنے ایمانی چہروں کے خدو خال ان احادیث کے آئینے میں دیکھ سکتے ہیں!
”عن علیٰ قال رسول اللہ ﷺ لا یومن عبَد حتیٰ یؤمَن باریع یشهد ان
الا اللہ الا اللہ واتی رسول اللہ بالحق ویؤمَن بالموت ویومن بالبعث
ویؤمَن بالقدر“

حضرت علی سے مروی ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا بندہ چار چیزوں پر ایمان لائے بغیر مومن نہیں ہوتا شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اس کا رسول برقی ہوں اور موت،بعث آخری اور قدر پر ایمان لائے۔

”عن جابر بن عبد اللہ قال قال رسول اللہ ﷺ لا یومن عبَد حتیٰ یؤمَن
بالقدر خیره و شرہ حتیٰ یعلم ان ما اصابہ لم یکن لیخطه و ان ما اخطاہ
لم یکن لیصیبہ“

جابر ابن عبد اللہ سے روایت ہے رسول ﷺ نے فرمایا بندہ تقدیر کے خیر و شر پر ایمان رکھنے سے مومن ہوتا ہے اور اس پر ایمان ضروری ہے کہ جو کچھ زندگی

کو پیش آیا ہے اس میں خطأ نہیں ہے اور جس میں خطأ کی ہے اس میں صابت نہیں!
 کائنات بڑی وسیع و عریض ہے یہاں ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں اور ہر ایک
 کے سوچنے کا طریقہ علیحدہ اور نقطۂ تکریج دا گانہ ہے اس لئے سب سے پہلے کائنات
 کی یہ اعلیٰ ترین مخلوق، گوشت و پوست کا یہ حسین و خوبصورت ڈھانچہ جس کا نام
 انسان ہے اس رنگ و بو سے بھری کائنات میں اس کی حیثیت کیا ہے۔ اس پر غور
 کرنا ہے!

دنیا کے پردے پر انسانوں کی جو یہ متحرک تصویریں دکھائی دیتی ہیں کوئی
 سگتہ اشیٰ کر رہا ہے۔ کوئی علم و فن کے موتی بکھیر رہا ہے رات کے پر ہول سنائے
 میں کوئی نقشبندی کر رہا ہے۔ پولیس مجرم کی جستجو میں سرگرم ہے۔ پادری صلیب
 کے سامنے کھڑا ہے اس کے لب تھرثار ہے ہیں۔ مندر کا پچاری گھنٹی کی آواز پر
 جھوم رہا ہے۔ مسلمان مسجد میں خدا سے راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں۔ کمان
 اپنے کھیت کی سربز و شاداب فصل پر گنگنا رہا ہے۔ کاروان اپنی منزل کی طرف
 روای دواں ہے۔ کوئی پھول کی کاشت میں ہمہ تن مصروف ہے۔ کیا ان متنوع اور
 رنگ برلنگ مسکراتی یوتی اور چلتی تصویریں کے بارے میں صرف یہ کہہ دینا کافی
 ہو گا کہ یہ فلموں کے اداکاروں کی طرح اپناروں انجام دے رہے ہیں۔ بالفاظ
 دیگر خدا نے جو کام جس شخص کے سپرد فرمادیا ہے۔ وہ اس کی تعییں مصروف ہے
 اس کے خلاف وہ ایک انجی بھی جنبش نہیں کرے گا نہ اس کی اپنی قوت ارادی ہے نہ
 کوئی نظریہ حیات! ایک زندگی ہے جو غیبی طاقت کے اشاروں پر ناج رہی ہے۔
 پھر وہ کی طرح جامد ہے خود متحرک نہیں ہو سکتی جب تک کسی محک کا اثر قبول نہ

کرے اسے کوئی اختیار نہیں مجبور حاضر ہے اس کا اپنا کوئی عمل نہیں سب ارادہ الٰہی کا
نتیجہ ہے۔ یہ عقیدہ ہے فرقہ جبریہ کا جو خود کو مجبور حاضر کھلاتا ہے اور بس!

اس نادان فرقہ کے بوجھ سے اب شاید دھرتی پاک ہو چکی ہے۔ اس نے
اپنی با اختیار حقیقت کو پہچانا ہی نہیں۔ ورنہ خود کو پھرلوں کی دُنیا سے وابستہ نہ کرتا،
ایک کتاب بھی اس سے زیادہ سو جھ بوجھ رکھتا ہے جب ہم اس کی طرف کوئی پھر
اچھائیتے ہیں تو وہ پھر کی طرف نہیں بلکہ ہماری طرف حملہ آور ہوتا ہے دراصل اس
فرقہ نے بالغ نظری سے اپنی حرکات و سکنات کا جائزہ نہیں لیا۔ کسی چیز کی گرفت
کی حرکت میں انسان کا اپنا اختیار ہوتا ہے لیکن رعشہ کی حرکت میں اس کا اپنا اختیار
نہیں، پانی سے لبریز کٹورے کو ایک تند رست آدمی حرکت دیتا ہے۔ اور پانی
زمیں پر ڈال دیتا ہے۔ اس فعل میں اس کا اپنا اختیار ہے۔ لیکن رعشہ کے مریض
کی حرکت سے کٹورے کا پانی گرتا ہے۔ اس میں اس کا اپنا اختیار نہیں۔

شرح عقائد میں اس حقیقت کی وضاحت کی گئی ہے۔

”لَا نُفَرِّقُ بِالْبَصَرِ وَرَأْيَةُ بَيْنَ حُرْكَةِ الْبَطْشِ وَحُرْكَةِ الْأَرْتَعَاشِ وَنَعْلَمُ
أَنَّ الْأَوَّلَ بِالْخِيَارِ دُونَ الْثَّانِيِّ وَلَوْ يَكُنْ لِلْعَبْدِ فَعْلٌ أَصْلًا لِمَا صَحَّ تَكْلِيفَهُ
وَلَا يَرْتَبِعُ بِإِسْتِحْقَاقِ الشَّوَّابِ وَالْعَقَابِ“

انسان کی دوسری حیثیت اس کے بالکل برعکس ہے یعنی انسان پھرلوں کی
طرح ساکت و جامد نہیں بلکہ وہ قدرت و اختیار کا سرچشمہ ہے کوئی شے اس کی
دسترس سے باہر نہیں ہر چیز پر اسے تسلط حاصل ہے ہر شے پر مضبوط گرفت ہے یہ
انسان ہی کی طاقت ہے کہ وہ بے گناہوں کے خون سے دامن سرخ کرتا ہے۔
کبھی حسن عمل سے زندگی کے سادہ خاکوں میں رنگ بھرتا ہے۔ امتحان کی کڑی

منزل سے گذرتا ہے عیش و نشاط کی مختندی چھاؤں میں ہستا بولتا ہے۔ علم و فن سے آراستہ ہوتا ہے۔ جہالت کو اپنا شیوه بنایتا ہے چنانکی حسین منزل کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ کبھی تحت الشریٰ کی اتحاد گھرائی میں ڈوب جاتا ہے۔ پھلوں سے دامن بھرتا ہے کانٹوں سے روکرتا ہے برائی کا خونگر بنتا ہے۔ بھلانی کے قالب میں ڈھلتا ہے گناہوں میں لذت ڈھونڈتا ہے کبھی حسن کروار میں تلخی محسوس کرتا ہے۔ غرض کی وقت کے اسٹچ پر انسان جو کچھ کرتا ہے خود اپنے اختیار سے کرتا ہے اسے عملی زندگی میں اختیار کلی حاصل ہے اس پر کسی خارجی قوت کا دباؤ نہیں، وہ اپنے افعال کا خود خالق ہے۔ یہ عقیدہ ہے فرقہ قدریہ کا۔ حقضا و قدر کا منکر ہے!

دوذہنوں نے انسان کو دونقطہ نگاہ سے دیکھا اور دونوں گمراہ کن نتیجے پر پہنچ، ایک نے اس کی کڑی سنگ و مجرسے ملا دی، دوسرے نے تمام اختیارات اس کے دامن میں ڈال دئے، یہ دونوں فرقے باطل اور ان کے نظریات بھی ضلالت سے بربزی ہیں۔ ان کے بارے میں بارگاہ رسالت سے جو فرمان نافذ ہوا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے!

”عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ صنفان من امتی ليس لهم اى ناصيحة المرجئة والقدرةية“

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا میری امت کے مرجب و قدریہ فرقوں کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ (رواہ الترمذی)

”عن ابن عمر قال سمعت رسول الله ﷺ يقول في امتی خسف و مسح و ذالک في المكذبين بالقدر“

ابن عمر رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ ﷺ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا میری

امت میں حف و منح (زمین کے اندر دھننا اور مناخ صورت ہو جانا) کے لوگ ہوں گے اور یہ وہی لوگ جو قضا و قدر کی تکذیب کریں گے۔

"عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ قَالَ كَانَ أَوَّلَ مَنْ قَالَ فِي الْقُدْرِ بِالْبَصْرَةَ مَعْبُدَ الْجَهَنَّمِ فَانْطَلَقْتُ إِلَيْهِ وَخَمِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَمِيرِيُّ حَاجِينِ أَوْ مُعَتمِرِيْنَ فَقُلْنَا لَوْلَئِنَا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَنَلَّنَا عَمَّا يَقُولُ هُؤُلَاءِ فِي الْقُدْرِ فَوَقَقَ لَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ دَاعِلًا الْمَسْجَدَ فَأَكْتَسَفْتُهُ أَنَا وَصَاحِبِيْ أَحَدُنَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرُ عَنْ شِمَالِهِ فَظَنَنْتُ أَنَّ صَاحِبِيْ سَيَكُلُ الْكَلَامَ إِلَيَّ فَقُلْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّهُ قَدْ ظَهَرَ قِبْلَنَا نَاسٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ يَقْفَرُونَ الْعِلْمَ وَذَكَرَ مِنْ شَانِهِمْ وَأَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ لَا قَدْرَ أَنَّ الْأَمْرَ أَنْتَ قَالَ فَإِذَا لَقِيْتُ أُولَئِكَ فَاخْبِرْهُمْ أَنَّنِي بَرِئٌ مِنْهُمْ بُرَاءٌ مِنْيٌ وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَوْ أَنَّ لِأَحَدِهِمْ مِثْلُ أَحَدِ ذَهَبًا فَانْفَقَهُ مَا قِبْلَ اللَّهِ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقُدْرِ الْخَ "

یعنی ابن یعمر سے مردی کہ سب سے پہلے بصرہ کے اندر معبد جہنمی نامی ایک شخص نے قدر کا سوال اٹھایا، راوی کا بیان ہے میں اور حمید بن عبد الرحمن حمیری حج یا عمرہ کے ارادے سے نکلے دل میں شوق پیدا ہوا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے ملاقات ہو جاتی تو ہم ان سے اس فرقہ کے بارے میں پوچھتے جو قدر کے سلسلہ میں ایسا عقیدہ رکھتا ہے۔ خدا نے توفیق دی حضرت عبد اللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کی مسجد میں داخل ہوتے ہوئے ملاقات ہو گئی تو ہم دونوں نے انہیں وسط میں کر لیا اور ہم ان کے دامیں با میں ہو گئے۔ میں نے گمان کیا کہ میرا ساتھی مجھے بات کرنے کا موقع دے گا۔ میں نے گفتگو کا آغاز کیا اے ابو عبد الرحمن

(عبداللہ بن عمر کی کنیت) ہمارے یہاں کچھ لوگ ظاہر ہوئے ہیں جو قرآن بھی پڑھتے ہیں اور علم کا شوق بھی رکھتے ہیں۔ مگر وہ قدر پر یقین نہیں رکھتے۔ ابن عمر نے فرمایا جب تمہاری ان سے ملاقات ہو تو کہہ دینا کہ میں ان سے جدا ہوں اور وہ لوگ مجھ سے جدا ہیں خدا کی قسم اگر ان کے پاس أحد پہاڑ کے برابر سوتا ہو اور اسے خرچ کرڈیں پھر بھی خدا قبول نہیں فرمائے گا جب تک قدر پر ایمان نہ لائیں۔

”عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ القدرية مجووس هذه الامة ان
مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تشهدوهم“
(رواہ ابو داؤد)

ابن عمر رضی اللہ عنہمانے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قدریہ اس امت کا مجووس ہے اگر وہ مرض میں مبتلا ہو جائے تو اس کی عیادت نہ کرو اور اگر مر جائے تو نہ جاؤ۔

قدریہ، قضا و قدر کا منکر، اور بندہ کو اپنے افعال کا خالق اور خود مختار ثابت کرتا ہے اس کا نظریہ ہے کہ اشیاء ازال میں مقدرت نہیں بلکہ خدا کو ان کے وقوع کے بعد علم ہوتا ہے پہلے سے اسے کوئی علم حاصل نہیں کچھ عرصہ بعد اس فرقہ نے اپنے نظریات میں کچھ تبدلی تو کر دی لیکن ایک نیا شوشه چھوڑا کہ خدا کی جانب سے خیر ہے شر نہیں۔ رسول ﷺ کا اُسے مجووس (آتش پرست) سے تشبیہ دینا بایس معنی ہے کہ مجووس کی طرح اس نے بھی دو خداوں بلکہ سینکڑوں خداوں کا وجود مانا۔ مجووس کے مذہب کی اساس نور و ظلمت پر ہے خیر فعل نور ہے اور شر ، فعل ظلمت !..... اس واسطے مجووس کے یہاں خالق خیر یزدان اور خالق شر اہم ہے۔ لیکن قدریہ تو ہر انسان کو اپنے افعال کا خالق مان کر سینکڑوں ، ہزاروں ، لاکھوں اور کروڑوں خداوں کا وجود مان لیا۔

یہ تو رہا جبکہ یہ کافی نظر یہ اور ان کا فاسد عقیدہ! ہمارا عقیدہ ان سے مختلف ہے
قرآن و حدیث کی رو سے یہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا نے تعالیٰ نے تمام اشیاء کو
ازل ہی میں مقدر فرمادیا ہے اور اس کے علم میں ان کے وقوع کا صحیح وقت بھی معین
ہے اس پر کشش کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے باضی کے گھنڈر میں جو واقعات
محفوظ ہیں زمانہ حال کی کوکھ سے جو حادثات جنم لے رہے ہیں اور مستقبل میں جو
واردات رونما ہونے والی ہے قلم نے سب کچھ لوح محفوظ میں ثبت کر دیا ہے۔ اس
کے خلاف کچھ نہ ہو گا اور یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اس حقیقت کا قرآن شاہد ہے۔

﴿وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرْقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَجَةٌ فِي ظُلْمِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ
وَلَا يَابِسُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مَبِينٍ﴾

اور جو پتا گرتا ہے وہ اسے جانتا ہے اور کوئی دانہ نہیں زمین کی اندر ہیریوں
میں اور نہ کوئی تراورنہ خشک جو ایک روشن کتاب میں لکھا ہے۔
اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر خازن ص ۲۲۸ ج ۲ میں ہے۔

”فِيهِ قُولَانِ احْدَهُمَا أَنَّ الْكِتَابَ الْمَبِينَ هُوَ عِلْمُ اللَّهِ الَّذِي لَا يَغْيِرُ وَلَا
يَبْدِلُ وَالثَّانِي الْمَدَادُ بِالْكِتَابِ الْمَبِينِ هُوَ الْلَّوْحُ الْمَحْفُوظُ لَأَنَّ اللَّهَ كَتَبَ
فِيهِ عِلْمًا يَكُونُ وَقْدَ مَا كَانَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ“

اس آپتے پاک میں دو قول ہیں کتاب مبین سے یا تو عالم الہی مراد ہے جس
میں تغیر و تبدل نہیں یا اس سے لوح محفوظ مراد ہے جس میں خدا نے زمین و آسمان
کی آفریش سے پہلے علم ما کان و ما یکون رقم فرمایا۔

دوسری آیت ہے۔

﴿قُلْ لَنْ لِيَصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا﴾

کہہ دو ہر گز نہ پہنچ گا مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لئے لکھ دیا۔
اس آیت کے تحت اسی تفسیر میں ہے۔

” قل يا محمد لِهُؤُلَاءِ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا يَصْبِيكُ مِنَ الْمَصَابِ
الْمَكْرُورَهُ لَنْ يَصْبِيَنَا إِلَّا مَا قَدْرُهُ اللَّهُ لَنَا وَعَلَيْنَا وَكِتَبَهُ فِي الْلَّوْحِ
الْمَحْفُوظِ لَانَّ الْقَلْمَنْ جَفَ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ خَيْرٍ وَشَرِّ الخِ ”
جو لوگ آپ کی مصائب و شدائد کیجے خوش ہوتے ہیں اے رسول آپ ان سے فرم
دیجئے کہ خیر و شر میں سے جو کچھ خدا نے ہماری تقدیر لکھ دیا ہے وہی ظاہر ہو رہا ہے۔

” عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله ﷺ اول ما خلق الله القلم
فقال له اكتب قال ما اكتب قال اكتب القدر فكتب ما كان و ما كائن
إلى الأبد ”
(رواہ الترمذی)

عبدالله بن صامت سے مردی رسول ﷺ نے فرمایا خدا نے سب سے پہلا قلم
کو پیدا فرمایا اور اس سے لکھنے کو کہا قلم نے عرض کی میں کیا لکھوں ارشاد ربانی ہوا
قدر کو تحریر کر تو قلم نے ابد تک سب کچھ لکھ دیا۔
دوسری حدیث ہے۔

” رسول الله ﷺ يقول كتب الله مقادير الخلق قبل ان يخلق السموات
والارض بخمسين الف سنة و كان عرشه على الماء ”
رسول ﷺ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارض و سما کی تخلیق سے پچاس ہزار سال
پہلے تخلیق کی تقدیر تحریر فرمائی اور اس کا عرش پانی پر تھا۔

اس کے علاوہ اور بہت سی آیات و احادیث ہیں جنہیں خوف طوالت کی وجہ
سے نظر انداز کرتا ہوں۔ قرآن و حدیث کی ان تصریحات سے قضا و قدر کا ثبوت

لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی واضح کر دینا ضروری ہے کہ اس کی چند قسمیں ہیں۔ قضاۓ مبرم حقیقی یہ از لی فیصلہ علم الہی میں کسی چیز پر متعلق نہیں ہوتا ہے اس میں ترمیم و تبدیل بھی ممکن نہیں بلکہ یہ بندوں کی حقدرت سے باہر ہے حتیٰ کہ جو لوگ وحی والہام کے مرکز ہوتے ہیں جن پر فیضان الہی کی بارش ہوتی ہے وہ بھی اگر اس قضائیں تبدیلی کے بارے میں سب کشائی کرتے ہیں تو انہیں اس سے باز رہنے کی بدایت کی جاتی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قوم اوط کی بدکاری و شہوت پرستی پر آنے والے بھی انک عذاب کو رد فرمانے کی کوشش کی تو زبان قدرت بول انھی۔

”یا ابراہیم اعرض عن هذا انه قد جاء امر بک و انهم اتیهم عذاب غير مردود“

اے ابراہیم اس خیال میں نہ پڑو بے شک تیرے رب کا حکم آچکا ہے ان پر عذاب آئے گا پھیرانے جائے گا۔

تو قوم اوط پر نزول عذاب مبرم حقیقی تھا جس میں تبدیلی ناممکن تھی۔

قضاۓ متعلق: یہ قضافرثتوں کے صحیفوں میں متعلق ہوتی ہے اور کسی کا رخیر مثلاً صدقہ و خیرات کی برکت سے اس میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ اس قضائیک اولیاء کرام کی پہنچ ہو جاتی ہے اور ان کی دعاؤں کی برکت سے اس میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔

ع نگاہ مردمومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں

متعلق شبیہہ مبرم: یہ قضاعلم الہی میں کسی چیز پر متعلق ہوتی ہے لیکن فرثتوں کے دفتروں میں تعلیق مذکور نہیں ہوتی اس قضائیک خاص اکابر کی رسائی ہو جاتی ہے

غوث اعظم رضی اللہ عنہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں ”میں قضاۓ مبرم کو رد کر دیتا ہوں“

”اَنَّ الدُّعَاءَ يُردُّ الْقَضَاءَ بَعْدَ مَا ابْرُمَ“

دعا قضائے مبرم کو رد کر دیتی ہے۔

قضاۓ قدر کی ان تینوں قسموں کی روشنی میں قرآن پاک کی اس آیت کو
﴿يَعْلَمُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَ يَشْتَهِ عِنْدَهُ أَمْ الْكِتَابِ﴾

یعنی اللہ جو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور ثابت کرتا ہے اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے
دیکھا جائے تو اس کی مختلف تفیریوں سے قطع نظر اس کا تعلق آخری دو قسموں
سے معلوم ہوتا ہے ورنہ پہلی قسم میں تو ترمیم و تنخی کی گنجائش ہی نہیں۔

تقدیر کے سلسلہ میں یہاں ایک خلش ذہن میں پوسٹ ہو سکتی ہے کہ پچھلی
وہ ماحتوں سے یہ ثابت ہوا کہ زمین و آسمان کے وجود میں آنے سے قبل تقدیر تحریر
میں آچکی ہے۔ لیکن حدیث میں اس کے خلاف اشارہ ملتا ہے۔

چنانچہ حدیث میں ہے۔

”عَنْ أَبْنَى مُسْعُودَ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ الصَّادِقُ وَالْمَصْدُوقُ
أَنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يَجْمِعُ فِي بَطْنِ أَمِهِ أَرْبَعينَ يَوْمًا نَطْفَةً ثُمَّ يَكُونُ عَلْقَةً
شَانِكَ ثُمَّ يَكُونُ مَضْغَةً مُثْلِذَةً ثُمَّ ذَالِكَ ثُمَّ يَعْثَثُ اللَّهُ مَلْكًا بَارِبعَ
كَلْمَاتٍ يَكْتُبُ عَمَلَهُ وَاجْلِهُ وَرِزْقَهُ وَشَقِّيَّهُ أَوْ سَعِيدٌ الخ“

حضرت ابن مسعود سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اور آپ صارق و
مصدق تھے آدمی کی بناؤٹ ماں کے شکم میں چالیس بڑنطفہ کی صورت میں، پھر

اتنی مدت لوہڑا کی شکل میں اور اتنا ہی عرصہ پارہ گوشت کی صورت میں رہتی ہے پھر اس کی طرف اللہ تعالیٰ چار باتوں کے لئے ایک فرشتہ بھیجا ہے جو اس کا عمل، رزق اور شقیق یا سعید ہونا لکھ دیتا ہے۔

اس اشکال کا یہ جواب ہے کہ قدریتو ازال ہی میں لکھدی گئی شکم مادر میں صرف اس کا نفاذ ہوتا ہے!

قضايا و قدر کی اس وضاحت کے بعد ہر ذی شعور آدمی یہ سوال کر سکتا ہے کہ جب ازل ہی میں ہر فعل و عمل تحریر میں آچکا ہے اور اسی کے مطابق کائنات میں اس کا وقوع ہوتا ہے خیر و شر، شقاوت و سعادت جنم لیتی ہے یعنی جو تیر وقت کی کمان سے نکلتا ہے یہ اسی از لی فیصلہ کا نتیجہ ہوتا ہے بلطف دُگر انسان کو وہی کرنا پڑتا ہے جو اس کے وجود سے پیشتر صحیحہ قدر میں ثبت ہو چکا ہے اور جو محض ایک ادا کار کی طرح اپنا پارٹ انجام دے رہا ہے جیسا کہ فرقہء جبریہ کا نظریہ گزرایہ بڑا پیچیدہ موڑ ہے۔ اکثر ذہن ٹھوکر کھاتا ہے اور غلط منزل کی طرف مڑ جاتا ہے۔ قضا و قدر کا ہر گز یہ مفہوم نہیں کہ جو کچھ زیر تحریر آچکا ہے انسان کو وہی کرنا پڑتا ہے بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ زیاد جو کچھ کائنات میں آ کر کرنے والا تھا وہی اس کا نصیب ہے اور اسی کے بیان کا نام قدر ہے نہ کلختے کے مطابق زیاد عمل کرتا ہے۔ اس کی ایک خارجی مثال کے ذریعہ وضاحت کی جاسکتی ہے۔ آگرہ میں تاج محل ایک حسین و دلکش عمارت ہے شاہ جہاں نے اسے تعمیر کروایا جب اس کی تاریخ لکھی جاتی ہے تو سوراخ کا قلم اس طرح ”شاہ جہاں“ بر صیر کے شہنشاہ تھے ان کا خزانہ جواہرات سے لبریز تھا اپنی جان سے زیادہ عزیز یوں ارجمند با نعرف متاز محل کی وفات پر

اس کی حسین یادگار قائم کرنے کا خیال مسکرا اٹھا انہوں نے دلیں بدیں سے بہترین فنکاروں، سگر اشوں اور پیچی کاروں کو بلوایا بیش قیمت پھروں، گرفتار ہیروں اور انمول موتویوں کے حصول کے لئے انہوں نے خزانہ کامنہ کھول دیا۔ چنانچہ بیس سال کی طویل مدت میں بیس ہزار مزدور کی پیغم و مسلسل محنت و عرق ریزی کے بعد ایک نادر روز گار عمارت دریائے جمنا کے کنارے کسی حسین دو شیزہ کی طرح مسکرا اٹھی فنی ماہروں نے اس عمارت کے مرمریں جسم میں فن کا آخری قطرہ نجڑ کر رکھ دیا یہی عمارت ”تاج محل“ کے نام سے مشہور ہوئی جو تمام دنیا سے حسن و لکشمی کا خراج حاصل کر رہی ہے، تاریخ فنگار نے انہیں واقعات کو پرقدام کیا جو تاج محل کے سلسلے میں وقت کے سینے میں محفوظ تھے۔ ہم کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کو ازالہ ہی میں مقدر فرمادیا کہ شاہجهہاں بنوائے گا۔

فرق اتنا ہے کہ مورخ گذشتہ واقعات کو قلم بند کرتا ہے کیونکہ مستقبل اس کی دسترس سے باہر ہوتا ہے لیکن علم الہی سے باہر نہیں اس کا علم تو تینوں زمانوں پر صحیط ہے اسے معلوم کہ شاہجهہاں اس طرح کی عمارت تعمیر کرائے گا۔ اب اگر اسے کوئی جبر پر محبوں کرتا ہے تو یہ اس کی کچھ فہمی و نادانی ہے بلکہ بندوں کو خداۓ تعالیٰ نے یک گونہ اختیار سے بھی نوازا ہے جس پر ان کے عذاب و ثواب کا دار و مدار ہے۔

شرح عقائد نقشی میں ہے۔

”وللubbاد افعال اختیاریة میثابون بها ويعاقبون عليها“

یعنی بندوں کے کچھ اختیاری افعال ہیں جن پر ثواب و عقاب کی بنیاد ہے۔ البتہ ان اختیاری فعلوں کا خالق وہ خود نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن حکیم میں ہے

﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ إِذْ عَمِلْتُمْ﴾

اللہ تعالیٰ تمہارے، اور تمہارے اعمال کا خالق ہے۔

شرح عقائد میں ہے۔

”وَاللَّهُ خَالقُ لَا فَعَالُ الْعَبادُ مِنَ الْكُفُرِ وَالْإِيمَانِ وَالطَّاعَةِ“

ایمان اور طاعت سب کا خالق اللہ ہے۔

اس کی کیفیت شرح عقائد کے الفاظ ہی کے اجالوں میں ملاحظہ فرمائیے۔

”فَانْ قَصْدُ فَعْلِ الْخَيْرِ خَلْقُ اللَّهِ قَدْرَةٌ فَعْلُ الْخَيْرِ فَيَتَحْقِقُ الْمَدْحُ وَالثَّوَابُ إِنْ قَصْدُ فَعْلِ الشَّرِّ خَلْقُ اللَّهِ قَدْرَةٌ فَعْلُ الشَّرِّ وَكَانَ هُوَ الْمُضِيْعُ لِقَدْرَةٍ فَعْلُ الْخَيْرِ فَيَتَحْقِقُ الدَّمْ وَالْعَقَابُ“

انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور اپنے جوارح کو حرکت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نیکی پیدا فرمادیتا ہے۔ جبھی وہ قابل تعریف اور ثواب کا مستحق ہوتا ہے اور جب بُرے کاموں کا قصد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی بے نیازی سے بدی موجود فرمادیتا ہے چونکہ انسان خیر کی قدرت کو ضائع کر دیتا ہے اسی وجہ سے قابل نہ مت اور لاائق عقاب ہوتا ہے۔

حالات کی یہ اس کے اختیار کی بات ہے کہ خدا کی پیدا کردہ قدرت و طاقت کو کار خیر کے لئے استعمال کرے۔

شرح عقائد میں ہے۔

”إِنَّ الْقَدْرَةَ صَالِحةٌ لِلضَّدِّينَ عِنْدَ أَبِي حِنْفَةِ رَحْمَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ حَتَّىْ أَنْ الْقَدْرَةَ الْمَصْرُوفَةُ إِلَى الْكُفَّارِ بِعِنْدِهَا الْقَدْرَةُ الَّتِي لِتَصْرِيفِ إِلَى الْإِيمَانِ لَاْ اِخْتِلَافُ إِلَّا فِي التَّعْلِقِ وَهُوَ لَا يَوْجِبُ الْإِخْتِلَافَ فِي نَفْسِ الْقَدْرَةِ“

فالکافر قادر علی الایمان المکلف به الا انه صرف قدرتہ الی الکافر
وضیع با اختیارہ صرفہا الی الایمان فاستحق الذم والعقاب ”

امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک قدرت دو متضاد چیزوں کی
صلاحیت رکھتی ہے وہی قدرت جو کفر کے لئے استعمال کی گئی وہی بعینہ ایمان کے
لئے بھی استعمال کی جاسکتی ہے صرف تعلق میں اختلاف ہے اور اس سے نفس
قدرت کے اختلاف پر کوئی اثر نہیں پڑتا تو کافر ایمان پر قادر اور اس کا مکلف ہے
مگر اس نے اپنی قدرت کفر پر صرف کرڈا ہی اور اپنے اختیار سے ایمان کی بجائے
کفر پر صرف کر کے اسے ضائع کر دیا اسی بتا پر مذمت و عقاب کا مستحق ہوا۔

دو پیالوں میں شہد اور زہر کھا ہے، شہد میں شفاء اور زہر میں اثر ہلاکت محض
اسی قادر حکیم کا پیدا کردہ ہے اس نے اپنے بے پناہ فضل و کرم سے بالغ نظر اور
روشن دماغ حکیموں کی زبان سے اس حقیقت کا انکشاف کرایا کہ شہد میں منفعت
اور زہر میں ہلاکت ہے یہ آوازموج ہوا میں ڈھل کر ساری کائنات میں پھیل گئی۔
اب کسی نے شہد کا پیالہ اٹھایا اور کسی نے زہر کے پیالہ کو منہ سے لگایا جذب و حرکت
اسی کی پیدا کردہ ہے شہد حلق سے نیچے پہنچا لیکن اس میں بذات خود نفع نہیں بلکہ یہ
بھی دست قدرت ہی پر محصر ہے وہ نہ چاہے تو منوں شہد سے کچھ نہ ہوگا اور زہر کا
بھی حال ہے بایس ہمہ شہد کا پینے والا قابل تحسین و آفرین اور زہر کو حلق سے نیچے
اتارنے والا سزاوار ملامت ہے ہر صاحب اور اک یہی کہے گا کہ اس بدجنت نے
خود کشی کا ارتکاب کیا اول سے آخر تک بندہ جن جن حرکات و سکنات سے دوچار
ہواں سب کا خالق اللہ ہے اور بندہ کا سب! قرآن عظیم میں ہے۔

﴿لَهَا مَا كَسِبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسِبَتْ﴾

اس کا فائدہ ہے جو اچھا کیا اور اس کا نقصان ہے جو برائی کمائی اور کسب اس کا اپنا اختیاری فعل ہے جس پر عذاب و ثواب کی بنیاد ہے بہر حال۔

”لاجبر ولا قدر بل الامر بینهم“

نہ توجہ ہے نہ قدر بلکہ معاملہ بیچ میں ہے۔

ایک روز مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ خطبہ دے رہے تھے ایک شخص جو واقعہ جمل میں آپ کے ساتھ تھا، اس نے عرض کی۔ ”یا امیر المؤمنین مسئلہ قدر کی خبر دیجئے؟“

”بڑا عیش دریا ہے اس میں قدم نہ رکھ“ آپ نے جواب دیا۔ سائل نے پھر اصرار کیا۔

”اللہ کاراز ہے زبردستی اس کا بوجھ نہ اٹھا“ پار دگر آپ نے جواب دیا سائل مطمئن نہ ہوا اصرار کرتا ہی رہا۔

تو آپ نے فرمایا ”گرنہیں مانتا تو سن!“ دو امروں کے درمیان ایک امر ہے نہ آدمی مجبورِ محض ہے نہ اختیارِ تمام اس کے سپرد ہے۔“ سائل نے عرض کی فلاں شخص کہتا ہے کہ آدمی اپنی قدرت سے کام کرتا ہے اور وہ حضور میں حاضر بھی ہے۔ آپ نے اسے سامنے لانے کا حکم دیا۔ لوگوں نے اسے کھڑا کیا۔ جب اس پر آپ کی نظر پڑی تو نیام سے توار چار انگل کی مقدار نکل آئی اور فرمایا، ”کام کی قدرت کا تو خدا کے ساتھ مالک ہے یا اس سے بدالا مالک ہے خود ارالن دونوں باتوں میں سے کوئی نہ کہنا کہ کافر ہو جائے گا اور میں تیری گردن مار دوں گا۔“ اس نے عرض کی ”یا امیر المؤمنین پھر میں کیا کہوں؟“

آپ نے ارشاد فرمایا۔ ”اس خدا کے دیئے سے اختیار رکھتا ہوں اگر وہ
چاہے تو مجھے اختیار دے بغیر اس کی مشیت کے مجھے کچھ اختیار نہیں۔“
شامد اسی نظریہ سے متاثر ہو کر ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے۔
صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے پا بہ گل بھی ہے
انہیں پابندیوں میں حاصل آزادی تو کرے
قضايا قدر کا مسئلہ بڑا نازک ہے۔ اس میں الجھنے اور بحث و مباحثہ کرنے سے
حدیث میں سخت ممانعت آئی ہے اس لئے سکوت بہتر ہے ورشہ ایمان خطرے میں
پڑ سکتا ہے۔

(حضرت مطر قدیری پور نوی)



﴿عقيدة تقدیر﴾

دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ ان کی ماہیت سے کا حق واقفیت تقریباً ناممکن ہے ان میں سے بعض کی نوعیت خارجی وجہ سے فہم و ادراک میں نہیں آتی اور بعض عقل و فہم کی بالاتر ہونے کے سبب سمجھ میں نہیں آتیں مودودی الذکر اشیاء میں سے بعض وہ اشیاء ہیں جو مذہبی طریقے پر ایک امتحان قدرت ہوتی ہے۔ اور ذرا سی مداخلت یا جا سے عمر بھر کے حنات رائیگاں جاتے ہیں مسئلہ تقدیر بھی انہیں میں سے ہے۔

مسئلہ تقدیر کی نزاکت نوعیت و ماہیت مسلم امر ہے۔ لیکن انسان جو بالطبع غیر معلوم اشیاء اور منع کی ہوئی چیزوں کے حالات معلوم کرنے پر حرص ہے مسئلہ تقدیر میں بھی اپنی محدود عقل سے کام لینے سے نہ رکا۔ اور آخر ایسے ارتکاب کا مرتكب ہوا جو اس کی مذہبی زندگی کے شایانِ شان نہ تھے۔

بعض نے کہا کہ تقدیر کا خیر و شر سب خدا کی طرف سے ہے۔ اور عذاب و ثواب یا جزا اوسرا کوئی چیز نہیں ہے۔ بعض نے قرار دیا کہ تقدیر اور فاعل تقدیر یعنی خالق تقدیر کوئی چیز نہیں۔ دنیا ابتداء سے چلی آتی ہے اور اس طرح چلتی رہے گی نظامِ عالم خود فطرت ہے اس کا کوئی جز خلاف فطرت نہیں۔

بعض نے سمجھا کہ امور نیک مقاصد خیر تقدیر ہیں، برائیاں اور ناقص ارادے تقدیر میں نہیں، یہ انسانی یا شیطانی فعل ہے۔ غرض ہر شخص نے تقدیر کو اپنی محدود عقل کے موافق سمجھا اور جو ناقص فہم میں آیا قرار دے لیا، یہ اختلاف

خطرناک اس وجہ سے واقع ہوئے کہ انسان نے ایک ایسے مسئلہ میں اپنی عقل سے کام لیا جو اس کی عقل سے بالاتر تھا۔ اسلام نے اپنے مطیع و متعاد بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ تقدیر کے مسئلہ میں عقل سے کام نہ لیں تقدیر کا مسئلہ خالق تقدیر کے ہاتھ میں ہے۔ اس میں کلام کرنا دین و دیا میں موجب خساراں ہو گا۔

اسلام کے اس پاکیزہ حکم نے ہمارے فرائض مسئلہ تقدیر سے متعلق صرف اتنے رکھے ہیں کہ ہم بحیثیت پیر و مذہب ہونے کے تقدیر کو حکم الہی جان کر درک کہہنہ و حقیقت سے بازر ہیں اور ایک لفظ بھی اس کے متعلق نہ کالیں۔ لیکن افسوس ہے کہ اسلام کے ماننے والوں نے جہاں اسلام کے اکثر حصص سے روگردانی اختیار کر لی ہے اور غیر قوموں کے شعائر و خصال کو پسند کر لیا ہے وہاں مسئلہ تقدیر میں بھی بہت سی باتیں پیدا کر لی ہیں۔ اور الانسان حریص علی ما منع کے مصدق بن کر تقدیر کے مسئلہ میں شرعی و مذہبی ممانعت کا ذرہ بھر خیال نہیں کیا ہے جس سے ایک مذہبی قوم کی مذہبی زندگی کو نہ صرف نقصان پہنچ رہا ہے بلکہ یہی طور پر تعلیم اسلام کو ناکافی و اپنی سمجھ سے کمتر درج دیا جا رہا ہے۔

ذیل میں ہم مسئلہ تقدیر کو نہایت واضح طریق پر تعلیم اسلام کے مطابق درج کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ بزرگان اسلام نے اس سے زیادہ تقدیر کے بارے نص محدود کام لینے اور ناقص سمجھ کی تاویلات کا جامہ پہنانے سے منع قرار دیا ہے اس لئے ہمارے لئے کوئی ضرورت اس امر کی داعی نہیں ہو سکتی کہ ہم خواہ مخواہ اس مسئلہ میں گفتگو کرنے یا اپنی سمجھ سے نوعیت تقدیر کو مطابق کرنے کی کوشش کریں۔

تقدیر کا مادہ قدر ہے جو دال کے سکون و فتح دونوں طریق پر صحیح ہے لغت میں

قدر کے معنی "اندازہ کردہ خدا برائے بندہ لکھے ہیں۔

معنی مذکور سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حقیقت تقدیر خدا کا ایک اندازہ ہے جو اس نے انسان کے واسطے قرار دیا ہے اس لئے خدا کے اندازہ میں مداخلت کرنا کسی نوع بھی درست نہیں۔

بزرگان مذہب نے لکھا ہے کہ تقدیر تین قسم پر منقسم ہے۔

تقدیر معلق: یعنی وہ تقدیر جو علم و اندازہ باری تعالیٰ میں حکم قطعی نہیں رکھتی کہ اس کے خلاف ناممکن ہو، بلکہ اس میں اسی وقت تعلیق ہے جب تک کہ خدا کے اندازہ کے موافق کوئی خارجی اس کی تعلیق کو حکم قطعی سے نہ بدل دے جو شے اس تعلیق کو بدلتے والی ہے اس کا علم و اندازہ خدا کو ہے لیکن اس میں مصلحت یہ ہے کہ نظام عالم کے اسباب جن کا تعلق تقدیر معلق میں پیدا کرنے سے ہے بیکار نہ ہو جائیں، اس تقدیر کی تعلیق دعا یاد و اغیرہ سے حکم قطعی اختیار کر لیتی ہے۔ اور تعلیق جاتی رہتی ہے دنیا میں دعاؤں کی قبولیت دعاؤں کا اثر اور ان صدقات و عبادات کے نتائج کا ترتیب جو مخصوص طور پر کسی کام کے لئے کئے جاتے ہیں۔ اسی تقدیر پر موقوف ہے،

تقدیر مبرم: یعنی وہ تقدیر جو خداوند تعالیٰ نے غیر موقوف و غیر معلق قرار دی ہے جس کا حکم قطعی اور خداوند تعالیٰ کا اندازہ قطعی و غیر تغیر پذیر ہے اس تقدیر میں جو اندازہ خدا نے کر دیا ہے وہ ضرور وقوع میں آئے گا اس کے خلاف ناممکن ہے۔

تقدیر بعلم الہی: یہ تقدیر نہ معلق ہے نہ مبرم اس خصوص تقدیر میں خاصاً خدا کو عرض و معروض کی اجازت ہے مذکورہ بالا تشریحات سے معلوم ہو گا کہ دنیا میں مصائب و ابتلاء، خواہش و آرزو، جس قدر امور انسانی ہستی سے متعلق ہیں وہ تقدیر

سے ضرور تعلق رکھتے ہیں لیکن چونکہ کسی کو یہ معلوم نہیں کہ وہ تقدیر کی کس صنف میں ہیں اس لئے جدوجہد، دعاء دوا اور ہر ایک قسم کی مناسب و ضروری تدابیر سے دست کش نہیں ہوتا چاہیے ممکن ہے جس چیز کی خواہش ہم کو ہے وہ متعلق بعلم الہی ہو مبرم نہ ہو اور تدبیر سے ہم اس میں کامیاب ہو جائیں، کتب تصوف میں امور خرق عادات اور بہت سے ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ جو تقدیر متعلق کے ثبوت میں بہترین دلائل ہو سکتے ہیں۔

حضرت غوث اعظم اور ان کے پیر حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ کہ ایک شخص حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سفر تجارت کی اجازت حاصل کرنے آیا، آپ نے فرمایا کہ تیرے اس سفر میں مجھے جانی و مالی نقصان نظر آتا ہے، بہتر ہے کہ اس سفر کو ترک کر دیا جائے۔ شخص مذکور دوبارہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اجازت مل جانے پر وہ چلا گیا، اور اموال تجارت کی خرید و فروخت کر کے واپس لوٹا واپسی میں ایک مقام پر اس نے خواب میں دیکھا، کہ ڈاؤں نے اس پر حملہ کیا ہے اور چاروں طرف سے گھیر کر ان کے اموال و اجناس و نقد کو لوٹ لیا ہے اور تکوار و تیر سے اُسے بھی رنجی کر دیا ہے۔ خواب سے بیدار ہوادیکھا کہ مال و جان سلامت ہے، غرض سفر کر کے خیر و عافیت سے مکان پہنچا اور حضرت حماد کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت نے شخص مذکور سے فرمایا اس سفر میں تیرے لئے خطرہ جان و مال ضروری تھا لیکن عبدالقادر جیلانی نے قضا کو دعاء سے رد کر کے بیداری سے خواب میں تبدیل کر دیا۔ اسی قسم کے بہت سے واقعات اس ثبوت میں موجود ہیں جن سے کوئی صاحب اور اک عقلمند انسان انکا رنہیں کر سکتا۔

(مولانا محمد سلیم اختصار صاحب بورنوی)

﴿تو حیدور رسالت پر کتاب و سنت کے شواہد﴾

”شریعت اسلامیہ“ کے مسائل کی دو قسمیں ہیں ایک وہ مسائل جن کا تعلق صرف تقدیق قلب اور اعتقاد سے ہے، دوسرے وہ مسائل جن کا تعلق تصدیق کے ساتھ ساتھ عمل سے بھی ہے۔ پہلی قسم کا نام ”عقائد اسلام“ اور دوسری قسم کو ”اعمال اسلام“ کہتے ہیں۔ دین اسلام میں عقائد کو اعمال سے وہی تعلق ہے جو درخت کی جڑ کو اس کی شاخوں سے اور مکان کو اس کی بنیادوں سے ہوا کرتا ہے جس طرح کسی مکان کی بنیادوں کے متزلزل یا منہدم ہو جانے کے بعد مکان کے قیام و استحکام کو سوچا بھی نہیں جاسکتا۔ بالکل ٹھیک اسی طرح اسلامی عقائد کے بغیر اسلامی اعمال کو نقش برآب یا ”ہوائی محل“ کے سوا کچھ بھی نہیں کہا جاسکتا!

یوں تو اعمال اسلام کی طرح عقائد اسلام کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے مگر عقائد اسلام کے وہ بنیادی اصول جو تمام عقائد اسلامیہ کا محور اور دین اسلام کی پوری عمارت کے سنگ بنیادی کی حیثیت رکھتے ہیں وہ صرف تین ہیں۔

1 توحید 2 رسالت 3 قیامت

عقائد اسلامیہ کے یہی وہ تین عنوان ہیں جو تمام عقائد اسلام کی اصل الاصول ہیں۔ اور قرآن و حدیث سے مستبط ہونے والے تمام اعتقادی احکام کا محور اور دارودار ہیں۔ اور ”علم العقائد“ کے تمام مسائل انہی تین اصول کی فروع اور شاخیں ہیں۔ ان میں سے صرف اول الذکر دو عنوانوں پر مجھے انتہائی اختصار کے ساتھ کچھ روشنی ڈالنی ہے جو حسب ذیل ہے۔

اسلامی توحید: عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ خدا کو ایک مان لینا بس یہی "توحید" ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ اسلامی توحید یعنی دین اسلام نے جس توحید کے عقیدہ و اعتقاد کا مطالبہ کیا ہے اس کے لئے فقط اتنی ہی بات کافی نہیں ہے کہ خالق کائنات کو "واحد حقیقی" مان لیا جائے، کیونکہ اس معنی میں تو "فلسفہ یونان" بھی توحید کے قابل ہیں، حالانکہ ان کی بے شکی تو حید کو اسلامی توحید سے دور کا بھی تعلق نہیں، فلسفہ یونان کو تو اپنی خیالی توحید واجب الوجود کا اتنا بڑا خط ہے کہ ان لوگوں نے اپنی اس من گھرست توحید کے چکر میں پورے گھن چکر بن کر خدا کو جاہل مطلق جان لینا گوارا کر لیا۔ چنانچہ آپ یہ سن کر جیران رہ جائیں گے کہ حکماء یونان میں ایسے ایسے جاہل اور خطبی ہو چکے ہیں جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ معاذ اللہ خدا جاہل مطلق ہے اور اس کو کسی چیز کا بھی علم نہیں۔ یہاں تک کہ اس کو اپنی ذات کا بھی کوئی علم نہیں ہے۔ چنانچہ وہ بر ملا اپنے اس کافرانہ و جاہلانہ عقیدے پر اس طرح دلیل پیش کرتے ہیں کہ خدا خود ہی اپنی ذات کو نہیں جان سکتا۔ کیونکہ اگر وہ اپنے کو جان لے گا تو وہ خود ہی عالم (جانئے والا) بھی ہو گا۔ اور خود ہی معلوم (جانا ہوا) بھی ہو گا۔ تو پھر خدا کا عالم و معلوم ہونا لازم آئے گا۔ اور ظاہر ہے کہ عالم اور معلوم میں غیریت اور تغایر ہوا کرتا ہے عالم اور معلوم دونوں ایک ہی نہیں ہو سکتے۔ لہذا خدا اگر اپنی ذات کو جان لے گا تو پھر خدا کی ذات میں اثنینیت اور اس کا دور ہونا لازم آئے گا جو اس کی توحید حقیقی کے منافی ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ خدا اپنے کو نہیں جان سکتا۔

"وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ نَفْسَهُ، فَكَيْفَ يَعْرِفُ غَيْرَهُ"

یعنی جو اپنے آپ کو نہیں جانتا وہ بھلا اپنے غیر کو کیونکر اور کیسے جان سکتا ہے۔

لہذا ثابت ہوا کہ خدا ان اپنے آپ کو جانتا ہے نہ اپنے غیر کو وہ بالکل ہی جاہل مطلق ہے۔ (معاذ اللہ)۔

غور فرمائیے کہ فلاسفہ یونان جو واجب الوجود (خدا) کو واحد حقیقی مانتے ہوئے یہ کافرانہ عقیدہ رکھتے ہیں، کہ معاذ اللہ خدا جاہل مطلق ہے ان کا فروں کو بھلا کوں ہے جو اسلامی موحد کہہ سکتا ہے۔

لہذا معلوم ہوا کہ اسلامی نقطۂ نظر سے فقط خدا کو واحد حقیقی تسلیم کر لینا ہی یہ اسلامی توحید نہیں ہے بلکہ اسلام نے جس توحید کا تصور پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ خدا کو تمام صفات ذاتیہ مثلاً حیات، قدرت، سننا، دیکھنا، کلام، علم، ارادہ وغیرہ کے ساتھ متصف مانتے ہوئے اور تمام ان اوصاف کو جو اس کوشان الوہیت کے منافی اور عیوب و نقصان ہیں مثلاً تمثیل، تعطیل، تولید، ظلم، جہل، کذب وغیرہ کو اس کی ذات میں حال جانتے ہوئے بلکہ ان اوصاف کو بھی اس کی ذات میں حال تسلیم کرتے ہوئے جو نہ کمال ہیں نہ نقصان یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ واحد حقیقی ہے اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ احکام میں، نہ اسماء میں۔

یہ ہے وہ اسلامی توحید جو لا اله الا الله کا مفہوم ہے چنانچہ مسلمان کا بچہ بچہ ایمان محمل میں اس مفہوم کو اس طرح ادا کرتا ہے۔

”آمنت بالله کما ہو باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ“
یعنی میں ایمان لا یا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے اور میں نے اس کے تمام احکام کو قبول کیا۔

غرض قرآن مجید اور احادیث کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی وہ

اسلامی توحید ہے جو آیات قرآنیہ اور احادیث صحیحہ کا نپوڑا اور عطر ہے۔

کون نہیں جانتا کہ سورہ اخلاص میں ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ اللَّهُ الصَّمَد
 ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ﴾ فَرَمَّا كَرْتُ وَحْيَ الْبَيْنِيَّةَ
 ذَكَرَ فَرَمَّا تَهْوَى إِرْشَادِ رَبَانِيَّهُ وَأَكَمَّهُ بَيْغَبَرْ ! آپ فرماد تجھے کہ اللہ ایک ہے
 اللہ کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کا محتاج ہیں۔ ناس نے کسی کو جتا ہے نہ اس کو
 کسی نے جنا ہے اور اس کا کوئی جوڑا ہے۔

غور فرمائیے کہ خدا کی وحدانیت کے ساتھ تمام ان عیوب و نقائص سے خدا
 کی برآت کا اعلان بھی ہے جو شان الوہیت کے منافی۔

اسی طرح سورہ حشر میں ارشاد ہوا کہ :

﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةُ هُوَ الرَّحْمَنُ
 الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقَدُوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ
 الْمَهِيمُنُ الْعَزِيزُ الْجَبَارُ الْمُتَكَبِّرُ سَبِّحْنَ اللَّهَ عَمَّا يُشَرِّكُونُ هُوَ اللَّهُ
 الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمَصْوُرُ لِهِ أَسْمَاءُ الْحَسَنِي﴾

یعنی اللہ وہی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ غیر اور شہادت جانے
 والا۔ وہ بڑا مہربان بہت ہی رحم والا ہے۔ اللہ وہی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود
 نہیں، وہ بادشاہ، پاک، سلامتی دینے والا، امن دینے والا، غالب عزت والا،
 وہی اللہ ہے جو سب کا پیدا کرنے والا، سب کو وجود بخشنے والا، صورت بنانے والا،
 اس کے بہت سے اچھے اچھے نام ہیں۔

ملاحظہ فرمائیے کہ ان آیات اور اس قسم کی سینکڑوں آیتوں میں خدا کو اس کی

صفات کمالیہ ذاتیہ کے ساتھ متصف مان کر اور تمام منافی الوہیت اوصاف سے بری و منزہ تسلیم کرتے ہوئے اس کے واحد حقیقی کا اعلان کیا گیا ہے۔

لہذا اب اس اسلامی توحید کی روشنی میں مندرج ذیل مسائل روز روشن کی طرح عیاں ہو گئے کہ:

1: اگر کوئی خدا کو ایک مانتے ہوئے اس کا مثل ممکن مانے، یا اس کے لئے بیٹھا، بیٹھی، بیوی ثابت کرے یا اس کے لئے زمان و مکان اور جہت ثابت کرے تو وہ اسلامی موحد نہیں ہو سکتا۔

2: اگر کوئی خدا کو ایک مانتے ہوئے یہ عقیدہ رکھے کہ وہ کوئی کام ہی نہیں کرتا بلکہ وہ معطل محض ہے جیسے فلاسفہ یونان کا عقیدہ ہے تو ایسا عقیدہ رکھنے والا اہل اسلام کے نزد یہ موحد نہیں ہو سکتا۔

3: اگر کوئی خدا کو ایک مانتے ہوئے اس کے علم کا انکار کرے جیسے یوتانی حکماء کا ایک گروہ تو وہ بھی اسلامی موحد نہیں۔

4: اگر کوئی خدا کو ایک مانتے ہوئے اس کی ذات میں عیوب و نقصان مثلاً ظلم، جھوٹ، وغیرہ کو محال نہ مانے، بلکہ امکان کذب باری کا قائل ہو تو ظاہر ہے کہ وہ اسلامی موحد کہلانے کا مستحق نہیں ہو سکتا۔

5: اگر کوئی خدا کو ایک مانتے ہوئے خدا کی صفات ذاتیہ کا انکار کرے تو وہ بھی اسلامی موحد نہیں۔

6: لاکھوں بار خدا کے واحد حقیقی ہونے کا اعلان کرنے کے باوجود اگر کوئی خدا کی صفات کمالیہ میں سے کسی ایک صفت کا بھی انکار کرے یا منافی الوہیت

کسی ایک صفت کو بھی خدا کے لئے ثابت کرے تو وہ اسلامی توحید کا مانتے والا نہیں کہلا سکتا۔

رسالت: خداوند تعالیٰ کے وہ خاص برگزیدہ اور منتخب بندے جن کو وہ اپنے فضل و کرم سے چُن کر اپنے بندوں کی ہدایت کے لئے ان کی پاس بذریعہ "وجی" اپنا پیغام بھیجتا ہے وہ نبی کہلاتے ہیں ان میں سے بہت سے نبیوں کو "رسول" کہتے ہیں مسلمانوں کو جس طرح خدا کی توحید پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی طرح خداوند قدوس کے تمام نبیوں اور رسولوں کی صداقت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے کسی ایک نبی یا رسول کا انکار کفر ہے۔ اسی طرح کسی غیر نبی کو نبی مان لینا بھی کفر ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ۔ ﴿لَا نَفِرَّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رَسُلِهِ﴾

اسلام میں رسالت کا تصور:

اسلام نے نبوت و رسالت کا جو تصور پیش کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی اور رسول خداوند تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان واسطہ کی حیثیت رکھتے ہیں چونکہ بندے حادث، فانی، عاجز ہیں اس لئے وہ براہ راست خداوند واجب الوجود قدر یہم و قادر مطلق کی ذات سے اکتاب فیض نہیں کر سکتے، اس لئے خداوند کریم اپنے فضل و کرم سے اپنے کچھ بندوں کو عام بندوں سے زیادہ قدرت و توانائی اور قسم قسم کے کمالات عطا فرمایا کر اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان فیض رسانی کے لئے واسطہ بنا دیتا ہے چنانچہ حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اپنی خاص صلاحیتوں کی بنابر خداوند تعالیٰ سے براہ راست فیض حاصل کر کے عام بندوں تک فیضان خدوں ندی کا افاضہ فرماتے رہتے ہیں اور خداوند قدوس کا پیغام بندگان خداونک پہنچاتے رہے ہیں۔

ایک مثال: عام طبیعت میں تفہیم کے لئے اس کی یہ مثال پیش کی جاسکتی ہے کہ مثلاً پانی میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ براہ راست آگ سے گرمی حاصل کر کے گرم ہو جائے اس لئے پانی کو آگ سے گرم کرنے کے لئے پانی اور آگ کے درمیان ایک برتن کا واسطہ ضروری ہے کہ برتن کو آگ پر رکھ دیا جائے اور برتن میں پانی ڈال دیا جائے تو برتن آگ سے حرارت حاصل کر کے پانی تک آگ کی حرارت کو پہنچا دے گا۔ اور پانی گرم ہو جائے گا۔ بلا تشییہ اسی طرح عام بندوں میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ خود بخود براہ راست خداوند قدوس سے فیض حاصل کر سکیں، اس لئے عام بندوں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان انبیاء کرام ایک واسطہ کی حیثیت رکھتے ہیں کہ وہ اپنی کامل صلاحیتوں کی وجہ سے خود بخود براہ راست خداوند تعالیٰ سے فیض حاصل کر کے عام بندوں تک پہنچاتے ہیں۔

ناظرین کرام! جب اسلام نے نبی و رسول کا یہ تصور پیش کیا ہے کہ انبیاء کرام خدا اور عام بندوں کے درمیان حصول فیض کے لئے واسطہ کی حیثیت رکھتے ہیں تو مندرج ذیل دو مسائل انتہائی وضاحت کے ساتھ حل ہو گئے۔

1: کوئی نبی نہ خدا ہو سکتا ہے۔ نہ بالکل عام امتی جیسا ہو سکتا ہے۔

2: جو نبی کو بالکل عام انسانوں جیسا ایک انسان بتائے اور فضل و کمال میں نبی کو تمام انسانوں سے ممتاز اور افضل و اعلیٰ نہ مانے وہ رسالت پر ایمان لانے والا نہیں کہلا سکتا۔



ایک غلط فہمی کا ازالہ:

زمانہءے حال کے بعض تجدید پسند اور مغرب زدہ لوگوں نے اپنی زبان و قلم سے اس غلط عقیدہ کا بہت زیادہ پروپیگنڈہ کیا ہے اور کہر ہے ہیں کہ نبی اور رسول کی حیثیت بس ایک قاصد اور اپنی کی ہوا کرتی ہے۔ اور نبی ایک ڈاکیہ اور پوسٹ میں سے زیادہ کوئی مقام نہیں رکھتا، جس طرح ڈاکپہ کسی کا خط تم کو لا کر دے دیتا ہے اور چلا جاتا ہے اسی طرح انبياء کرام خدا کا پیغام بندوں تک پہنچا کر چلے جاتے ہیں۔ (معاذ اللہ)

برادران ملت! یہ مقام نبوت و رسالت کا اتنا غلط تصور ہے جس نے قلوب مؤمنین سے عظمت انبياء کا جتازہ نکال دیا اور امت مسلمہ کا ایک طبقہ تنقیص و توہین انبياء علیہم السلام کے جرم عظیم کا مرتكب ہو کر عذاب دارین کی لعنتوں میں گرفتار ہو گیا اور اصول اسلام کا سارا نظام درہم برہم ہو گیا۔ فیا اسفاه و یا حسرت اہ

برادران ملت! حق یہ ہے کہ اسلام میں اور رسول کا مقام بہت ہی بلند اور ارفع و اعلیٰ ہے اس میں شک نہیں کہ انبياء علیہم السلام خدا کے پیغمبر اور اور اس کے احکام کو خدا کے بندوں تک پہنچانے کی لئے آتے ہیں۔ مگر حاشا ما شایہ بالکل غلط ہے کہ وہ پوسٹ میں اور ڈاکیہ کی حیثیت رکھتے۔ توبہ توبہ، ہنوز باللہ ہرگز نہیں بلکہ وہ خدا کی طرف پیغمبر اور شارع بن کر تشریف لاتے ہیں اور خداوند تعالیٰ تمام بندوں پر ان کی اطاعت و فرمان برداری کو لازم اور ضروری قرار دیتا ہے۔ نبی و رسول خدا کے خلیفہ اس کے نائب، اس کے دیئے ہوئے اختیارات سے امر، ناہی، محل، محمل، محروم، ہوا کرتے ہیں۔ اس مضمون کی سینکڑوں آیتیں اور حدیثیں ہیں

جن کو اگر جمع کر دیا جائے تو ایک ضخیم دفتر تیار ہو جائے گا۔

قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ -

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾

یعنی تم نے ہر رسول کو اسی لئے بھیجا ہے تاکہ لوگ اسکی اللہ کے حکم سے اطاعت کریں۔

کہیں فرمایا کہ :

﴿أَطِقْعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ﴾ یعنی اے لوگو! تم اللہ اور رسول کی اطاعت کرو

کہیں ارشاد فرمایا کہ :

﴿مَا أَنَّا مُكْفِرُونَ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾

یعنی رسول جو کچھ تھیں دیں اس کو لے لو، اور جن چیزوں سے منع کریں ان سے

باز رہو۔

کہیں یہ فرمایا کہ :

﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ یعنی اللہ اور رسول کی نافرمانی ممنوع اور حرام ہے۔

اسی طرح حدیثوں میں حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ۔

”اگر مجھے اپنی امت کے مشقت میں پڑ جانے کا خیال نہ ہوتا تو میں

ہر نماز کے وقت مساوک کرنا فرض قرار دے دیتا، اور عشا کی نماز کو

تمہائی رات تک موخر کر دینے کا حکم دے دیتا۔“

ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ

”اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال حج کرنا فرض ہے تو ہر سال حج کرنا فرض

ہو جاتا“

وغیرہ وغیرہ بہت سی حدیثوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ نبی و رسول کو خداوند

عالم نے احکام تشریعیہ کے بارے میں خصوصی اختیارات عطا فرمائے ہیں وہ جس کے لئے جو چاہیں حلال و حرام فرمادیں اور جس کے لئے چاہیں فرض و واجب قرار دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شارع، آمر، ناہی، مطاع اور مقتدٰ بننا کر بھیجا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک ڈاکیہ اور پوٹھیں ایسے اور اتنے اختیارات کا مالک نہیں ہوا کرتا پھر بھلا یہ کیونکر درست ہو سکتا ہے کہ نبی اور رسول کی حیثیت تو ایک قادر اور اپنی سے زیادہ نہیں ہوا کرتی؟

بہر کیف مقام نبوت و رسالت کی اس مختصر توضیح و تشریح اور حضرات انبیاء علیہم السلام کے مناسب جلیله، اور ان کی باعظمت حیثیت واضح ہو جانے کی روشنی میں مندرج ذیل عقائد ضروریات دین میں سے ہے۔

: 1 وہی نبوت انبیاء کے لئے خاص ہے اس وہی کو جو غیر نبی کے لئے مانے وہ کافر ہے؟

: 2 ہر نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے یعنی ان کے لئے خداوند تعالیٰ نے گناہوں سے حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے جس کے سبب ان سے کسی گناہ کا صادر ہونا شرعاً محال ہے۔

: 3 جو کسی نبی سے نبوت کا زوال جائز تھا رائے وہ کافر ہے۔

: 4 احکام خداوندی کے پہنچانے میں انبیاء سے ہوونسیان محال ہے۔


: 5 انبیاء علیہم السلام کا تمام گناہوں سے اور تمام اُن خصال رزیلہ سے جو مخلوق کے لئے باعث ذلت ہوں جیسے جھوٹ، خیانت، جہالت، بخیل

وغیرہ بلکہ ایسے تمام اعمال و افعال سے جو وجاهت اور شانداری کے خلاف ہیں قبل نبوت اور بعد نبوت مخصوص ہونا ضروری، بلکہ ان کے جسم کا ان تمام امراض سے بھی پاک ہوتا ضروری ہے جو مخلوق کے لئے باعث تنفس ہوں جیسے برص، جذام، گنجائیں وغیرہ۔

6: ہر نبی کی تعظیم و تو قیرفرض عین ہے بلکہ تمام فرائض کی اصل ہے کسی نبی و رسول کی اوفیٰ سی تو ہیں یا تکنذیب کفر ہے۔

(والعياذ بالله تعالى عنه)

(مولانا عبدالمصطفیٰ صاحب اعظمی)



﴿اسلام اور دیگر مذاہب عالم﴾

ادارہ پا سبان کی جانب سے میرے لئے جو عنوان مقالہ تجویز فرمایا گیا ہے اگر حق تحریر ادا کیا جائے تو اختصار کی شرط قبول کرنے کے بعد بھی کئی سو صفحات درکار ہوں گے اور مجھے یقین ہے کہ میرے مقالہ کو پا سبان کے ایک خاص نمبر میں صرف چھ صفحات مل سکیں گے اس لئے میں اس عنوان پر تفصیلی تحقیق سپر قلم کرنے کے بجائے ایک سرسری مطالعہ اور ایک اجمالی تعارف ہی پر اتفاقاً کروں گا اسلام کا دوسرا مذاہب سے موازنہ کرنے کی صورت میں ان عناصر کا ایک سرسر خاکہ ضرور پیش کرنا پڑے گا جن پر مذاہب عالم کی بنیاد رکھی گئی ہے جو مذاہب کے تطبی نقشوں میں اساس کی حیثیت رکھتے ہیں جن کے بغیر کوئی مذہب اور کوئی نظام نظام کھلانے کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ وہ عناصر مندرجہ ذیل ہیں۔

(۱) نظام عقائد (۲) نظام عبادات (۳) نظام اخلاق

اسلام اور اس کے علاوہ دنیا کے تمام مذاہب خواہ وہ منزل من اللہ ہوں اور بعد میں تحریف و تبدیل کی نظر ہو گئے ہوں یا چند انسانوں کی مشترک اختراع فکر کا نتیجہ ہو، ان کی بنیاد کچھ معقول دلائل کے اوپر ہو یا وہ اوہام و خرافات نیز اساطیر الاولین کا مجموعہ ہوں۔ مندرجہ بالائیں اساسی قدروں کا دعویٰ ہر ایک میں ملے گا۔ اس لئے مذاہب عالم تقابلی مطالعہ پیش کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ان عناصر ثلاثة کا غیر جانبدارانہ تجزیہ کیا جائے۔ آئیے سب سے پہلے ہم دنیا کے مشہور مذاہب کے نظام عقائد کا جائزہ لیں اس معرفت کے ساتھ کہ اس مختصر سے مقالے میں عقائد کی تمام جزئیات کا استقصاء نہ ہو سکے گا۔ البتہ ان میں صرف

عقیدہ اللہ اور عقیدہ رسالت پر گفتگو ہو سکے گی۔

عقیدہ اللہ : دنیا میں اپنے اتباع کی کثرت اپنے مشنوں کی حرکت اور بلند و بائگ دعوؤں کی وجہ سے مذہب مسیحیت اس وقت پورے کرہ ارض کے اوپر چھایا ہوا ہے لیکن جب ہم اس کی مادی دل فریبیوں سے قطع نظر اس کی ایمانی، اخلاقی اور عباداتی، اقدار کا جائزہ لیتے ہیں تو انہائی حیرت ہوتی ہے کہ اس قدر کمزور اور ضعیف بنیادوں پر قائم ہونے والا مذہب اس قدر مقبول کیوں ہے پھر ہمیں بے ساختہ اس دور میں پروپیگنڈے اور اشاعتی اداروں کی اہمیت کا اقرار کرنا پڑتا ہے کہ جب تک دنیا کا ہر فرد اس قدر بالغ نظر نہ ہو جائے کہ وہ مذاہب کا تقابلی مطالعہ کر کے اپنے لئے ایک موزوں اور مناسب راستہ دوسرے لفظوں میں صراط مستقیم اختیار کر سکے اس وقت تک لوگ پروپیگنڈوں پر ایمان لاتے رہیں گے۔

ہم یقیناً اس اسلام کے اوپر ایمان لائے ہیں جسے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلوہ گر ہوئے تھے جس کے متعلق نجاشی شہنشاہ جب شے نے کہا تھا کہ یہ دونوں مذاہب تو ایک ہی نور مطلق کے دوجلوے ہیں لیکن مسیحیت کا موجودہ تصور الہ کس قدر لرزاد ہے والا کس قدر غیر معقول اور ناقابل یقین ہے وہ اس عقیدے کی مشہور اصطلاح التکییہ فی الواحدۃ والوحدة فی التکییۃ سے ظاہر ہے یہ وہ اصطلاح ہے جس پر پورے عیسائی ازم کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ ایک تین اور تین ایک کی غیر معقول ریاضی تقسیم اور وحدت کو کون قبول کر سکے گا۔ اس اصطلاح کا مفہوم مسیحی کتب عقائد میں یہ پیش کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ روح القدس، اور الہ تینوں ایک ہیں اور تینوں تین ہیں۔ بعض تصریحات کے اعتبار سے حضرت عیسیٰ مریم علیہا

السلام اور الہ تینوں تین ہیں آئیے روح القدس اور مریم علیہا السلام سے قطع نظر
صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مزعومہ الوہیت کا ہم جائزہ لیں۔

عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بندوں کے گناہوں کی
جزاء کے طور پر سولی دے دی گئی تاکہ وہ خود سولی پر چڑھ کر اپنے امتوں کے لئے
کفارہ بن جائیں اوقل تو یہ بات کس قدر عجیب ہی لگتی ہے کہ گناہ امتی کر رہے ہیں
اور کفارے کے طور پر سولی رسول کو دی جا رہی ہے دوسرے یہ کہ اگر حضرت عیسیٰ
علیہ السلام خود اللہ تھے تو پھر کیونکرو ہی منتقص ہوئے اور وہی مقتوم بن گئے
انہیں کے حکم پر سولی لٹکائی گئی اور خود ہی اپنی مرضی پر قربان ہو گئے اور پھر جو سولی پر
چڑھ جائے اور تختہ دار پر انتہائی اضطراب کے عالم دم توڑے کیا وہ خدا ہو سکتا پھر
عبرانی کے تمام نوشتؤں میں یہ بات متفق علیہ طور پر درج ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ
السلام نے وقت صلیب یہ ارشاد فرمایا تھا۔

”ایلی ایلی لم سبقتنی“

اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا

اگر وہ خدا تھے تو کس خدا کو آواز دے رہے تھے الوہیت کی جو صفت ان کی
ذات کا لازمہ تھی وہ ان سے جدا کیونکر ہو گئی دراصل اسلام کے علاوہ تمام مذاہب
عالم میں شرک فی الا لوهیت ہی ایک مشترک جرم ہے جو ناقابل معافی ہے عیسائیت
کی طرح یہودیت بھی ابوة اللہ کی قالی ہے چنانچہ یہودی حضرت عزیز علیہ السلام
کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ ہندو مت میں ہراوتا درجہ الوہیت پر فائز ہے۔

العیاذ باللہ۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اسلام کے علاوہ تمام مذاہب عالم

کا تصور الہ بدیہی البطلان ہے کیونکہ الہ واحد کے مقابلے میں متعدد الہ کا تصور خود عقیدہ الہ کے منافی ہے اس لئے کہ متعدد الہ ممکن ہی نہیں قرآن عظیم نے بہت واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے۔

﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾

کائنات کا نظام متعدد خداوں کے ذریعے سے نہیں چل سکتا۔

غالباً اسی تصور کو ایک مغربی مفکر نے بہت واضح طور پر پیش کیا ہے۔ ”کوئی شخص دو آقاوں کی بندگی نہیں کر سکتا ہے۔“

اسلام کا عقیدہ الہ : (رواه ابو داؤد) تمام مذاہب عالم کے مقابلے میں اسلام نے عقیدہ الہ کو بہت واضح طور پر پیش فرمایا ہے اس طور پر کہ ذات پاک تعالیٰ شانہ، کی تمام صفات کا تصور کرڈا لئے کہیں بھی آپ کی عقل آپ کا ذہن یہ نہ کہے گا کہ یہ صفت شان الوہیت کے منافی ہے بلکہ ہر صفت کے حقائق و معارف کے اکٹھاف کے بعد ہر صاحب شعور بے ساخت پکارائے گا کہ پیش کی یہ صفت صفتِ الہ ہی ہے اسلام کے عقیدہ الہ میں قل هو الله احد ☆ اللہ الصمد کے اثباتی انداز کے بعد لم یلد و لم یولد ولم یکن له کفووا احد ☆ کا منفی طریقہ تفہیم شان الوہیت کس قدر عقل و فکر سے قریب تر ہے اسلام نے نہ صرف ذاتِ الہ میں ممکنات کی شرکت کا انکار کیا ہے بلکہ واضح طور پر یہ اعلان فرمایا کہ ولا ضد لہ ولا نزلہ ولا شبہ لہ ولا مثیل لہ، جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ صفات میں بھی شرکت ناممکن ہے تجسم وغیرہ کا انکار فرمایا کہ عقیدہ الہ کی بلند ترین حیثیت پیش فرمادی ہے۔ ایک مغربی مشترق نے غالباً اسی حقیقت

کا اعتراف اپنے ان جملوں میں کیا ہے۔

”قرآن کا سب سے بڑا عجائز یہ ہے کہ اس نے عقیدۃ اللہ کو مری اور مجسم نہ پیش فرمایا کہ لئے ذلیل ہونے سے بچالیا۔“

حقیقت یہ ہے کہ تمثیل و تجسم وغیرہ ہی حقیقت اللہ پر پر زدہ ڈال دیتی ہیں اور انسان اللہ تک پہنچنے کے بجائے مظاہر میں الجھ کر رہ جاتا ہے وہ نقوش راہ کو منزل معرفت تصور کر لیتا ہے۔ عقیدۃ اللہ کا لہر انسان کی پوری زندگی پر پڑتا ہے بالخصوص وہ نظام تو برآہ راست متاثر ہوتا ہے جو اس عقیدے سے تکمیل پاتا ہے وہ معاشرہ جس کی تعمیر عقیدۃ اللہ کے تحت ہوتی ہے اس کا ہر ہر گوشہ اس عقیدے کا آئینہ دار ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر کذب باری تعالیٰ کو ممکن مان لیا جائے تو اسلامی نظام حیات کی دیواریں منزل ہو جائیں گی بلکہ اسلامی قوانین کا قصر ریغ فرش زمین پر ڈھیر ہو جائے گا اس لئے کہ یہ امکان کذب نہ معلوم کتنے فناں کے امکانات اپنے دامن میں سمیئے ہوئے اُبھرے گا یہاں تک کہ مسلم پر سن لاء میں جس کو خالص الہی قانون کی حیثیت سے تسلیم کیا جا چکا ہے وہ خود منزل امکان میں ممکن التغیر والتبدل قرار پائے گا کیونکہ ممکن ہے کہ کسی قانون کے ارشاد کے وقت امکان کذب دائرہ امکان سے صرف ایک قدم آگے بڑھ کر وقوع پذیر ہو گیا ہے العیاذ باللہ تھی وجہ ہے کہ وہ تمام قومیں جو خداۓ واحد کے مقابلے میں بے شمار خداویں کی پرستش کرتی ہیں جن کی پیشانیاں بے شمار بارگا ہوں میں خراج بجدہ پیش کرنے کے لئے جھکی ہوتی ہیں۔ وہ اپنی زندگی کے تمام مسائل میں انتہائی مضطرب اور بے قرار آتی ہیں ایک سر ہے اور ہزاروں موبہوم مر اکز بجدہ بجدے

طلب کر رہے ہیں بیچارہ کہاں کہاں اپنی پیشانی جھکائے اور اپنے کمزور سے وجود کے اوپر کس کی حاکیت مطلقہ مسلط کر لے غالباً یہی وہ مصلحت تھی جس کے پیش نظر قرآن حکیم نے بے شمار مقامات پر عقیدہ توحید کو بہت واضح پور پیش فرمایا۔ کربار بار مختلف اسالیب بیان کے ساتھ ساتھ ذہنوں میں اتنا رہے کہ کہیں سے یہ مقدس عقیدہ مجرور نہ ہونے پائے ورنہ انسان گمراہی کے ورطہ و مجبور سے نکل کر ہدایت کے ساحل نور سے کبھی دوچار نہ ہو سکے گا۔

مندرجہ بالا تصریحات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اسلام کے علاوہ تمام مذاہب عالم کے یہاں عقیدہ کی صراحة لئے ہوئے نہیں بلکہ تصور مخفی کا ابہام لئے ہوئے ملتا ہے۔ اس لئے کہ ان کے یہاں اللہ کا صرف تصور ہے جسے تصور اللہ سے تعبیر کرتے ہیں اور اسلام میں اللہ ایک حقیقت ہے ایک عقیدہ ہے، اور یہ ایک امر مسلم ہے کہ تصور زندگی نہیں دینا بلکہ زندگی صرف عقیدے سے ملا کرتی ہے جو انسان کی پوری زندگی پر چھا جاتا ہے اور انسان اپنی زندگی کا ہر قدم اللہ واحد کو شہید و بصیر یقین کرتے ہوئے اٹھاتا ہے اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب کی بنیاد کا جب یہ عالم ہے تو اس بنیاد پر جس معاشرے کی عمارت تعمیر کی جائے گی اس کا کیا عالم ہو گا۔

عقیدہ رسالت: اسلام کے علاوہ دوسرے ادیان و مذاہب میں رسالت کا جو تصور ہے وہ تصور اللہ کی طرح سے ہی ناقص ہا مکمل، مائل بے ابتدال غیر مؤثر، اور منصب رسالت سے فروتنہ ہے اس لئے کہ رسالت جس مہتمم بالشان منصب کا نام ہے اس کے حامل کی حیثیت خواہ کتنی ہی عظیم کیوں نہ ہو مگر ارباب مذاہب قدیمه

نے ان کو اس طور پر پیش کیا ہے کہ ان کی حیثیت ایک عام مصلح اور ایک عام قائد سے آگئے نہیں بروحتی عہد عتیق اور عہد جدید کی تمام تحریریوں کا مطالعہ کجئے تو یہ کھل کر سامنے آجائے گی کہ مجرمین تحریف نے انبیاء کی زندگی کو سینکڑوں تضاد کا حامل بنا کر پیش کیا ہے ایک طرف انبیاء کرام میں سے بعض افراد کو وہ خدا کا بیٹا اور الہ تصور کرتے ہیں تو دوسرے انبیاء و رسول کو نبی مان کر بھی انہیں لاائق گردن زنی، لاائق صلیب و دار، باغی و مجرم، وغیرہ کے الفاظ سے یاد کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں یہود کی تاریخ اٹھا کر دیکھئے نہ معلوم کتنے انبیاء کرام کے خوب ناتحق سے ان کے ہاتھ آپ کو رنگے ہوئے نظر آئیں گے جیزت کی بات تو یہ ہے کہ جن انبیاء و رسول کے قوانین کو وہ معیار مانتے ہیں، خود ان کو گناہ گار خطاط شعار اور مجرم ثابت کرنے میں بڑے جور واقع ہوئے ہیں اور ان کی بیبا کیاں اس قدر بڑھ گئی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ایوال انبیاء ہیں اور جن کی ذات پاک کے بارے میں تمام مذاہب جو منزل من اللہ ہیں یا ہونے کے دعویدار ہیں متحد القول ہیں کہ وہ جلیل القدر پیغمبر تھے مگر ان کی نبوت کا اقرار کرتے ہوئے بھی یہود و نصاریٰ ان کو مجرم دھاتی تصور کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی ذات پاک سے منسوب کر کے انہوں نے یہ عقیدہ وضع کر لیا ہے کہ ہر انسان پیدائشی گناہ گار ہے اس لئے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے گناہ کیا تھا اور ان کے گناہ کے نتیجے میں ان کی اولاد فطرۃ اور خلقۃ گناہ گار ہے۔

کتنی جیزت انگیز بات ہے کہ مصلحت ایزدی کی بنیاد پر حضرت آدم علیہ السلام سے سرزد ہونے والی زلت کو وہ گناہ کہتے ہیں غور فرمائیں کہ گناہ کے نتیجے میں ہمیشہ تباہیاں اور بر بادیاں ہوتی ہیں شہر ویران ہو جاتے ہیں، آبادیاں اجز

جاتی ہیں، چھرے بدل جاتے ہیں۔ صورتیں مسخ ہو جاتیں ہیں، پھر بر سارے
جاتے ہیں، آگ اور خون کی بارش ہوتی ہے، زمین الٹ دی جاتی ہے۔ مگر
ابوالبشر حضرت آدم علیہ السلام کا یہ کیسا گناہ ہے کہ جس کے نتیجے میں آبادیاں
برہنی ہیں، ویرانے ختم ہو جاتے ہیں، زندگی سنورتی ہے، ابناء آدم خلافت ارض
کے مستحق ترارپاتے ہیں۔ انسان اشرف الخلوقات بنا اللہ کر منابی آدم کے تاج
کرامت سے نوازا گیا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمْ ☆ کے
منظور حسن جلوہ گر ہوئے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کی نسل پاک سے
سید المعمصوں میں حاصل تخلیق کائنات شاہکار عالم ایجاد سرور کائنات ﷺ جلوہ گر
ہوئے کیا یہ ساری عظمتیں اور سر بلندیاں انسان کو حضرت آدم کے مفروضہ گناہ
کے شمرے میں ملیں۔ عیاذًا بالله

اس عقیدے کی ایک دردناک تصویر یہ ہے کہ انہوں نے انسان کو پیدائشی
 مجرم قرار دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انسان مایوس ہو گیا اور اس یاس کے نتیجے میں جب گناہ
بڑھے اور انسان نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ ہم پیدائشی مجرم ہیں جب ہمارے
 جرم کی وجہ سے لذت فرواد ہم کو ملنے والی نہیں ہے تو لذت امروز سے دامن کشی
 نادافی ہو گی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انسانوں نے اللہ کی زمین کو گناہ سے بھر دیا تو عیسائیوں
 نے اور ارباب کلیسا نے فوراً عقیدہ کفارہ کو جنم دیا۔ یعنی انسان پیدائشی مجرم تو ہے
 مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب و دار قبول فرمایا کہ تمام انسانوں کے گناہ
 بخشوادیے۔ بس کیا تھا وہاں مایوسی نے انہیں بحر عصیاں میں غوط زنی پر مجبور کیا تھا
 اور یہاں نجات کے یقین نے انہیں گناہوں میں ڈیوبدا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ
 السلام تمام لوگوں کے گناہوں کا کفارہ بن چکے ہیں تو پھر گناہ کیوں نہ کئے جائیں

ایک اور زاویہ نگاہ سے غور کریں تو یہ بات اور زیادہ واضح ہو جائے گی کہ صرف یہی نہیں کہ انہوں نے اپنے انبیاء کے مقدس منصب کی توہین کی بلکہ انہوں نے ان کے مشن، ان کی تحریک اور ان کے اخلاق حسنہ پر تحریف و تبدیل کے پروے ڈال دیئے۔

مشہور مستشرق پروفیسر رینان لکھتا ہے۔

”ستكون حياة عيسى عليه السلام مسترًا في حمير الزماں حتى لم يج لسان زمان بعده“

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات گرامی زمانے کے قلب میں اس طرح پوشیدہ ہو گئی ہے کہ ان کی حیات کے بعد زمانے کی زبان ان کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکی، ایک ایسا جلیل القدر پیغمبر جس کی زندگی کو پوری حیات انسانی کے لئے دستور حیات مانتے ہیں، ان کے متعلق انہیں صرف اتنا معلوم ہے کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے، گھوارے میں کلام فرمایا، ۱۲ برس کی عمر شریف تک لوگوں کے سامنے مختلف مجوزات بالخصوص احیاء موتی و اشقاء مکموہ و مبروص وغیرہ سے متعلق پیش کرتے رہے جب لوگوں کو ان کی ثبوت کا یقین ہو گیا تو وہ غائب ہو گئے۔ ۳۲ سال کی عمر میں دوبارہ ظاہر ہوئے یہودیوں نے شدید اختلاف کیا، ایک سمندر کے کنارے کچھ مجھیروں اور چڑواہوں کو وعظ فرمایا اور پھر انہیں صلیب دے دی گئی۔

کیا صرف اتنی ہی زندگی عہد سے لے کر حد تک کے لئے کوئی دستور حیات تیار ہو سکتا ہے اگر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے معاشرتی مسائل اخذ کرنا چاہئے سلطنت و حکومت کے قوانین طلب کرے حقوق اللہ اور حقوق العباد

کے متعلق سوال کرے قانون ازدواج و پرورش اولاد و حقوق والدین وغیرہ کے متعلق پوچھتے ان کی موجودہ مشہور زندگی میں ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہے۔

یہ تو اسلام اور پیغمبر اسلام کا احسان عظیم ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر اور وَجِئِهَا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ ☆ قرار دے کہ عیسائیت کی آبرور کھلی ورنہ آج عیسائیوں کو یہ بھی ثابت کرنا دشوار ہو جاتا کہ حضرت عیسیٰ نام کی کوئی تاریخی شخصیت بھی کبھی جلوہ گر ہوئی تھی۔ غالباً اسی بات کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آخری خطبہ میں ارشاد فرمایا تھا۔

”دنیا نے اپنے سردار کے پہنچانے میں غلطی کی ہے جب وہ روح الحق فارقلیط (احمد صلی اللہ علیہ وسلم) جلوہ گر ہو گا تو میری صحیح حیثیت کو دنیا کے سامنے پیش کرے گا۔“

تقریباً یہی حال دنیا کے دوسرے مذاہب کا بھی ہے قرآن عظیم کا مطالعہ کریں تو یہود کا بھی حال اس سے کچھ زیادہ مختلف نظر نہ آئے گا۔ ہندو وغیرہ کے یہاں جو اوتار وغیرہ کا عقیدہ ہے وہ تو ارباب فہم کے نزدیک بدیہی البطلان ہے ان پر گفتگو کرنا قضیح اوقات کے متراوف ہو گا۔

لیکن یہاں آکر ہمیں اسلام کی حقانیت کے اعتراف پر مجبور ہونا پڑتا ہے اس لئے کہ اس نے جو عقیدہ رسالت پیش کیا ہے جامع، کامل، عظیم، واضح اور روشن ہے۔ اسلام انبیاء اور رسول کو مصطفیٰ اور برگزیدہ تصور کرتا ہے وہ انہیں خدا کی نگاہ قدرت کا اختیاب کہتا ہے وہ ان کی ہر حرکت عمل کو منجانب اللہ یقین کرتا ہے وہ ان کے نطق پاک کو خدا کا کلام قرار دیتا ہے۔ ان کے ارشادات کو منشاء ایزدی سے

تعییر کرتا ہے۔ انہیں بشریت عامہ کی سطح سے بہت بلند تصور کرتا ہے اس طور پر کہ ایک غیر نبی انسان لاکھ ترقی کر جائے مگر نبی نہیں ہو سکتا اور ان میں سب سے بڑھ کر یہ عقیدہ ہے کہ وہ عصمت انبیاء کا قائل ہے اسلام کی نگاہ میں ہر نبی و رسول مخصوص عن الخطاء ہے اس لئے کہ اگر نبی ارتکاب خطاء کر سکتا ہے تو یقیناً جو قانون وہ عطا کرے گا اس کو بھی ہم خطاء سے پاک تصور کر سکتے اس طور پر صرف نبی کی ذات ہی نہیں بلکہ پورا قانون حیات محروم ہو جائے گا پھر یہ دعویٰ ممکن نہ ہو گا کہ ہمارے نبی نے ہم کو جو قانون عطا فرمایا ہے وہ مبرأ عن الخطاء ہے افضل ترین ہے اس سے بہتر قانون کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ ہماری جمیعیۃ رہبان و قسیین نے اور پاپیاں کلیسا نے دوسرے لفظوں میں خدا یا مسیحیت نے غور و فکر کے بعد فیصلہ دے دیا ہے کہ اس میں کوئی خطأ نہیں ہے تو یہ اور نیزت انگیز بات ہو گی اس لئے کہ نبی کی مقدس ترین زندگی اور اس کے پیغام کی صداقت پر مہر تصدیق ثبت فرمانے والا خدا ہے نبی کے امتنی نہیں یہ بات تو اس سے بھی زیادہ عجیب ہو گی کہ قانون ساز پارلیمنٹ کے عالی دماغ افراد سڑک پر کھڑے ہو کر عوام الناس کی بھیڑ سے سندھجت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوں یونہی اگر جس کے ناکام طریقین کے اقوال باطلہ کی طرح سے نبی کو اپنے ہی جیسا فرض کر لیا جائے تو پھر ہم اس کے قوانین کو بالائے طاق رکھ کر خود قانون حیات کی ترتیب کا حق رکھتے ہیں اس لئے کہ جب نبی ہمارے ہی جیسا ہے تو ہمیں بھی حق ہے کہ ہم قانون بنالیں یا پھر اس بات کی کیا ضمانت کہ نبی سے کوئی خطاء سرزنش نہیں ہوئی ہو گی یا پھر یہ کہ نبی نے جس ماحول میں بینہ کر قانون پیش فرمایا

حقایقینا وہ اس کے مطابق ہوگا مگر آج حالات بدل گئے ہیں نبی کو غیب معلوم نہیں تھا نبی نے آج کے موجودہ حالات کا جائز نہیں لیا ہوگا۔ اس نے آج سے ۱۳۲۰ء
برس پہلے والا قانون آج کے لئے ناقابل عمل ہے۔ مگر اسلام نے جو تصور رسالت
پیش فرمایا ہے وہ ان تمام فتنوں کا سد باب کر دیتا ہے۔ اسلام اس بات کا قائل
ہے کہ ماضی حال مستقبل سب نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نگاہوں کے سامنے ہیں
ان کا عطا فرمودہ قانون حیات سب پر حاوی ہے نہ ماضی کے اندر طاقت تھی کہ نبی
کے قانون کو چیلنج کر سکتا اور نہ عصر جدید کے اندر طاقت ہے کہ نبی علیہ السلام کے
قانون سے بہتر کوئی قانون پیش کر سکے اور نہ عصور مستقبلہ میں یہ ممکن ہو سکے گا۔
یوں ہی قرآن نے نبی علیہ السلام کو بشیر تو فرمایا ہے مگر عام انسانوں جیسا نہیں بلکہ
سید البشر امام الانبیاء حامل سیادت مطلقہ و افضلیت عامہ ظاہر ہے اس عقیدہ
رسالت کے بعد نبی کی حیات پاک ہر لغزش اور ہر خطاء سے مخصوص و مصون ہے جو
ندھب اس قدر پاکیزہ تصور رسالت پیش کرتا ہوا اس کو حق ہے کہ وہ ایک عالمگیر نظام
حیات کے حامل ہونے کا دعویٰ کر سکے اور کائنات اس کے دعوے پر ایمان لائے۔



نظام عبادت

اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب عبادتوں کا جائزہ لیجئے تو یہ محسوس ہو گا کہ مسیحیت یہودیت، ہندو مت، بودھ مت میں عبادت رہبانیت اور ترک لذات کا نام ہے عبادت زندگی نہیں دیتی بلکہ زندگی سے فرار سکھاتی ہے۔ عبادت زندگی کا حوصلہ، مستقبل کا عزم، کامیابی کا یقین اور جرأت و ہمت بخشی کے بجائے یاس، قتوطیت، عافیت پسندی، نوازع فطریہ سے عیحدگی، زندگی اور زندگی کے اقدار عزت سے پیزاری بخششی ہے، وہ انسان کی بہترین صلاحیتوں کو فتا کر دیتی ہے جن کے ذریعے سے وہ جہان بانی کے فرائض انجام دے سکتا تھا، وہ انسانوں کا رشتہ انسانوں سے توڑ دیتی ہے اور صومعہ نشینی یا صحرانوری کا حکم دیتی ہے جہاں یہ نعمہ گلستانیا جاتا ہے۔

” کے را با کے کارے نباشد ”

ظاہر ہے کہ نظام عبادت اس دنیا کے بنے والوں کا نہیں ہو سکتا جہاں زندگی کی عمارت تعاون اور تماUGH پر قائم ہوتی ہے جہاں خوشیاں ہیں مسرتیں ہیں غم و اندوہ ہیں قعقہبے اور نفعے ہیں، سکیاں اور آہیں ہیں، جہاں جذبات و احساسات کی کارفرمائی ہے جہاں فطرت کا حسن کائنات کی ہر شے کو دعوت نظارہ دے رہا ہے۔ جہاں ہر گیا ہے کہ از ز میں روید وحدہ لا شریک می گوید

کے نفعے بر بطل پر چھرتے ہیں۔ اور جہاں

برگ درختان نبیر در نظر ہو شیار ہر ورنہ دفتریست معرفت کر دگار کی آئینہ بندی ہے۔

جو عبادت زندگی کی عظمتوں کے حصول کی تزپ کے بجائے زندگی سے بیزاری کا درس دیتی ہے وہ زندگی نہیں بلکہ موت ہے۔ اس کے برعکس اسلام کا نظام عبادت کس قدر خوبصورت اور زندگی کی عظمتوں سے بھر پور ہے اسلام ایک خدائے وحدہ، قدوس کی بارگاہ میں سجدے کا حکم دیتا ہے تو دوسری طرف رزمگاہ حیات میں تیز گامی کو لازمہ حیات قرار دیتا ہے۔ ہم باللیل رہبان و بانہار فرسان ہے اپنے ماننے والوں کی صفت بیان کرتا ہے اسلام ایک طرف تو توکل علی اللہ کا حکم دیتا ہے تو دوسری طرف لیس لِإنسان الاما سعی کے مقدس فرمان سے ہموار فکر و عمل کو ہمیز دیتا ہے۔ اسلام اگر روزے کا حکم دیتا ہے تو دوسرے مذاہب کے برت کی طرح آسودگی شکم کے لئے دوسروں کے سامنے دست سوال دراز کرنے کے لئے نہیں بلکہ دوسروں کی بھوک کو محسوس کر کے دوسروں کے لئے آسودگی حیات کا سامان فراہم کرنے کے لئے۔ اسلام اگرچہ پاک کا حکم دیتا ہے تو صرف اس لئے نہیں کہ چند نوں کے لئے ملائق دینیوں سے قطع تعلق کر کے اللہ کی راہ میں جہاد بالنفس کی لذت کشی کی جائے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اجتماعی مرکز اسلام سے وابستہ ہونے کے لئے کعبۃ اللہ کی دیواروں کے نیچے سجدہ ریزی کا حکم دیتا ہے تاکہ وحدت کلہ کی بنیاد پر انسان رنگ دشل کے تمام امتیازات کو فراموش کر کے طبقاتیت کی تمام دیواروں کو ڈھا کر نسلی اور جغرافیائی حد بندیوں سے آزاد ہو کر اپنے وجود کو اسلام کے ایک مقدس ترین معاشرے کا ایک فرد تصور کرے جس میں ایک انسان دوسرے انسان کی تمام تر انسانی قدروں کا محافظ ہے جہاں ایک کا درد دوسرے کا درد اور ایک فرد کی خوشی تمام ملت اسلامیہ کی سرت سے تعبیر کی جاتی ہے۔

عبدات کے نظام کا جائزہ لیں تو یہاں بھی زندگی سے فرار نہیں بلکہ زندگی

کے بھرنا پیدا کنار میں اپنے قطرہ وجود کو فنا کر دینے کا نام ہے۔۔۔

عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا

۲۳ گھنٹے میں ۵ بار ایک محلہ کے لوگ محلہ کی مسجد میں حاضر ہو کر اپنی وحدت ملی کاشوت دیں سال میں ایک بار اطراف وجوانب کے لوگ عید گاہ میں حاضر ہو کر اجتماعی زندگی کی مسرتوں سے ہمکنار ہوں اور زندگی میں ایک بار کعبۃ اللہ کی دیواروں کے نیچے تمام دنیا کے مسلمان رنگ و نسل جغرافیائی تقیمتوں لوٹی و نسلی غرور کو پاٹ پاٹ کر کے اجتماعی سجدہ نیاز پیش کریں۔

عبدات کے لئے بھی کسی خاص گوشہ عافیت کی اس طور پر قید نہیں لگائی گئی کہ اس کے بغیر عبادت ممکن ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا میرے لئے پوری زمین سجدہ گاہ ہے۔ احادیث رسول ﷺ کا مطالعہ کریں تو یہ بات ثابت ہو گی کہ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانا بھی عبادت ہے اور اللہ کے بندوں سے پیار کرنا بھی عبادت، اسلام میں عبادت زندگی بخشتی ہے زندگی کا وقار عطا فرماتی ہے آفاق و نفس پر حکمرانی کا مستحق بناتی ہے۔ استقلال و ہمت بخشتی ہے، جرات و حوصلہ سے نوازتی ہے خدا کی بارگاہ میں سر جھکا کر اپنی انسانی خودی کی حفاظت کا درس دیتی ہے۔ اندازہ فرمائیں کہاں اسلام کا پاکیزہ ترین نظام عبادت اور کہاں دوسرا مذاہب کی عبادتیں جن کا نقشہ قرآن عظیم نے اپنی اس آیت کریمہ میں کھینچا ہے۔

﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءٌ وَ تَصْدِيهٌ ﴾

اور ان کی عبادت تو گھر کے پاس صرف سیٹیاں اور تالیاں ہیں

نظام اخلاق

نظام عقائد اور نظام عبادت کی طرح دنیا کے دوسرے مذاہب کے دامن
ایک باضابطہ نظام اخلاق سے بھی خالی ہیں۔ اس لئے کہ اس وقت ہمارے سامنے
متمم مکارم اخلاق ﷺ کے علاوہ جتنے بھی معلمین اخلاق کے صحائف موجود ہیں
ان میں انسان کی صرف چند خصلتوں کا تذکرہ ہے جسے انگلیوں پر شمار کیا جا سکتا
ہے۔ مثال کے طور پر مسیحیت ہی کو لیجئے اس کی کل اخلاقی تعلیمات کو صرف ان
چند جملوں میں سمیانا جا سکتا ہے۔

(۱) اکرام والدین (۲) خون ناحق سے پرہیز (۳) زنا سے بچنا

(۴) سرقہ سے دست کشی (۵) شہادت کا زبہ سے احتیاط۔

میں عرض کرتا ہوں کیا ان چند اخلاقی تعلیمات سے انسان کی پوری زندگی کو
سنوارا جا سکتا ہے کیا مہد سے لے کر لحد تک زندگی کے تمام گوشوں پر یہ تعلیمات
حاوی ہیں؟ کیا ان تعلیمات میں انسان کے ان تمام رشتتوں کا تذکرہ ہے جن سے
وابستہ انسان کی پوری زندگی کو صرف ان چند اوامر و نواعی کے حوالہ کیا جاسکے؟ ان
سوالات کا جواب آپ کو یقیناً نافی میں ملے گا۔

اس کے عکس اگر آپ اسلام کی اخلاقی تعلیمات کا جائزہ لیں تو معلوم ہو گا
کہ رسول پاک ﷺ کا مقصد بعثت ہی تکمیل اخلاق ہے۔ خود ارشاد فرماتے ہیں۔

”بعثت لاتمم مکارم الاخلاق“

قرآن عظیم ان کے مقدس منصب کی نشاندہی فرمرا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى
خُلُقٍ عَظِيمٍ ☆ یہی وجہ ہے کہ اسلامی نظام اخلاق انسان کی پوری زندگی کے
اوپر چھایا ہوا ہے مہد سے لے کر لحد تک زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس کے

لئے اسلام کی اخلاقی پابندیاں موجود نہ ہوں۔

یہی وجہ ہے کہ سرکار عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ایک شخص نے سوال کیا کہ ام المؤمنین رسول اللہ ﷺ کا خلق پاک کیا تھا انہوں نے ارشاد فرمایا: ”کان خلقہ القرآن“ ان کا خلق قرآن ہے قرآن پاک میں الحمد کی الف سے لے کر والاس کی سکن تک ہر ہر آیت کریمہ پر تمہیں تصویر کردارِ مصطفیٰ نظر آئے گی۔

ایک اور نقطہ نظر سے اگر آپ مسیحی اخلاقیات کا جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہو گا کہ مسیحی اخلاقیات کا حاصل صرف تذلل اور انفعال ہے خدا کے علاوہ انسانوں کے آگے بھی جذبہ خود پر دیگی ہی اس کا خلاصہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب یہ جملہ زبانِ زدِ عوام و خواص ہے من ضرب علی خدک الایمن فاردلہ الایسر جو تمہارے دامنے رخسار پر طما نچہ مارے اُسے بایاں رخسار خود بخوبی پیش کر دو۔ کیا اس کا مطلب یہ نہ ہوا کہ جو تمہارے ایک کلیسا پر حملہ کرے اس کو دوسرا کلیسا بھی پیش کر دو۔ جو تمہاری ایک مملکت چھین لے اسے دوسری مملکت بھی پیش کر دو؟ کیا یہ تعلیم کسی نظام سلطنت و اقتدار کے لئے کوئی اخلاقی ضابطہ دے سکتی ہے اس تعلیم کی روشنی میں امر بالمعروف اور نبی عن المنهک ناممکن ہے ظلم کا استیصال اور عدل کی ہمتوائی محال ہے۔ کمزوروں کا تعاون اور ظالمانہ قوتوں کی مدافعت بعید از قیاس ہے یہی وجہ ہے کہ مشہور جرم مفکر تئی نے جب مسیحی اخلاقیات کا مطالعہ کیا بیساختہ پکارا تھا۔

”میسیحیت کی اخلاقی تعلیمات، انحطاط، تذلل اور بوسیدگی کی طرف مائل ہیں۔ وہ انسان کی بہترین صلاحیتوں کو فنا کر دیتی ہیں۔“

ڈاکٹر کیلی نے بھی اسی مفہوم کو پیش کیا ہے۔

”جاویجا انسار اور فروتنی ظلم کے سامنے خود پر دگی یہ ساری خصلتیں
میسیحیت کی پیداوار یعنی غیر متمن دنیا کے لئے ممکن ہے کہ اس طرز
اخلاق میں زندگی رہی ہو مگر آج کی متمن دنیا کا سمجھی اخلاقیات میں
کوئی حصہ نہیں ہے۔“

دوسرے لفظوں میں وہ اعلان کر رہا ہے کہ عیسائیت کی اخلاقی قدریں عصر
جدید اور تمدن حاضر کا ساتھ نہیں دے سکتیں اس کے بر عکس اگر آپ اسلامی
تعلیمات کا مطالعہ کریں اور اسلام کی اخلاقی قدریوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہو گا کہ
اسلام نے جہاں تواضع اور انساری کا حکم دیا ہے وہیں ظلم اور کفر اور عصیان و رکشی
کے مقابلے میں جہاد کا بھی حکم دیا ہے اسلام ایک نظام عدل ہے ایک متوازن
نظام خلق ہے یہی وجہ ہے کہ آج پورے یورپ نے میسیحیت کی اخلاقی تعلیمات
سے عملہ کنارہ کشی اختیار کر لی ہے اور اسلامی اخلاق حسن کو انہوں نے شعوری اور
لاشعوری دونوں طریقوں سے قبول کر لیا ہے۔ غور فرمائیں کہ دنیا کے سب سے
بڑے مدغی اخلاق مذہب (میسیحیت) کا جب یہ عالم ہے تو یہودیت، بودھ مت
اور ہندو مت وغیرہ کا یہ عالم ہو گا جہاں کسی اجتماعی اخلاق کا کوئی تصور ہی نہیں ہے
محض بعض صداقتوں کی طرف کچھ نہیں اشارے ہیں جو انسان کی کامل رہنمائی نہیں
کر سکتے جب اسلام کے علاوہ دنیا کے تمام مذاہب کے نظام عقائد، نظام عبادات،
نظام اخلاق کا تا قص ہونا ثابت ہو گیا۔ تو آئیے ہم قرآن عظیم کی اس آیت کریمہ
کی تلاوت کریں۔

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

بے شک دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔

(مولانا قمر الزمان صاحب اعظمی)

پیغمبر خدا کی حیثیت مخصوص قانون داں کی ہے یا قانون ساز کی؟

قانون ساز و قانون داں یہ دولظ عرف میں الگ الگ معنی کے لئے آتے ہیں۔ قانون داں کے معنی ہیں قانون جانے والا، جس کی حیثیت صرف قانون کے کلیات و جزئیات کے معتقد ہے پر عبور کی ہوتی ہے ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر اتنی مہارت ضروری ہے کہ وہ ہر نئے پیش آنے والے حادثہ کا حکم قانون کے کلیات سے یا اس کے مثل و نظیر دوسرے جزئیات پر قیاس کر کے نکال سکے جس کی مثال وکیل اور پیر شری ہیں کہ یہ لوگ صرف قانون داں ہوتے ہیں خواہ وہ کتنے ہی قابل ذہین فطیں ہوں یہ لوگ قانون کی دفعات یا اس کی عبارت میں کوئی ادنی سارہ و بدل نہیں کر سکتے قانون کے اصطلاحی معنوں میں کوئی تغیر نہیں کر سکتے اگرچہ ان میں اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ نئے مقدمات کرنے کے لئے قانون کی دفعات سے احکام نکال لیتے ہیں اور اسے اپنے دعویٰ کے مطابق کرنے کے لئے ہفتوں، مہینوں بحث و تجیص کر سکتے ہیں مگر قانون میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتے۔

شریعت اسلامیہ میں ان کی نظریہ علماء دین ہیں جو شریعت کے اصول و فروع پر حاوی ہوتے ہیں۔ اتنی استعداد رکھتے ہیں کہ کوئی نیا واقعہ روپا ہو تو اس کا حکم اتخاذ کر لیتے ہیں۔ حتیٰ کہ مسائل شریعہ پر اعتراض کرنے والوں کو دندان شکن جواب بھی دے لیتے ہیں مگر شریعت کے کسی حکم کو بدل نہیں سکتے اس میں کوئی ترمیم

نہیں کر سکتے اس کے الفاظ کو نیا معنی نہیں پہنا سکتے۔

رہ گیا قانون ساز تو یہ لفظ اس با اختیار ہستی پر اطلاق کیا جاتا ہے جو جب چاہے خواہ با اختیار خود یا باذن مختار مطلق قانون کی جس دفعہ کو چاہے منسون کر دے اس میں روبدل کر دے، الفاظ کے معنی معین کردے جن افراد کو چاہے جس قانون سے چاہے مستثنی کر دے اس کی ایک مثال ہمارے معاشرے میں شہنشاہ کی ہے کہ وہ اپنی مملکت کا آمر مطلق ہوتا ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے جو قانون چاہتا ہے ختم کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے جس قانون سے چاہتا ہے مستثنی کر دیتا ہے۔ دوسری مثال وزیر قانون کی ہے کہ وہ شہنشاہ کے اذن و اختیار سے قانون بناتا ہے اس میں ترمیم و تبدیلی کرتا ہے۔

اب جب قانون داں و قانون ساز دونوں الفاظ کے معانی ذہن نشین ہو گئے۔ تو اب آئیے شریعت اسلامیہ کے تائیں کا ایک تحقیقی جائزہ یہ میں اور یہ تلاش کریں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت صرف قانون داں کی تھی یا یہ کہ آنحضرتو صلی اللہ علیہ وسلم باذن اللہ قانون ساز بھی تھے۔

1: اس بحث کے چند پہلو میں ایک یہ کہ آنحضرتو صلی اللہ علیہ وسلم باذن اللہ قانون ساز بھی تھے۔

2: آنحضرتو صلی اللہ علیہ وسلم قانون ساز ہیں احادیث کی روشنی میں۔

3: آنحضرتو صلی اللہ علیہ وسلم قانون ساز ہیں شوابد کی روشنی میں۔

اس بارے میں امت کا عقیدہ آج سے پہلے کیا رہا اور کیا ہے آیات قرآن کریم پر اگر کوئی تحقیقی نظر ڈالے تو اس باب میں صد ہانصوص مل جائیں گی۔

سرسری نظر ڈالنے پر بھی جو نصوص سامنے ہیں وہ کم نہیں آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں جگہ جگہ ملے گا۔ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو جس نے اللہ عز وجل اور رسول ﷺ کی نافرمانی کی وہ فاسق و ظالم ہے اس کا شکانا جنم ہے اللہ عز وجل کے مختار و مطلق ہونے کے بارے میں کسی مدعی اسلام کو ادنیٰ شبہ نہیں ہو سکتا ہے اس کی شان تو ”فعال لاما یرید او یحکم ما یشاء“ ہے۔

اللہ عز وجل کی اطاعت و عصيان کے موازی رسول ﷺ کی اطاعت کا حکم اور عصيان کی ممانعت اس کی دلیل ہے کہ اس باب میں مختار و ماذون عطائی ذاتی وجوب ارکان، حدوث و قدم وغیرہ کا فرق تو ہے گر واجب الاتباع و مطاع ہونے میں کوئی امتیاز نہیں۔ اس لئے یہ ماننا پڑے گا کہ جس طرح اللہ عز وجل شریعت میں ”تَخْ“، ”ترمیم و تبدیل“ تخصیص کر سکتا ہے اسی کے اذن سے اس کے رسول ﷺ بھی یہ سب اختیار رکھتے ہیں اور یہی معنی قانون ساز کے ہیں۔ ان عمومی ارشادات کے علاوہ آئیے چند خصوصی ارشادات سے ملاحظہ کریں۔

ارشاد ہے۔

﴿قُلْ إِنَّ كُنْتُمْ تُجْبُونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبِّبُكُمُ اللَّهُ﴾

فرمادو! اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم کو محبوب بناؤئے گا۔ اور ہر شخص جانتا ہے کہ ”اتباع“ کا یہی مطلب ہے کہ جو حکم دیا جائے اس کو ماننا جائے اس پر عمل کیا جائے اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ رسول جو حکم دیں اس کا ماننا لازم ہے۔ تو ثابت ہو گیا کہ رسول کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ امت کو جو چاہیں حکم دیں یہی قانون ساز کے معنی ہیں اور فرمایا گیا۔

﴿وَمَنْ يَشَاقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلٍ﴾

الْمُؤْمِنُونَ نُولَهُ مَا تَوَلَّ وَ نَصِيلُهُ جَهَنَّمُ وَ سَاءَ ثُمَّ صَيْرًا ۝

حق ظاہر ہوں جانے کے بعد جو بھی رسول کے خلاف کرے اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کوئی پکڑے ہم اس کو اسی طرف پھیر دیں گے جدھروہ مڑا اور اسے جہنم میں ڈالیں گے اور یہ برائحت کانا ہے۔

رسول کا خلاف یعنی ہے کہ وہ جو فرمائیں نہ مانا جائے۔ اس پر عمل نہ کیا جائے یہ اسی بنا پر ہے کہ ان کا ہر حکم قانون شریعت ہے اور جس کا ہر حکم شریعت ہوتا ہے وہ قانون ساز ہوتا ہے صرف قانون داں نہیں۔ اور سنیت سورہ نور میں ہے۔

﴿فَلَيُحَذَّرِ الظَّالِمُونَ يُحَاكِلُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبُهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبُهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (ب ۱۸۴ کوو)

جو لوگ رسول کے حکم کے خلاف کرتے ہیں وہ ڈریں کہیں ان کو فتنہ آئے یا درد ناک عذاب نہ پہنچے۔

رسول کے حکم کے خلاف کرنے والے پر یہ وعید اسی لئے ہے کہ ان کے کسی حکم کی خلاف ورزی شریعت کی خلاف ورزی ہے اور یہ حشیث شریعت ساز کی ہو سکتی ہے۔ صرف شریعت داں کی نہیں لیجئے سورہ احزاب کی آیت ہے۔

﴿مَا كَانَ لِلنَّمِينَ وَلَا مُؤْمِنَةً إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ، أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ، وَقَدْ صَلَّ ضَلَالًا لَا مَبِينًا﴾

اس آیت کریمہ کی مراد کی توضیح کے لئے اس کا شان نزول بھی سنتے چلتے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متینی زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا پیام نسب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے بھائی گودیا، ان لوگوں نے نامنظور کیا اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ غور کیجئے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

سے حضرت زینب کا نکاح طے ہونا حضور ﷺ نے نفس نفیس فرمایا خود ہی پیام دیا اس بارے میں کوئی آیت نہیں اُتری تھی مگر اسے نامنظور کرنے پر اتنی سخت وعید آئی اور اسے اللہ کا بھی حکم فرمایا گیا۔ اس کی نافرمانی کو اللہ کے حکم کی نافرمانی قرار دیا گیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آنحضرت ﷺ کی حدیث صرف قانون داں کی نہیں قانون ساز کی بھی ہے۔

احادیث:

1: ”تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرِيْنِ لَنْ تَصْلُوا مَا تَمَسَّكُمْ بِهِمَا إِذْنَ اللَّهِ وَ سُنْنَةِ رَسُولِهِ“
میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑی ہیں جب تک ان دونوں کے پابند رہو گے ہرگز
گمراہ نہ ہو گے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔

کتاب اللہ کے قانون شریعت ہونے میں کسی کو انکار کی گنجائش نہیں، اس
کے موازی آنحضرت ﷺ نے سنت رسول کو بھی رکھا جس سے معلوم ہوا کہ سنت
رسول بھی قانون شریعت ہے اور یہ اسی وقت صحیح ہو سکتا ہے کہ حضور سید عالم ﷺ کو
قانون ساز تسلیم کیا جائے جن کے ارشاد کردار اور تقریر کا نام سنت ہے۔

2: حضرت مقدم بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جسے ابو داؤد
ابن ماجہ دارمی نے نقل فرمایا۔ ارشاد ہے۔

”الا يوشك رجل شعبان على اريكته يقول عليكم بهذا القرآن ما
وجدتم فيه من حلال فاحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه وان ما
حرم رسول الله كما حرم الله“

کوئی پیٹ بھرا اپنی مند پر بیٹھا یہ کہنے لگے تم صرف قرآن کے پابند ہواں میں جو
حلال پاؤ اسے حلال جاؤ اور اس میں جو حرام پاؤ اسے حرام جاؤ حالانکہ رسول اللہ

نے جسے حرام فرمایا وہ اسی کے مثل ہے جسے اللہ نے حرام فرمایا۔

3: امام ابو داؤد نے حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی کے ہم معنی روایت کی۔ اس میں یہ ارشاد فرمایا۔

” الا و انی و اللہ قد امرت و نهیت عن اشیاء انہا لمثل القرآن ”

سنو، قسم خدا کی میں نے کچھ چیزوں کا حکم فرمایا ہے اور کچھ چیزوں سے منع فرمایا ہے بیشک وہ قرآن کے مثل۔

4: امام ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ اور امام احمد و نبی پیغمبر حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کے مثل روایت فرمائی اس میں یہ ارشاد ہے۔

” لا الفین احد کم متكنا على اريكته ياتيه الامر من امری مما امرت به او نهیت عنه فيقول لا ادری ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه .

(مشکوہ شریف ص ۲۹)

اپنی مند پر ٹیک لگائے کسی کو یہ کہتے نہ پاؤں کہ جب اس کے پاس کوئی چیز میری فرمودہ یا میری منع کر دہ آئے تو یہ کہدے میں نہیں جانتا ہم نے جو کتاب اللہ میں پایا اس کی اتباع کی۔

ان احادیث کو پڑھئے اور دیکھئے جن لوگوں نے صرف اللہ کے حلال کئے ہوئے کو حلال جانا اور اللہ کے حرام کئے ہوئے کو حرام جانا اور رسول ﷺ کے حلال کئے ہوئے کو حلال، اور حرام کئے ہوئے کو حرام نہیں جانا ان پر کتنا شدید غصب فرمایا اور بلا کسی اشتباہ کے فرمایا کہ مری حلال کر دہ اشیاء اور حرام کر دہ اشیاء اسی کے مثل ہیں جسے اللہ نے حلال فرمایا، یا حرام فرمایا، کیا کسی قانون داں کا قول، قانون ساز کے قول کے مثل ہو سکتا ہے؟ کیا جو قانون داں اور قانون ساز کے اقوال میں تفریق کرے وہ اس شدید غصب کا مستحق ہے؟ اگر اس کا جواب نعمی میں

بے اور ضروری نہیں ہے۔ تو جو لوگ اللہ عز وجل کو قانون ساز مانتے ہیں انہیں ماننا پڑے گا کہ حضور سید عالم^{صلی اللہ علیہ وسلم} بھی ضرور بضرور قانون ساز ہیں۔

5: امام مالک و احمد و بخاری و مسلم ونسائی ابن ماجہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں۔ کہ ارشاد ہوا۔

”لو لا ان اشقم علی امتي لامرتهم بالسواءك عند كل صلوة“
اگر امت پرشاقد ہونے کا اندیشہ نہ ہو تو میں ہر نماز کے وقت مسوآک کا حکم فرمادیتا
تیسیر وغیرہ میں اس حدیث کو متواتر بتایا ہے انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ
عنہ سے امام احمد ونسائی نے یوں روایت فرمائی کہ ارشاد ہوا۔

”لو لا ان اشقم علی امتي لامرتهم عند كل صلوة بوضوء ومع كل
وضوء سواءك“

اگر اس کا لحاظ نہ ہوتا تو میری امت پرشاقد ہو گا تو انہیں حکم دیتا کہ ہر نماز کے وقت
وضو کریں اور ہر وضو کے ساتھ مسوآک کریں۔

6: ابن ماجہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کو یوں ارشاد ہوا۔
”لو لا ان اشقم علی امتي بفرضته عليهم“

اگر میری امت کی مشقت کا خوف نہ ہوتا تو مسوآک ان پر فرض کر دیتا۔

7: امام ابو قیم حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کو ارشاد فرمایا
”لو لا ان اشقم علی امتي لامرتهم ان يستاكوا بالاسحار“

اس کا لحاظ نہ ہوتا کہ میری امت پرشاقد ہوتا میں حکم فرمادیتا کہ ہر چھٹے پہر
مسوآک کیا کریں۔

8: امام بخاری و مسلم ونسائی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے

روایت کرتے ہیں۔

”لو لا ان اشقم علی امتنی لامرتهم ان يصلوها هکلنا یعنی العشاء نصف الليل“
اگر میری امت پرشاق ہونے کا خیال نہ ہوتا تو میں حکم دیتا کہ اسے یعنی عشاء کو
اس وقت یعنی آدھی رات کو پڑھیں۔

غور کیجئے۔ ہر نماز کے وقت وضو یا مسواک یا ہر وضو کے ساتھ مسواک یا ہر صبح
کو مسواک یا نماز عشاء کا نصف لیل تک موخر کرنا فرض نہیں، مگر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے ہیں کہ اس کا لحاظ ہے کہ ان چیزوں کے فرض فرمادینے سے امت مشقت
میں پڑ جائے گی۔ ورنہ ان چیزوں کو فرض کر دیتا، مگر چونکہ ان کے فرض کر دینے
سے امت مشقت میں پڑ جائے گی اس لئے میں نے ان کو فرض نہیں فرمایا۔

9: یہ قول کسی قانون داں کا نہیں ہو سکتا یہ قول صرف قانون ساز کا ہو سکتا
ہے فرماتے ہیں۔

”فِي إِنِّي أَحْرَمْتُ عَلَيْكُمْ حَقَ الْمُسْعِفِينَ الْيَتِيمَ وَالْمَرْأَةَ“
میں دو کمزوروں کی حق تلفی تم پر حرام کرتا ہوں۔ یتیم اور عورت، متفق علیہ۔

10: ارشاد ہے۔

”لَا تَشْرَبْ مَسْكَرًا فَانِي حَرَمْتْ كُلَّ مَسْكَرٍ“
نشہ کی کوئی چیز نہ پی میں نے ہر نشہ آور حرام فرمادیا۔

شواءبد: شواءبد نظائر بھی اس باب میں اتنے کثیر ہیں کہ ان سب کا احاطہ دشوار ہے
اور جو فقیر کے علم میں ہیں ان سب کا یہ نمبر متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس لئے چند پر اکتفا
کرتا ہوں۔

1: صحابہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک صاحب حاضر ہوئے، عرض کی میں ہلاک ہو گیا۔ فرمایا کیا بات ہے۔ عرض کی میں نے رمضان میں اپنی بیوی سے ہمستری کر لی ہے۔ فرمایا، ایک غلام آزاد کر سکتا ہے؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا۔ کیا اس کی طاقت ہے کہ مسلسل سانچھ روزے رکھے۔ عرض کی نہیں۔ فرمایا کیا اتنی استطاعت ہے کہ سانچھ مسکینوں کو کھانا کھائے، عرض کی نہیں اتنے میں سواد و من خرے کسی نے پیش کئے۔ فرمایا انہیں خیرات کر دے۔ عرض کی۔ اپنے سے زیاد محتاج پر نہ؟ مدینہ بھر میں کوئی گھر ہمارے برائے محتاج نہیں یہ سن کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا فتنے کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ فرمایا۔ جا اپنے گھروالوں کو کھلادے۔

2: اسی کے مثل کفارہ ظہار میں بھی وارد ہے۔

ظہار اور روزے کا کفارہ یہ مقرر ہے کہ وہ غلام آزاد کرے۔ اس کی استطاعت نہ ہو تو دو مہینے لگاتار روزے رکھے اس کی طاقت نہ ہو تو سانچھ مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھائے۔ مگر یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قانون سازی ہے کہ ان دونوں صاحبوں کو اس کفارہ سے مستثنی فرمادیا نہ صرف یہ کہ مستثنی فرمادیا بلکہ انہیں اتنے کثیر خرما عطا فرمائے۔

3: امام احمد بن مسند میں ثقات رجال صحیح مسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص آئے اور اس شرط پر اسلام ائے کہ صرف دو ہی نمازوں پڑھوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ کیا صرف قانون داں کی یہ حیثیت ہے کہ وہ اللہ کی فرض کی متنی تین نمازوں کو معاف کر دے؟ یہ صرف قانون ساز کا عہدہ ہے۔

4: حارث بن امامہ بن نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور خود حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مصنف ابن شیبہ و تاریخ بخاری و مسند ابو یعلیٰ صحیح ابن خزیمہ اور مجمع کبیر طبرانی میں مردی ہے۔ کہ فرمایا۔

”من شهد له خزیمہ او شهد علیہ فحسبہ“

خزیمہ کسی کے موافق یا مخالف گواہی دیں ان کی تنہا گواہی کافی ہے۔ حالانکہ قرآن کریم میں ہے۔

(وَأَشْهَدُونَا عَذْلًا مِّنْكُمْ) تم میں سے دو عادل گواہی دیں۔

مگر آنحضرت ﷺ نے حضرت خزیمہ کی تنہاشہادت کو دو کے برابر فرمادیا یہ دلیل ہے کہ آنحضرت ﷺ قانون ساز ہیں۔

5: سونا اور شمشین کپڑا مردوں کو حرام ہے۔ مگر حضروت ﷺ نے حضرت براء کے لئے سونے کی انگوٹھی اور حضرت سراقد کے لئے کسری کے زریں لگان اور حضرت عبدالرحمن بن عوف وزیر رضی اللہ عنہما کے لئے خارش کے وقت ریشمی لباس حلال فرمایا۔

6: حکام کے لئے تخفی قبول کرنا جائز نہیں، مگر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے حلال فرمایا۔ (سیف فی کتاب المقوح)

7: فرماتے ہیں۔

”قد عفوتم عن الخيل والرقيق فهالوا صدقة الرقة من كل اربعين درهماً درهم“

میں نے گھوڑوں اور غلاموں کی زکوٰۃ معاف کر دی روپوں کی زکوٰۃ دو ہر چالیس درہم میں ایک درہم۔

حیثیں اور مسند امام احمد اور شرح معانی الاثار میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا:

”اللَّهُمَّ إِنَّ أَبْرَاهِيمَ حَرَمَ مَكَةَ وَإِنِّي أَحْرَمُ مَا بَيْنَ لَابْيَهَا“
اسے۔ ابراہیم نے مکہ کو حرم کر دیا اور میں ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان کو حرم بتاتا ہوں۔

یعنی مدینہ طیبہ کو جنۃ الوداع کا موقع ہے، حرم مکہ کے احکام بیان فرمائے ہیں۔ ارشاد ہوا۔ اس کا میدان نہ صاف کیا جائے۔ یعنی گھاس نہ چھیلی جائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر عرض کی۔

”الا الا ذخر فانه لقينهم ولبيوتهم“
سوائے اذخر کے یا رسول اللہ؟ اس لئے کہ یہ ان کی بھٹی کے لئے اور انکے گھروں کے لئے ہے۔

فوراً باہتا خیر اس کا استغفار ماذیا۔

جنۃ الوداع کا موقع ہے حضور ﷺ کی فرضیت بیان فرمائے ہیں کہ اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے عرض کیا۔

”العامنا هذا ام للابد“ کیا اسی سال کے لئے فرمایا اسی سال کیلئے۔
اگر میں باں کھدوں تو ہر سال کے لئے واجب ہو جائے۔

ان شواہد کو دیکھئے کیا یہ سب پکار پکار کر نہیں بتا رہے ہیں کہ آنحضرت ﷺ قانون ساز ہیں قانون دان نہیں۔

یہی وجہ ہے کہ احناف کے نزدیک حدیث سے قرآن مجید کا نسخ جائز ہے۔
مرقاۃ میں ہے۔

”قد اثبَتَ عَنْهُ الْحِنْفِيَةُ أَنَّ الْحَدِيثَ نَاسِخًا لِكِتَابٍ“
حنفیہ کے نزدیک ثابت ہے کہ حدیث کتاب اللہ کی ناسخ ہو سکتی ہے۔
اور یہ حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ ارشاد فرمایا۔

”كَلَامٌ يَنْسَخُ بَعْضَ بَعْضٍ بَعْضًا كَنْسَخَ الْقُرْآنَ“
میرا کلام بعض بعض کو منسخ فرمادیتا ہے۔ جیسے قرآن کو منسخ کرتا ہے۔

امت کا عقیدہ:

حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ و آله و سلم قانون ساز ہیں۔ اس بارے میں امت کا عقیدہ عہد صحابہ
سے لیکر یہی رہا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ و آله و سلم قانون ساز ہیں صرف قانون دال نہیں۔

1: سنن ابی داؤد ابن ماجہ و سنن امام طحاوی و مجمع طبرانی و تہجی وغیرہ میں
حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔

”جعل رسول الله ﷺ للمسافر ثلا ولوا مضى السائل على مسائله
لجعلها خمساً“

رسول ﷺ نے مسافر کے لئے موزوں پرس کی مدت تین دن مقرر فرمائی اگر
ماٹنے والا مانگے جاتا تو ضرور پانچ دن کر دیتے۔

2: بخاری میں زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرودی ہے۔

”وَجَدَتْهَا مَعَ خَزِيمَةَ الَّذِي رَسُولُ اللهِ صلی اللہ علیہ و آله و سلم شَهَادَتَهُ شَهَادَتِينَ“
میں نے یہ آیت خزیمہ کے پاس پائی جن کی شہادت رسول ﷺ نے دو
گواہوں کے برابر فرمائی۔

3: حرم مدینہ کے سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں

”نهی النبی ﷺ ان یعضد شجرہ او یخطط او یوخذ طیرہا“

نبی ﷺ نے منع فرمایا کہ مدینہ کے درخت کاٹے جائیں یا پتے جھاڑے جائیں یا چڑیا پکڑی جائے۔

ان کے علاوہ خود یہی حضرت ابو ہریرہ اور انس بن مالک، سعد بن وقاص، زید بن ثابت، ابو سعید خدری، عبد الرحمن بن عوف صعب بن جثامة، رافع بن خدیجہ، غبیب بن حذلی، جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا۔

”حرم رسول اللہ ﷺ ما بین لابتی المدینة ولا بیتها شجرہا ان یعضد او یخطط حرمتہا حرام البقیع باختلاف اللفاظ بعضہم بعضاً“

مدینہ کے دونوں پہاڑیوں کے مابین حرم بنایا، اس کے درخت کاٹے کا جھاڑنا حرام فرمایا، اس کا شکار حرام فرمایا، یقین کو حرم بنایا۔

یہ دس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ارشادات ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ نے مدینہ کو حرم بنایا۔ اس کے درخت کاٹا پتے جھاڑنا اس کی چڑیا پکڑنا حرام فرمایا، حرام کرنے کی اسناد، حضور ﷺ کی طرف کرنی اس کی دلیل ہے کہ ان سب کا عقیدہ یہ تھا کہ حضور ﷺ کو اس کا اختیار تھا کہ جس چیز کو چاہیں حلال فرمادیں جسے چاہیں حرام فرمادیں۔ اسناد میں اصل حقیقی ہے۔ جب تک کوئی قریئہ صادق نہیں جو یہاں مشتمل ہے۔ تو ثابت ہو گیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور ﷺ قانون ساز ہیں۔

4: حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔

”نہانا رسول اللہ ﷺ عن خاتم الذهب“

- رسول ﷺ نے ہمیں سونے کی انگوٹھی پینے سے منع فرمایا۔
- 5: حضرت جیش بن اویسؑ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر ایک قصیدہ مدعاہ عرض کیا، جس میں ہے۔
- ”بشرعت لنا دين الحنيفة بعد ما عبdenا كامثال الحمير طواعنا“
- ہمارے لئے دین حنفی کی آپ نے تشریع فرمائی اس کے بعد کہ ہم گدھوں کی طرح بتوں کو پوچھتے تھے۔
- 6: امام قدوری فرماتے ہیں۔
- ”سن رسول الله ﷺ الغسل للجمعة والعيدین والاحرام وعرفه“
- رسول ﷺ نے مسنون فرمایا غسل جمعہ اور عیدین اور حرام اور عرفہ کے دن کا، سن کی اسناد حضور سید عالم ﷺ کی طرف کرنی اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ حضور سید عالم ﷺ قانون ساز ہیں۔
- 7: امام عبدالوہاب شعرانی قدس سرہ میزون الشريعة الکبری میں فرماتے ہیں
- ”كان الحق تعالى جعل له ﷺ ان يشرع من قبل نفسه ما شاء“
- اللہ عز وجل نے رسول ﷺ کو یہ اختیار دے رکھا تھا کہ اپنی طرف جو چاہیں مشرع فرمادیں۔
- 8: امام احمد خطیب قسطلانی مواہب میں فرماتے ہیں۔
- ”من خصائصه ﷺ انه كان يخص من شاء بما شاء من الاحكام“
- سید عالم ﷺ کے خصائص میں سے یہ ہے کہ شریعت کے احکام میں جسے چاہیں جس حکم سے چاہیں مستثنی فرمادیں۔
- 9: علامہ زرقانی نے اس کی شرح میں اضافہ فرمایا۔
- ”من الاحکام وغيرها“

احادیث کی تخصیص نہیں جس چیز سے چاہیں جسے چاہیں خاص فرمادیں۔

10: علامہ اجل سیوطی قدس سرہ نے خصائص کبریٰ میں اس مضمون کا ایک باب منعقد فرمایا۔

”باب اختصاصه ﷺ بانہ يخصل من شاء بما شاء من الاحکام“
اس کا بیان کہ نبی ﷺ اس منصب کے ساتھ خاص ہیں کہ جس حکم سے
چاہیں خاص فرمادیں۔

11: علامہ عبد الباقی زرقانی شرح مواہب میں فرماتے ہیں۔

”قد اشتهر اطلاقه عليه ﷺ لانہ شرع الدین والاحکام“
حضور ﷺ کو شارع کہر مشہور ہے اسلئے حضور نے دین اور احکام کی تشریع فرمائی۔

12: قصیدہ بردہ شریف میں ہے۔

”نبينا الامر الناهي فلا احد ، امرني قول لامنه ولا نعم“
ہمارے نبی آمرا و ناہی ہیں۔ ہاں اور نہیں کہنے میں ان سے زیادہ کوئی سچا نہیں۔

13: علامہ شہاب حفاجی اس شعر کی شرح میں فرماتے ہیں۔

”معنی نبینا الامر الخ انه لا حاكم سواه ﷺ فهو حاكم غير محکوم“
نبی ﷺ کے آمرناہی ہونے کی معنی یہ ہیں حضور حاکم ہیں حضور کے سوا عالم میں
کوئی حاکم نہیں، وہ کسی کے مکحوم نہیں۔

اور آج اس بارے میں امت کا کیا عقیدہ ہے یہ معلوم کرنا ہو تو ترجمان
ملت مجدد وقت اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا رسالہ مبارکہ منہہ المیب اور الامن
والمعلم کا مطالعہ کریں۔ (مولانا مشتی محمد شریف الحق صاحب امجدی اعظمی)

بشریت کی روشنی میں

ورواد انبیاء کا حقیقی پس منظر

سرز میں گئی پروردہ انبیاء کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ پروردگار حقیقی نے کم و پیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام کے اس تسلسل کو کیوں جاری رکھا یا اس کی بنیادی حکمت و مصلحت کیا تھی؟ اس کی حقیقت اور حقیقت کا پس منظر جب تک ذہن نشین نہ کر لیا جائے ان اعتراضات کا روشنامکن ہو جائے گا جو کفار عرب اور کفار افغان کیا کرتے تھے، یہ کون نہیں جانتا کہ کفر والحاد کا بھی انک بازار ہر زمانے میں گرم رہا ہے لوگ خداوندوں کی حقانیت سے یکسرے نیاز و غافل تھے جس شے پر بھی عقیدہ جمادیتے اس کی پوجا شروع کر دیتے۔ یہی ان کا نصب العین بن کر رہ گیا تھا گواہ م علیہ السلام کے عہد میں ان کیفیات شکست کا دائرہ زیادہ وسیع نہیں رہا جس کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ آدم علیہ السلام کے دور میں انسانی آبادی بہت ہی مختصر تھی اور دنیا کی دنیاوی لذتیں پوری طرح منشف بھی نہ ہو سکی تھیں اس بناء پر گمراہیوں کو پہنچنے کے کم موقع ملے ورنہ جیسا کہ بعد کے زمانوں میں یہ غیر منظم نقشہ دیکھا گیا ایام آغاز میں بھی دیکھا جا سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ پیغمبر اولین کے دور میں تبلیغ و دعوت سے متعلق وہ امتحانات بھی نہیں لئے گئے۔ تاہم وحی الہی کے ذریعہ آدم علیہ السلام اپنی اور اپنے قبیلے کی اصلاح ضرور فرماتے رہے تھے مگر تہا نہیں سرگرمیوں کی مکمل فضائیں قائم ہو سکی تھی۔ چنانچہ جب آدم علیہ السلام کا زمانہ ختم ہوا اور انسانوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہونے لگا تو

بے دینی کے شعلے بھی اسی قدر بھر کنا شروع ہو گئے۔ اور نتیجہ کے طور پر ہر چہار سو کفر والیاد کے بے تحاشا بادل چھانے لگے، ظاہر ہے جہاں اللہ کا کوئی حق شناس بندہ نہ ہو گا اس ماحول کی اور کیا صورت حال ہو سکتی تھی۔ خداۓ تعالیٰ کے پیش نظر یہ تمام ماحول شکستہ موجود تھے اس کی غیرت کو کب برداشت ہو سکتا تھا کہ ہمارے بندے گمراہی کی سیاہ طوق اٹکائے پھریں اور ہماری رو بیت سے غافل و بے خبر رہ جائیں لہذا اس نے انسانی رشد و ہدایت کی خاطر با قاعدہ طور سے یعنی تسلیم کو برقرار رکھتے ہوئے ورو د انبياء فرمانا شروع کر دیا اور وہ بھی اسی بشری کیفیت و ہدایت کے ساتھ جس طرح کہ ایک عام انسان کی کیفیت و ہدایت ہوا کرتی ہے اس کا بنیادی مفاد بھی یہی تھا کہ حواس اپنے فطری انداز و مزاج کی روشنی میں انبیاء کرام کی صداقت کو آسانی سے تسلیم کر سکیں ورنہ دوسری کیفیت و ہدایت کے تحت ممکن ہو سکتا تھا کہ فطری مزاج و مذاق یا فطری فضائل قبول کرنے سے عاجز رہ جاتے یا خود کو عاجز قرار دیتے اس کی وضاحت آگے آرہی ہے چنانچہ ورو د انبياء کے باوجود بھی کفر و ضلالت میں کوئی کمی نہ آئی بلکہ طرح طرح کے بے بنیاد الزامات انبیاء کرام پر ہمیشہ عائد کرتے رہے ہیں سلسلہ عہد محمدی تک جاری رہا۔

ورو د انبياء کے سلسلے میں اس نوعیت کے اختراع کو آفرینہوں کی کیفیت و ہدایت یا ان کے حالات زندگی کے متعدد شعبے عام انسانوں کے ہم مثل کیوں کر ہو سکتے ہیں۔ چاہیئے تو یہ تھا کہ قطع گمراہی کے لئے خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی تخلیق کچھ ایسی انفرادیت یا فوق البشریت کی صورت میں کی جاتی جو بشری مشابہت یا انسانی حواس کے قطعی مختلف ہوتی، بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جس طرح ایک عام انسان کھاتا پیتا ہے اور ہستا بولتا ہے یہی طریقہ خدا کے نبیوں کے ساتھ

بھی کیسے فسلک ہو سکتا ہے کم از کم نبیوں کو تو ایسی خاص انفرادیت کی روشنی میں جینا چاہئے تھا جو عوامی نقل و حرکت سے بہر حال متاز ہوتی۔ اس قسم کی کفری ذہنیت بارہا وجود میں آئی خصوصاً قرون انبیاء میں اس کا دائرہ بے حد و سعی تھا قرآن حکیم میں اس کی مثالیں بھی موجود ہیں لیکن لمحہ فکری یہ ہے کہ آیا بشری مشابہت کو قائم رکھتے ہوئے اس کے زیر اثر و رواد انبیاء میں وہ کون کون سی روحانی مصلحتیں مضر ہیں جن سے صداقت کا پتہ چلتا ہے یہ جانے کی بھی کوشش نہیں کی گئی اور اگر کی بھی گئی تو ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوئی کیونکہ وہاں اصل معاملہ تو یہ بھی تھا کہ جب ہمارے آباؤ اجداد نے ایسے ہم مثل انسانوں کی فکر نہیں کی تو ہم لوگوں کو کیا پڑی ہے۔

قرон اولیٰ سے لے کر عہد محمدی تک یہی کیفیت جاری رہی حتیٰ کہ ابو جہل تک بھی اپنے خاندانی عقیدے کی بیان پر مرا (اویے عہد محمدی میں اسلام کو جس قدر بھر پور تقویت پہنچی ہے کسی دور میں نہیں پہنچی) لیکن یہاں پر ہمارا مقصد اس زمانے سے ہے جس زمانہ میں لوگ عموماً انبیاء کرام پر بہتان لگایا کرتے تھے اور اپنی جیسی مثال دے کر اپنا ہی قد اونچا کرنے کی فکر میں لگ رہا کرتے تھے۔ مثلاً۔

﴿ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴾ (ہود ب ۱۲)

(پیغمبروں کی تقریں کر اہل انتہا کیہے بولے) کہ تم (اور کچھ) نہیں مگر ہماری طرح کے آدمی ہو اور خدا نے کوئی چیز بھی نازل نہیں کی تم محض جھوٹ بولتے ہو۔

حضرت ہو دعیہ السلام کے بارے میں۔

﴿ قَالُوا يَهُودٌ مَا جِئْنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِ الْهَبَّةِ عَنْ قَوْلِكَ وَمَا

نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ أَنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بِعَصْرِ الْهَيَّاتِ بِسْوَءٍ^{۴۷})
وہ (لوگ) کہنے لگے اے ہو تو کوئی نشانی ہمارے پاس نہیں لایا (جس کو ہم تجوہ کو
چھا بھیں) اور ہم تو تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں اور نہ
ہم تیری بات مانے والے ہیں ہم تو اسی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود کی تجوہ
پر مار پڑ گئی ہے۔

حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں۔

﴿فَقَالَ الْمَلَائِيلَدِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ
يُفَضِّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شاءَ اللَّهُ لَا نُزَّلَ مَلِكِكَةٌ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي أَبَانَا
الْأَوَّلِينَ﴾

(جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت حق دینے لگے تو قوم کے
سردار اپنی قوم سے کہنے لگے یہ ہے کیا؟ تم جیسا ایک آدمی ہے بس اس کا مطلب
یہ ہے (کسی طرح) ہمارا بڑا بن جائے اور اگر (واقعی) اللہ تعالیٰ (کسی کو پیغمبر بنا
کر) بھیجننا چاہتا تو فرشتے اتنا تاہم تو ایسی بات اپنے اگلے آباء اجداد سے بھی
نہیں سنی۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔

﴿قَالُوا إِنَّا تَأْتِيْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَتَهْوَ لِتُرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمْسُنَّكُمْ مِنَ عَذَابِ
الْآيَمْ﴾
(۱۹ رکوع ۲۲)

(اہل کفر) بولے ہم نے تمہیں نامبارک پایا اگر تم (وعظ و نصحت سے) باز نہ آؤ
گے تو ہم تمہیں سگار کریں گے اور تم کو ہماری طرف سے دردناک تکلیف پہنچی گی
اسی طرح حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام کے بارے میں فرعون

نے بھی طرح طرح کے الزامات عائد کئے تھے اور آخر اس دور میں ایسا کون سا جذبہ کام کرنے پر مجبور تھا اور ایسی کون سی ذہنیت پروان چڑھتی جا رہی تھی جو بیانگ وہل پیغمبروں کی خلاف ورزی کرنے پر آمادہ تھی، دعوت حق پر ایمان نہ لانا تو ایک الگ بات ہوئی مگر خدا کے پیغمبر ہونے تک کو جھٹلا دینا وہ بھی محض اس بنیاد پر کہ اپنے آپ کو خدا کا پیغمبر ثابت کرنے والی مخلوق بشری شکل میں کیسے ہو سکتی ہے واقعی مضمکہ خیز ہے کافروں کے اسی جذبہ کی روشنی میں مفسرین رقطراز ہیں کہ ۷۱۷ء تک عام طور پر بت پستوں کا یہی عقیدہ رہا کہ انسان خدا کا رسول یا نائب خدا ہرگز نہیں بن سکتا۔ اصلاح کائنات کے لئے جب کبھی ضرورت ہوتی ہے تو خدا خود انسان کی صورت میں ظاہر ہوا کرتا ہے یا کسی فرشتے کو بھیج دیتا ہے اور یہ کہ جتنے بھی بزرگ دنیا میں اصلاح کے لئے آئے ہیں وہ سب کے سب فوق البشر ہستی تھے اسی عقیدہ کے تحت وہ پیغمبر ان خدا کی تکذیب کیا کرتے تھے۔ ان کا یہ وہی عمل تھا کہ جب کبھی اللہ کا کوئی مقدس بندہ لوگوں کو پیغام حق سنانے آتا تو سب سے پہلے وہ یہی سوال کرتے کہ آخر یہ کیا نبی ہے جو ہماری طرح کھاتا پیتا سوتا اور چلتا پھرتا ہے اور یہ کیا پیغمبر ہے کہ ہماری طرح اسے بھی عارضے لاحق ہوتے ہیں۔ یہاں ہوتا ہے تکلیف و راحت میں بنتلا ہوتا اور رنج و مسرت میں بھی مزے لیتا ہے اگر خدا کو ہماری ہدایت مقصود ہوتی تو وہ ہم جیسا ایک کمزور انسان کیوں بھیجا کیا خدا خود نہیں آ سکتا تھا؟ یا وہ کسی فوق البشر ہستی کو نہیں بھیج سکتا تھا۔

یہاں پر دو اہم اعتراضات جو پیغمبروں کی ہم مثلی اور نزول فرشتگان سے متعلق ہیں انکی توضیح یوں ملاحظہ فرمائیے۔ پہلے تو مفلوچ ذہنیت والوں کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ایک بشری بہیت والے پیغمبر کا قول فعل اور اس کا طریقہ عمل جس کا

صد و رعام انسانوں کی صحبتوں میں رہتے ہوئے ہوتا رہا اس کو جس شہری فطرت کی روشنی میں پرکھا سمجھا جاسکتا تھا۔ کیا فوق البشریت کے ہر پہلو کو اسی انداز کے ساتھ سمجھا جانا ممکن ہو سکتا تھا۔ مثال کے طور پر اگر پیغمبروں کی بجائے فرشتگان خداہی کا نزول ہوا کرتا تو ان پر ایمان لانے یا ان کو اچھی طرح پر کھنے بخھنے کیلئے کیا صورت ہو سکتی تھی؟ جبکہ وہ جسمانیت اور اکل و شرب سے قطعی طور پر بے نیاز ہیں اس کے علاوہ وہ نظرؤں سے پوشیدہ بھی رہتے ہیں اور اگر مانا اجنبی شہری کیفیت میں زندہ رہنے کی طاقت دے بھی جاتی تو پھر یہ اعتراض بھی مہمل رہ جاتا ہے کہ وہ انسانوں سے پوشیدہ کیوں ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ایسی گمراہ ذہنیت کے پیش نظر فرشتوں کی امتیازی شان کا کایا ہی پلٹ کر رکھ دیا جاتا (نعوذ باللہ) اس کے علاوہ دوسرے رُخ سے یہ بھی سوچنا پڑتا ہے کہ صداقت کے عملی کارنامے کس قدر خطرے میں پڑ جاتے اور پھر یہ غیر ممکن تھا کہ فرشتے بھی ان کے ازمات و اعتراضات سے محفوظ رہ جاتے مثلاً جب ابراہیم علیہ السلام کو آتش کدہ نمرود میں ڈالا جا رہا تھا تو انہیں چاہئے تھا کہ آگ سے بچنے کے لئے پوشیدہ ہو جاتے مگر ایسا نہیں ہوا بلکہ انہیں آگ میں ڈالا لیکن آگ خود سر در پڑ جاتی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام صاف نجح جاتے ہیں اب اگر ایسے نازک موقع پر وہ ملکی اوصاف کے تحت پوشیدہ ہو جاتے تو ظاہر ہے حقانیت بے ولیل رہ جاتی چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس ایک واقعہ سے صداقت کا والہانہ طور سے اکشاف ہو جاتا ہے کہ انسانی شکل میں ہونے کے باوجود آتش نمرود کچھ نہ لگاڑ سکی، کیا برق ہونے کی یہ نظیر مثال نہیں کہ ہم مثی اگشت بدنداں ہو کر رہ گئی پھر آخر فرشتوں کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے ظاہر ہے اگر پیغمبر ملکی صورت میں ہوتے تو

اس نازک موقع پر قطعی الزام عائد ہو جاتا جب ابراہیم علیہ السلام اپنے آگ میں
ڈالے جانے سے پوشیدہ ہو جاتے۔ واضح ہوا کہ جتنا فائدہ بشری انداز سے پہنچ
سکتا تھا اتنا فوک البش رہستی سے نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس سلسلے میں خداوندوں خود
ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کی ہدایت کے لئے انسان ہی زیادہ موزوں ہو سکتا ہے۔
کیونکہ پیغمبر کا فرض صرف یہی نہیں کہ وہ تقریر کرے بلکہ خود عمل کر کے دکھانا اور
پیروی کے لئے ایک نمونہ پیش کرنا بھی اس کے فرائض میں داخل ہے اور اگر اسی
مقصد کے لئے کوئی فرصت بھیجا جائے (جس میں بشری خصوصیات موجود ہوں)
تو انسان کہہ سکتا ہے کہ ہم اس کی طرح کیونکہ عمل کر سکتے ہیں جبکہ وہ ہماری طرح
نفس اور نفسانی خواہشات ہی نہیں رکھتا اور اس کی فطرت میں وہ قوتیں ہی نہیں
ہیں جو انسان کو گناہ کی طرف راغب کرتی ہیں۔ چنانچہ اسی لئے حق سبحانہ، تعالیٰ
نے انسانوں کی اصلاح کیلئے انسان ہی کو منصب ہدایت پر سرفراز کیا لیکن کفار
چونکہ عقل سليم سے کام ہی نہیں لیتے تھے اس لئے اعتراضات کیا کرتے تھے۔

اس حقیقت کی روشنی میں بات کلی طور سے سمجھ میں آتی ہے کہ ایک انسان
جس طرح اپنے ہی جیسے کی بات قبول کر سکتا ہے یا کوئی پیغمبر جس قدر اپنے بشری
کارناموں اور عملی سرگرمیوں کے تحت متاثر کر کے صداقت کا پرچار کر سکتا تھا
دوسری کوئی بھی صورت اس سلسلے میں موزوں نہیں ہو سکتی تھی لہذا دنیا کی ہدایت
کیلئے ورود انبیاء ہی کا تسلسل برحق تھا اور بشری فطرت کے عین مطابق جس کے
ہر زوایے پر سرجھ کا دینا مقتضاۓ ایمان ہے مگر اس کو کیا سمجھے کہ پیغمبروں کی ہزار
رشد و ہدایت کے باوجود بھی کفر والحاد کا طوق لٹکائے پھرے اور ایمان نہ لائے۔

(مولانا سید شعیم احمد صاحب گوہر اللہ آباد)

﴿ختم نبوت﴾

موجودہ دور میں جتنے فتنوں نے جنم لیا ہے ان میں عظیم فتنی نبوت کا ہے جس کا دروازہ دیوبند میں کھلا اور ڈرامہ قادیان میں اٹھ کیا گیا، ملت اسلامیہ کا کتنا المناک سانحہ ہے کہ جس فتنہ کو اپنی موت مر جانا چاہئے وہ پروان چڑھتا رہا پھلتا پھولتا رہا۔ یہاں تک کہ ایک زندہ تحریک کا روپ دھار لیا۔ یہ صرف اس وجہ سے ہوا کہ مسلمان اپنے مذہب سے بیگانہ اور دین سے نا آشنا ہیں بیگانگی ہی کا نتیجہ ہے کہ آج بھی یہ فتنہ اپنی تمام تر تو انسانیوں کے ساتھ زندہ ہے اور قرآن و سنت کے نام پر الحادو بے دینی کا زبردے رہا ہے اور وہ طبقہ جس نے دین مغرب سے لیا ہے اس زہر کو شیر میں گھونٹ سمجھ کر حلق سے نیچے اترتا جا رہا ہے یہ سمجھے بغیر کہ ایمان کو زندگی مل رہی ہے یا اسے موت سے قرب کیا جا رہا ہے۔

وقت کا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ دینی فکر و شعور رسول و صحابہ کے اسودہ نہیں مغربی ذہنوں سے حاصل کیا جا رہا ہے اور عقیدہ قرآن و سنت سے نہیں لیا جاتا بلکہ اپنے اپنے عقیدہ اور ذہن و فکر کے مطابق قرآن و سنت کو ڈھالا جا رہا ہے۔ نادان یہ بھی نہیں جانتے کہ دین مغرب میں نہیں رسول کی سیرت میں ملتا ہے اور عقیدہ ذاتی پیداوار نہیں بلکہ وحی الہی کا نقش ثابت ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء سلف نے (خدا ان کی قبروں پر رحمت و نور کی بارش بر سائے) دین و مذہب کا پاکیزہ شعور پیدا کرنے کے لئے اصولی تفسیر کی ترتیب دی تاکہ قرآنی آیات تفسیر و تاویل کی موشکافیوں سے محفوظ رہیں۔

علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں۔

”تفسیر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے ہو کیونکہ قرآن میں اگر کسی جگہ اجمال ہے تو دوسری جگہ اس کی تفصیل موجود ہے اگر قرآن میں تفسیر نہ پائی جاسکے تو سنت رسول سے لی جائے اس لئے کہ سنت قرآن کا بیان اور اس کی تفسیر ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ کے تمام احکام قرآن سے سمجھے ہوئے ہیں۔ اور جب کسی آیت کی تفسیر قرآن و سنت میں نہ مل سکے تو صحابہ کرام کے اقوال کی جانب رجوع کرنا چاہیے وہ قرآن کی بہتر تفسیر جانتے تھے چونکہ نزول آیات کے وقت جو قرآن اور حالات تھے ان سے وہ باخبر تھے اور انہیں کامل سوچھ بوجھ، علم صحیح اور نیک عمل حاصل تھا خصوصاً ان کو جو گروہ صحابہ میں ذی مرتبت اور زبردست عالم تھے جیسے خلفاء اربعہ، آئمہ مجتہدین اور حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور جب کسی آیت کی تفسیر قرآن و سنت اور اقوال صحابہ میں بھی نہ مل سکے تو تابعین عظام کے اقوال لئے جائیں۔“

(تفسیر ابن حبیب ج ۱ ص ۳۰۳)

اور علامہ سیوطی ابن تیمیہ کا قول معتمد ہونے کی بنابری نقل فرماتے ہیں۔

”جو شخص صحابہ اور تابعین کے مذهب اور ان کی تفسیر سے عدول کر کے کوئی دوسرے قول اختیار کرے وہ خاطی بلکہ متبدع ہے اس لئے کہ صحابہ قرآن کی مراد اور اس کی تفسیر ویسے ہی جانتے تھے جیسا کہ وہ اس دین حق کو جانتے تھے جس کے ساتھ اللہ نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا ہے۔“ (تفاقہ ج ۲ ص ۱۷۸)

علامہ نسفی اور علامہ تفتازانی فرماتے ہیں۔

”آیات ظاہر معنی پر رکھے جائیں ظاہر معنی سے ایسے معنی کی جانب عدول

جس کا فرقہ باطنیہ دعویٰ کرتے ہیں الحاد بیدینی ہے۔” (شرح عقائد ص ۱۱۵)

یہ سارے حوالہ جات صرف اس لئے دیئے گئے، تاکہ پہلی صدی سے لے کر مدد بودہ صدی تک کے تمام فتنوں کے بارے میں آسانی سے فیصلہ کیا جاسکے کہ یہ سارے فتنے انہیں اصول و ضابطے سے فرار کا نتیجہ ہیں۔

موجودہ صدی میں انکار ختم نبوت کا فتنہ بھی سلف پیزاری مغرب نوازی اور جدت پسندی کی پیداوار ہے ختم نبوت کی نص صریح مَا كَانَ مُحَمَّدًا أَبَا أَخْدَمْ مِنْ ذِجَالِكُمْ وَلِكُنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کے ظاہری معنی کو نظر انداز کر کے مختلف معنی پیدا کئے گئے اور طرح طرح کی موشگانیاں کی گئیں اور اس طرح امت میں افراط و انتشار کا دروازہ ہکول دیا گیا۔

آیت کی مراد معنی اور صحیح تفسیر جانے سے پہلے شان نزول اور آیت کے جملوں میں مناسبت ذہن نشین ہو جائے تو بہتر ہے۔

شان نزول: عرب میں متنہی (منہ بولے بیٹھے) کو نبی بیٹھی کی حیثیت حاصل تھی بیٹھی کی مٹکوہد کی طرح متنہی کی مٹکوہد سے بھی نکاح حرام سمجھتے تھے جب رحمت عالم ﷺ نے اپے متنہی حضرت زید بن حارثہ کی مٹکوہد سے نکاح فرمایا تو کفار و مشرکین عرب طعن و تشنیع اور اعتراضات کا طوفان اٹھانے لگے کہ محمد ﷺ نے منہ بولے بیٹھی کی مٹکوہد کو نکاح میں لے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے عرب کے اس جاہلانہ اور معاندانہ اعتراض کا جواب ارشاد فرمایا۔

”محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں بچھلے۔“

یہاں ذہن کو ایک جھنکا لگتا ہے کہ سرکار نے متعدد مقامات پر حسین کریمین کو اپنا بیٹا فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ حضور کے حقیقی فرزند حضرت طاہر، طیب، قاسم اور ابراہیم تھے پھر آیت میں یہ فرماتا کہ ”محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں۔“ کیا معنی رکھتا ہے اس ذہنی الجھن کو یوں دُور کیا گیا ہے۔

”المراد من رجالكم البالغين والحسن والحسين لم يكونوا بالغين حينئذ والطاهر والطيب والقاسم وابراهم توفوا صبياناً“
(مدارک ج ۳ ص ۵۰۰)

رجاکم سے مراد بالغین ہیں اور حضرات حسین نزول آیت کے وقت بالغ نہیں تھے اور طاہر طیب قاسم ابراہیم بچپن ہی میں وفات پاچکے تھے۔

تاریخی شواہد سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نزول آیت کے وقت حضرت طاہر طیب قاسم باحیات نہیں تھے اور حضرت ابراہیم اس وقت تک پیدا نہیں ہوئے تھے آیت کے جملوں میں مناسبت:

آئمہ تفسیر نے متعدد طریقوں سے جملوں میں مناسبت بتائی ہے۔
امام رازی [۱] فرماتے ہیں۔

ماکان محمد ابا احمد من رجالکم فرمانے سے ہر قسم کی ابوت اور شفقت و محبت کی نفعی کا شہر پیدا ہوتا تھا اس لئے شہر کے ازالہ کے لئے ارشاد فرمایا گیا ولکن رسول اللہ یعنی روحانی طور پر تمہارے باپ ہیں جس طرح باپ شفیق و ناصح واجب التعظیم اور لازم الاطاعت ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ تم پر شفیق و مہربان اور تمہارے لئے واجب التعظیم ہیں بلکہ باپ سے بھی زیادہ یہ اوصاف

[۱] آیت میں ربط و تعلق اور مناسبت کچھ میں نہ آنے کی وجہ سے مولانا قاسم نانوتوی نے تحریر الناس میں بھی نبوت بالذات، نبوت بالعرض اور ختم ذاتی اور زمانی کی شاخیں نکالی ہیں اور پوری امت کے غاف خاتم النبین کا معنی ختم زمانی کے بجائے ختم ذاتی لیا ہے۔ ملاحظہ ہو۔

”سو عالم کے خیال میں تو رسول اللہ صلیع کا خاتم ہونا بایس معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانہ کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں مگر اہل فہم پر روشن ہو گا کہ تقدم یا تاخر ذاتی میں بالذات کچھ فضیلت نہیں پھر مقام مدح میں ولکن رسول اللہ و خاتم النبین فرمانا اس صورت میں کیونکر صحیح ہو سکتا ہے۔“

چند سطر بعد، باقی یہ اختہل کہ یہ دین آخری دین تھا اس لئے سد باب اتباع مدعاں نبوت کیا ہے جو کل کو جھوٹے دعویٰ کر کے خلاف کو گراہ کریں گے البتہ حدودات قابلِ لحاظ ہے پر جملہ ما کان محمد ابا احمد من رجالکم اور جملہ ولکن رسول اللہ و خاتم النبین میں کیا تناسب تھا جو ایک کو دوسرا سے پر عطف کیا اور ایک کو متدرک من اور دوسرا کو استدرک اک قرار دیا، اور ظاہر ہے کہ اس قسم کی بے ربطی بے ارجاعی خدا کے کلام مجرم نظام میں مستchor نہیں اگر سد باب مذکور منظور ہی تھا تو اس کے لئے اور بیسیوں موافق تھے بلکہ بنائے خاتمیت اور بات پر ہے جس سے تاخر زمانی اور سد باب مذکور خود بخود لازم آتا ہے اور فضیلت ثبوی دو بالا ہو جاتی ہے۔“

(تحذیر الناس ص ۳۷ مطبوعہ کوہ نور پریس دہلی)

اور پوری امت سے الگ راستہ نکلنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ جناب کو حضور ﷺ کے بعد نبی کے آنے میں کوئی شرعی تباہت محسوس نہیں ہوئی، لکھتے ہیں۔ ”بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی ﷺ کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔“

(تحذیر الناس ص ۲۵)

امت پر فتنہ کا زروازہ کھولنے کے باوجود نانوتوی صاحب اپنے اختراعی معنی کی صحت پر کس نظر شاداں و فرحان ہے، ملاحظہ فرمائیے۔

اگر بوجہ کم الفعال بزوں کا فہم کسی مضمون تک نہ پہنچا تو ان کی شان میں کیا نقسان اور کسی نادان نے کوئی تحکماً کی بات کہہ دی تو کیا اتنی بات سے وہ غلطیم الشان ہو گیا۔

گاہ باشد کہ کوڈ کرے نادان بغلط بر هدف زند تبرع (تحذیر الناس ص ۲۶)

ان میں پائے جاتے ہیں پھر فرمایا گیا۔ خاتم النبیین اور یہ رسول عربی ﷺ تو سرپا شفقت و رحمت ہیں۔ اس لئے کہ یہ آخری نبی ہیں جن کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں اور ایسے نبی امت پر بہت شفیق ہوتے ہیں کیونکہ ان کی مثال اس باپ کی طرح ہوتی ہے جو یہ جانتا ہے کہ اس کے بعد اس کی اولاد کا کوئی سریبی یا اتاائق نہیں ہے۔ (ایسے باپ کے دل میں شفقت و محبت کی جو دنیا آباد ہوتی ہے وہ سب پر ظاہر ہے)

(تفسیر کعبہ ج ۲ ص ۵۲۸)

علامہ زمخشری فرماتے ہیں۔

”محمد تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور ہر رسول کی طرح رحمت و شفقت اور آداب و حقوق میں اپنی امت کے باپ ہیں، مگر حقیقی باپ نہیں اس لئے کہ اگر ان کا کوئی حقیقی بالغ لڑکا ہو تو یہ آخری نبی نہ ہوں۔ بلکہ ان کے بعد ان کے فرزند کو نبوت ملے حالانکہ یہ آخری نبی ہیں۔“

(کشف ج ۲ ص ۳۶۳)

بعینہ بھی مفہوم تفسیر ابوالسعید اور تفسیر صاوی میں بھی ہے کشاف کے الفاظ یہ ہیں۔
﴿خاتم النبیین﴾ یعنی اُنہو کان لہ، ولد بالغ مبلغ الرجال لکان نبیا
ولم یکن هو خاتم النبیین“

اس مقام پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور اکرم ﷺ کے لئے بیٹا منے پر یہ کیوں ضروری ہے کہ ان کا (سرکار کے بیٹے کا) منصب نبوت مانا جائے جبکہ بہت سے انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی اولاد کو نبوت تو نبوت ایمان تک نصیب نہ ہوا جیسا کہ قرآن کریم خود ثابت ہے۔ اس کے جواب میں علامہ صاوی فرماتے ہیں۔

”اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں کی اولاد کو نبوت دے کر ان کی عزت افزائی

فرمائی ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور ہمارے رسول تو سب رسولوں میں اکرم و افضل ہیں اس لئے اگر آپ کی اولاد (نرینہ) ہوتی تو آپ کی عزت افزائی کے لئے انہیں ضرور نبوت دی جاتی کیونکہ آپ آنچہ خوبیاں ہمہ دارند تو تھا داری کے مصداق ہیں۔“
(صاوی ج ۳ ص ۲۳۲)

علامہ صاوی نے یہ جواب صرف عقیدت و محبت میں ڈوب کر نہیں دیا ہے بلکہ اس کی تائید و توثیق میں اجلہ صحابہ کے اقوال و آثار موجود ہیں۔
راس المفسرین حضرت ابن عباس فرماتے ہیں۔

”یرید لو لم اختم به النبیین لجھت لہ‘ ابنا یکون بعده نبیا“
(مخازن ج ۳ ص ۹۵)

(اللہ تعالیٰ کے فرمان خاتم النبیین سے) مراد یہ ہے کہ اگر میں ان پر نبوت ختم نہ کرتا تو ان کو بیٹھا عطا کرتا جو بعد میں نبی ہوتے۔

حضرت ابن عباس کا دوسرا فرمان خازن میں اسی جگہ ہے۔

”ان الله لما حكم ان لا نبى بعده‘ لم يعطه‘ ولد اذكر اي صير رجلا“
اللہ تعالیٰ نے جب مقدر فرمادیا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں تو انہیں کوئی بیٹا جو مرد کہا جا سکے عطا نہ فرمایا۔

حضرت ابن ابی او فی کا فرمان بخاری شریف میں ہے۔

”لو قدر ان یکون بعده نبی لعاش ابراہیم“

اگر حضور کے بعد نبی ہونا مقدر ہوتا تو حضرت ابراہیم (فرزند رسول) زندہ رہتے
حضرت انس صحابی رسول سے سدی نے پوچھا حضرت ابراہیم فرزند رسول کی عمر

وفات کے وقت کیا تھی آپ نے جواب میں فرمایا۔

”اما ملام مهدہ ولو بقی لکان نبینا لکن لم یق لان نبیکم آخر الانبیاء“

(تلعیص العاریخ لابن عساکر ج ۱ ص ۲۹۳)

وہ گھوارہ کی مدت بھی پوری نہ کر سکے (بچپن ہی میں وفات پائی گئی) اگر زندہ رہتے تھی ہوتے لیکن زندہ نہیں رہے اس لئے سرکار آخڑی نبی ہیں۔
بعضوں نے آیت کے جملوں میں یوں مناسبت بتائی ہے۔

”کفار و مشرکین عرب کا پہلا اعتراض یہ تھا کہ حضور نے اپنے بیٹے کی منکوحہ کو نکاح میں لیا ہے۔ اس کے جواب میں فرمایا گیا۔ ”محمد تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں۔“ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ حقیقی بیٹے کی منکوحہ نہ سبی منہ بولے بیٹے کی سہی مگر اس سے نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اس کے جواب میں فرمایا گیا۔
ولکن رسول اللہ ہاں اللہ کے رسول ہیں جن کے فرائض میں ہے کہ وہ حلال چیز جس کو سماج کی بندشوں نے حرام کر رکھا ہے اسے رسم و رواج کی بیجا جگہ بندیوں سے آزاد کرائیں اور اس کی حللت خوب اچھی طرح ثابت کر دیں تاکہ اس کے جواز و حللت میں شک و شبہ کی گنجائش بھی باقی نہ رہے پھر تاکید فرمایا و خاتم النبیین اور سب نبیوں میں بچھلے نبی ہیں یعنی ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے جو معاشرہ کی جاہلیت اور برائیوں کو دُور کر سکے اس لئے اور شدید ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ عملاً اس جاہلناہ رسم کو مٹا کر جائیں تاکہ امت میں منہ بولے بیٹے کی منکوحہ سے نکاح کرنے میں فرط باقی نہ رہے۔“

خاتم کے لغوی معنی:

عام گفتگو بھی صرف لغت سے نہیں سمجھی جاسکتی جب تک کہ متکلم مخاطب اور

گفتگو کا پس منظر ہے، میں نہ ہو تو قرآن جو عقائد و مسائل اور شریعت کی بنیاد ہے اُسے کیسے سمجھا جاسکتا ہے پھر بھی چند حوالے دیئے جا رہے ہیں۔ تاکہ ذہن کا یہ بوجھ بھی ہلاک ہو جائے۔ مفردات راغب لغات قرآن میں ایک وقوع تصنیف ہے خاتم النبیین سے متعلق اس کے الفاظ یہ ہیں۔

”(وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ) لَا نَهُ خَتَمَ الْبُوْنَةَ إِذْ تَمَّمَّ بِمَجِيْهِ“

(مفردات راغب ص ۱۳۲)

خاتم النبیین ہیں اس لئے کہ حضور نے نبوت ختم کر دی۔ یعنی آپ نے اپنی تشریف آوری سے نبوت تمام کر دی۔

اسی طرح نزہۃ القلوب لغات قرآن میں اہم تصنیف ہے اس میں ہے۔

”قوله‘ (خاتم النبیین) آخر النبیین“

(نزہۃ القلوب بر حاشیہ تفسیر الرحمن ص ۷۳)

خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہے۔

مجموع الجاریات حدیث میں نہایت جامع کتاب ہے اس کے الفاظ ملاحظہ ہوں۔

”خاتم البوہ بکسر النساء ای فاعل الختم وهو الاتمام و بفتحها بمعنى الطابع ای شی یدل علی انه لانبی بعده“

خاتم نبوت (تاکہ زیر کے ساتھ) ختم کرنیوالا تمام کرنیوالا اور تاکے زبر کے ساتھ بمعنی مہر (دوتوں ہی صورت) خاتم البوہ وہ ذات ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔

قاموس میں ہے۔

”والخاتم آخرُ الْقَوْمَ كَالْخَاتَمِ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ آخِرُهُمْ“

اور خاتم (تاکے زبر کے ساتھ) قوم کے سب سے آخری آدمی کو کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ خاتم (تاکے زیر کے ساتھ) کے معنی ہیں اور اسی سے اللہ تعالیٰ کا فرمان و خاتم انبیاء ہے یعنی حضور سب نبیوں میں آخری نبی ہیں۔

اور قاموس کی شرح تاج العروس میں ہے۔

”وَمِنْ أَسْمَائِهِ عَلَيْهِ الْسَّلَامُ الْخَاتَمُ وَالْخَاتَمُ وَهُوَ الَّذِي خَتَمَ النَّبَوَةَ
بِمَجِينَهِ“

اور سرکار کے اسماء گرامی میں خاتم اور خاتم بھی ہے اور اس کے معنی ہیں وہ ذات جن کی جلوہ فرمائی نے نبوت ختم کر دی۔

ختم نبوت سے متعلق احادیث:

ختم نبوت سے متعلق سرکار کے تمام اقوال کو جیطہ تحریر میں لانے کی صلاحیت مجھ میں نہیں۔ چند احادیث لکھے جا رہا ہوں تفصیل کے لئے سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کی تصنیف جزاء اللہ عدوہ باباء ختم النبوة کا مطالعہ کریں۔

پہلی حدیث: ”سرکار نے ارشاد فرمایا میری اور دوسرے انبیاء کی مثال اس عمارت کی سی ہے جو نہایت خوبصورت اور دیدہ زیب ہو لیکن اس میں ایک ایسے کی جگہ خالی چھوڑ دی گئی ہو جو لوگ اس کے ارد گرد گھومتے ہوں اور عمارت کی خوبصورتی اور حسن پر خوش ہوتے ہوں لیکن ایک ایسے کی جگہ خالی دیکھ کر حیرت زدہ ہوں تو میں اس ایسے کی جگہ پر کرنے والا ہوں اور اس عمارت (نبوت کی عمارت) کو تمام کر نیوالا ہوں اور میں ہی آخری نبی ہوں اور ایک روایت میں ہے

تو میں ہی وہ ایسے ہوں اور نبیوں کے سلسلہ کو ختم کرنے والا ہوں۔ ”

(رواه البخاری و مسلم) مشکوہ شریف باب فضائل مسید المرسلین ص ۱ (۵۱)

دوسری حدیث: ”سرکار نے فرمایا میرے بہت سے نام ہیں میں محمد ہوں احمد ہوں ماحی ہوں یعنی مجھ سے خداوند قدوس کفر کو مٹاتا ہے میں حاشر ہوں یعنی قیامت کے دن لوگ میرے قدموں میں جمع کئے جائیں گے میں عاقب ہوں اور عاقب وہ نبی جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ ”

(رواه البخاری و مسلم) مشکوہ شریف باب اسماء النبی و صفاتہ ص ۱۵ (۵۱۵)

تیسرا حدیث: ”کانت بنو اسرائیل تسویهم الانبیاء کلمما هلک نبی خلفہ نبی و انه لانبی بعدی وستکون خلفاء فکشتر ”

(بخاری ج ۱ ص ۳۹۱)

نبی اسرائیل کی سیاست خود ان کے انبیاء فرمایا کرتے تھے جب کسی نبی کی وفات ہو جاتی تو دوسرا نبی اس کا خلیفہ ہوتا ہے لیکن میرے بعد نبی نہیں البتہ خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے۔

چوتھی حدیث: ”انی عند الله مكتوب خاتم النبيين وان آدم منجدل في طينته“ (شرح المسند مشکوہ شریف ص ۱۳)

میں عند اللہ اس وقت آخری نبی لکھا ہوا ہوں جب حضرت آدم اپنی خیر میں تھے یعنی ان کا سر اپا بھی تیار نہ ہوا تھا۔

پانچویں حدیث: ”سرکار نے فرمایا دوسرے انبیاء پر مجھے چھ چیزوں میں فضیلت دی گئی (یعنی یہ چھ چیزیں میرے علاوہ دوسرے نبی کو نہیں دی گئیں) (۱) مجھے جو امع المکالم دیا گیا۔ (۲) لوگوں کے دلوں میں رُعب ڈال کر میری نصرت فرمائی گئی۔ (۳) مال غنیمت میرے لئے حلال کیا گیا۔ (۴) ساری زمین

میرے لئے مسجد اور پاک بنائی گئی۔ (۵) جبی خلوقات کے لئے میں مبعوث کیا گیا۔ (۶) انبیاء کا سلسہ مجھ پر ختم کیا گیا۔ ” (رواه مسلم، مشکوہ شریف ص ۵۱۲) چھٹی حدیث: ” انا قائد المرسلین ولا فخر وانا خاتم النبیین ولا فخر ” (دارمی، مشکوہ شریف ص ۵۱۳)

میں رسولوں کا پیشوں ہوں اور اس پر مجھے فخر نہیں اور نبیوں کا ختم کرنے والا ہوں اور اس پر مجھے فخر نہیں۔

تَأْكِيدُ حَدِيثٍ : "إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنَّبُوَّةَ قَدْ انْقَطَعَتْ فَلَا رَسُولٌ بَعْدِي وَلَا نَبِيٌّ" (ترمذی، مسند امام احمد، مستدرک حاکم، جامع صہیرج اص ۲۶۷)

بیشک رسالت اور نبوت ختم ہو چکی تو میرے بعد نہ کوئی رسول ہو گا نہ نبی۔

خاتم النبیین کا معنی تقاسیر کی روشنی میں:

وہ آئندہ دین جن کی علمی اور فلکری کاوشوں پر علم و فن نازاں ہے ان کی چند توضیحات نذر قرطاس ہیں ان توضیحات سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ کہ خاتم النبیین کے معنی آخری نبی پوری امت کا اجتماعی معنی ہیں۔
امام رازی فرماتے ہیں۔

”وكان الله بكل شيء عليماً“ يعني علمه بكل شيء دخل فيه ان
لآخر بعده“ (كبير جلد ٢ ص ٥٢٨)

اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔
صاحب تفسیر ابوالسعید فرماتے ہیں:

﴿وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ﴾ اىً كَانَ آخِرُهُمُ الَّذِي خَتَمَ وَهُوَ بَكْسُرٌ
الثَّاءُ اىً كَانَ خَاتَمَهُمْ وَيُؤَيِّدُهُ قَرَأَةُ ابْنِ مُسْعُودٍ وَلَكِنْ نَبِيًّا خَتَمَ النَّبِيِّينَ
(ابو السعد على هامش الكبير ج ٧ ص ٣٣٩)

یعنی حضور تمام نبیوں میں پچھلے نبی ہیں اور ایک قرأت تا کے زیر کے ساتھ خاتم ہے (جس کے معنی آخر الانبیاء ظاہر ہیں) اور حضرت ابن مسعود کی قرأت ولكن نبیا ختم النبیین خاتم بکسر الراء اس کی تائید کرتی ہے۔

مطلوب یہ ہے کہ چاہے خاتم تا کے زیر کے ساتھ پڑھا جائے چاہے خاتم تا کے زبر کے ساتھ پڑھا جائے، دونوں ہی قرأت کی بنابر معنی یہ ہیں کہ حضور اکرم علیہ السلام آخری نبی ہیں۔

علامہ زمخشیر فرماتے ہیں۔

” وَخَاتِمُ بَفْتَحِ النَّاءِ بِمَعْنَى الطَّابِعِ وَبِكَسْرِهَا بِمَعْنَى الطَّابِعِ وَفَاعِلِ
الْخَاتِمِ وَتَقْوِيَّةِ قِرَأَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَلَكِنْ نَبِيَا خِتَمَ النَّبِيِّينَ ”

(کشف ج ۲ ص ۲۶۳)

اور خاتم تا کے زبر کے ساتھ بمعنی آلمہرا و تا کے زیر کے ساتھ بمعنی مہر کرنیوالا اور بعد کی قرأت کی تقویت حضرت ابن مسعود کی قرأت ولكن نبیا ختم النبیین سے ہوتی ہے۔
علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں۔

” فَهَذِهِ الْآيَةُ نَصٌ فِي أَنَّهُ لَا نَبِيٌّ بَعْدَهُ وَإِذَا كَانَ ، لَا نَبِيٌّ بَعْدَهُ فَلَا رَسُولٌ
بَعْدَهُ بِالطَّرِيقِ الْأَوَّلِيِّ وَالْآخِرِيِّ لَا نَقْصٌ لِمَقَامِ الرِّسَالَةِ الْأَخْصِ مِنْ مَقَامِ النَّبِيِّ
فَإِنْ كُلُّ رَسُولٍ نَبِيٌّ وَلَا يَنْعَكِسُ ” (تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۲۹۲)

یہ آیت اس امر پر نص ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں جب نبی نہیں، تو
رسول کیسے ہو سکتا ہے اس لئے کہ درجه رسالت درجه نبوت سے خاص ہے۔
ہر رسول نبی ہیں مگر ہر نبی رسول نہیں۔

علامہ فیروز آبادی صاحب قاموس فرماتے ہیں:

”﴿وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ﴾ ختم اللہ بہ النبیین قبلہ، فلا یکون نبی بعدہ“
(توبیر المقیاس ص ۳۲۲)

اللہ تعالیٰ نے حضور کو تمام انبیاء ساقیہ کا خاتم بنایا تھا آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔
علامہ علی بن احمد واحدی فرماتے ہیں۔

”﴿وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ﴾ ای لانبی بعدہ“
(الوجيز فی تفسير القرآن العزيز بر حاشیه مراجع لبید ج ۲ ص ۱۸۵)

یعنی حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔

شیخ محمد نووی جاوی فرماتے ہیں۔

”﴿وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ﴾ ای و کان آخرهم الذین ختموا به“
(مراجعة لبید جلد ۲ ص ۱۸۵)

یعنی حضور تمام نبیوں میں آخری نبی ہیں۔

صاحب خازن فرماتے ہیں۔

”﴿وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ﴾ ختم اللہ بہ النبیہ فلا نبوة بعدہ“ (خازن ج ۳ ص ۳۹۵)
اللہ نے حضور پر نبوت ختم کر دی اب ان کے بعد کسی کے لئے نبوت نہیں۔

علامہ عبداللہ نقشی فرماتے ہیں۔

”﴿وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ﴾ بفتح الناء عاصم بمعنى الطابع ای آخرهم وغيره
بكسر الناء بمعنى الطابع وفاعل الختم وتفويه قرۃ ابن مسعود ولكن
بيان ختم النبیین“
(مدارک جلد ۳ ص ۳۰۶)

تاکے زبر کے ساتھ عاصم کی قراءت ہے یعنی آلمہ مہر یعنی آخری نبی اور دوسروں
کی قراءات تاکے زیر کے ساتھ ہے یعنی مہر کرنیوالا اور اس کی تقویت حضرت ابن
مسعود کی قراءت ولكن نبیا ختم النبیین سے ہوتی ہے۔

حضرت ملا جیون فرماتے ہیں۔

”هذه الآية تدل على ختم النبوة على نبينا صريحاً والمقصود انه يفهم من الآية ختم النبوة على نبينا عليه السلام“ (تفسيرات احمدیہ ص ۳۸۲)
یہ آیت ہمارے بی ۱۰۷ پرنبوت کے ختم ہونے کی کھلی دلیل ہے۔ اور آیت کا مقصود و مفہوم یہ ہے کہ ہمارے حضور ۱۰۷ پرنبوت ختم ہے۔

علامہ جلال الدین محلی فرماتے ہیں:

”وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا“ مفتہ بان لانبی بعدہ

(جلالین شریف ص ۲۵۵)

الله تعالیٰ کے علم میں ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔

اُب اخیر میں گھر کے بھیدی کی بھی ایک شہادت فرمائی گئی۔ مولوی علی لاہوری [2]
اپنی مشہور معروف تالیف تفسیر بیان القرآن میں لکھتے ہیں۔

”انبیاء علیہم السلام ایک قوم ہیں اور کسی قوم کا خاتم یا خاتم ہونا صرف ایک ہی معنی رکھتا ہے یعنی ان میں سے آخری ہونا پس نبیوں کے خاتم کے معنی نبیوں کی مہر نہیں بلکہ آخری نبی ہیں یہاں ان سب احادیث کے نقل کرنے کی گنجائش نہیں جن میں خاتم النبیین کی تشریع کی گئی ہے یا جن میں آنحضرت ﷺ کے بعد نبی نہ آنپیان کیا گیا ہے اور یہ احادیث متواترہ ہیں جو صحابہ کی ایک بڑی جماعت سے مردی ہیں اور امت کا اس پر اجماع ہے کہ آنحضرت ﷺ کے بعد نبی نہیں۔

چند سطر بعد۔ اس قدر زبردست شہادت کے ہوتے ہوئے کسی مسلمان کا آنحضرت ﷺ کے آخری نبی ہونے سے انکار کرنا بینات اور اصول دینی سے انکار ہے۔“ (بیان القرآن جلد سوم ص ۱۵۱۵، ص ۱۵۱۶ تفسیری ص ۲۵۹)

منکرین ختم نبوت کے شکوک و شبہات:

ختم نبوت کے پرچار کرنے والے مختلف شکوک و شبہات سے ذہنوں کو ہموار کرتے ہیں ان میں دو شبے جو منکرین کے نزد یک نہایت اہم ہیں وہ پیش کئے جا رہے ہیں تاکہ ان کے شبہات کی حقیقت کھل جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ ان میں وزن کتنا ہے۔؟

[2] قادیانی جماعت کے نبی مرزا غلام احمد نے اپنی امت کے لئے مختلف تاثرات اپنی کتابوں میں چھوڑے ہیں یہی وجہ ہے کہ مرزا کے مرنے کے بعد اس کی امت تین فرقوں میں بٹ گئی ایک اروپی فرقہ، یہ فرقہ مرزا کو تشریعی (صاحب شرایعت) نبی مانتا ہے یہ فرقہ اسلام سے براہ راست تکرانے کی وجہ سے زندہ نہیں رہ سکا وہ سرار فرقہ جو اپنے آپ کو مرزا کا سچا کا جانشین کہتا اس کی قیادت مرزا کے صاحبزادہ کے ہاتھوں میں ہے یہ فرقہ مرزا کو غیر تشریعی نبی مانتا ہے۔ آج کل یہی فرقہ قادیانی جماعت سے موسم ہے تیسرا فرقہ لاہوری جماعت کے نام سے مشہور ہے اس کے سربراہ مولوی محمد علی لاہوری ہیں اس فرقہ کا موقف یہ ہے کہ مرزا مسیح موعود ہیں۔ نبی نہیں، مرزا نے کہیں بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا ہے جہاں کہیں نبوت وغیرہ کے الفاظ ملتے ہیں وہاں اصطلاحی معنی نہیں بلکہ مجاز و استعارہ اور صوفیان اصلاحات مراد ہیں، مولوی محمد علی نے قرآن شریف کی تفسیر پہلے انگریزی میں ترجمۃ القرآن کے نام سے مشہور ہے۔ تفسیر بیان القرآن سرید علی گذھی کے ذہن و فکر کی آئینہ دار ہے۔ ایسا معلوم ہوا ہے کہ تفسیر لکھتے وقت سرید کی روح مولوی محمد علی میں طول کر گئی تھی، مجزات اور خوارق تشریع و تفسیر اس طرح کی گئی ہے کہ جدید نظریات و ادکار قبول کر سکیں اور اس فہم کی تفسیر و تخریج کے لئے عرف و استعمال، زبان و محاورہ علماء سلف کی کاوشوں، سیاق و سبق سب کو نظر انداز کر دیا گیا۔

۔۔۔

ان کا سب سے اہم شبہ یہ ہے کہ حضور کو آخری نبی تسلیم کر لینے سے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آخری زمانہ میں نزول صحیح مانا جائے جو بالاتفاق نبی ہیں حالانکہ کثرت سے احادیث ہیں جن میں حضور ﷺ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی خبر دی ہے۔

اس شبہ کا اگر تفصیلی جواب دیا جائے تو مضمون بہت طویل ہو جائے گا اس لئے مختصر آچنڈ جوابات دیئے جا رہے ہیں۔
عقائد کی مشہور کتاب شرح عقائد نسخی میں ہے۔

”فَإِنْ قَلَّتْ قُدْرَةُ دُرُدٍ فِي الْحَدِيثِ نَزُولُ عِيسَى بَعْدَهُ، قُلْنَا نَعَمْ لَكَمْ يَتَابُعُ
مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَأَنْ شَرِيعَتَهُ قَدْ نَسْخَتْ فَلَا يَكُونُ إِلَيْهِ وَحْيٌ وَنَصْبٌ
الْحُكَمَ بَلْ يَكُونُ خَلِيفَةً رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ“ (شرح عقائد نسخی ص ۹۷)

اگر کہا جائے کہ حدیث میں آیا ہے کہ سرکار کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے (پھر سرکار کو آخری نبی کیسے مانا جائے) تو ہم کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ نازل تو ہونگے لیکن حضور ﷺ کے تابع ہونگے اس لئے کہ ان کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے تو نہ ان کی جانب وحی ہوگی نہ وہ احکام مقرر فرمائیں گے بلکہ حضور کے نائب ہوں گے۔

علامہ عبداللہ نسخی فرماتے ہیں۔

”فَإِنْ قَلَّتْ كِيفَ كَانَ آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ؟ وَعِيسَى يَنْزَلُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ
قَلَّتْ! مَعْنَى كَوْنِهِ آخِرَ الْأَنْبِيَاءِ أَنَّهُ لَا يَنْبَأُ أَحَدٌ بَعْدَهُ، وَعِيسَى مَمْنُونَ نَبِيٌّ
قَبْلَهُ وَحْيٌ يَنْزَلُ عَامِلًا عَلَى شَرِيعَةِ مُحَمَّدٍ مُصْلِيَا إِلَى قَبْلَتِهِ كَانَهُ
بعض امته“

(کناف ج ۲ ص ۲۶۵)

اگر تم کہو حضور آخری نبی کیسے ہو سکتے ہیں جب کہ اخیر زمانہ میں حضرت عیسیٰ کا نزول ہو گا؟ میں کہوں گا حضور کے آخری نبی ہونے کے معنی یہ ہیں کہ آپ کے بعد کسی کو نبوت نہ دی جائیگی اور حضرت عیسیٰ کو نبوت پہلے دیجا چکی ہے اور وہ جب نازل ہونگے تو شریعت مصطفویہ پر عامل ہوں گے اور رکعہ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھیں گے (بیت المقدس کی جانب نہیں) گویا کہ حضرت عیسیٰ سرکار کے بعض امتی ہیں۔

بعض حدیثوں میں یہاں تک ہے کہ وہ صرف حضور ﷺ کے تابع ہی نہیں ہوں گے بلکہ حضور کے امتی حضرت امام مهدی کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے۔

”قالَ كَيْفَ إِنْتَمْ أَذَانُنْزَلَ ابْنَ مَرِيمَ فِيكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ“
 سرکار نے فرمایا کیسے ہو گے تم جب تم میں ابن مریم اتریں گے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہو گا۔
 (بخاری شریف باب نزول عیسیٰ)

ابتدئے ایک سوال یہ رہ جاتا ہے جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ احکام مقرر فرمائیں گے نہ ان کی جانب وحی آئے گی تو پھر ان کے نبی ہو کر آنے کا مقصد کیا ہے یہ تو عملًا عہدہ نبوت سے معزول ہی ہے حالانکہ نبی نبوت سے معزول نہیں ہوتا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوں گے اس کے باوجود ان کی جانب وحی نہ آئے گی تاکہ حضور ﷺ کی عظمت و رفتادیاں الہ پر ظاہر ہو جائے کہ یہ وہ عظیم المرتب رسول ہیں جن کی اتباع کرنے میں حضرت عیسیٰ جیسے الاعززم نبی فخر محسوس کرتے ہیں۔

ان کا دوسرا شہر یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا ہے "قولوا خاتم النبیین ولا تقولوا لانبی بعدہ" خاتم النبیین کوہ مگر یہ نہ کہو کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں حضرت عائشہ کے اس فرمان سے صاف ظاہر ہے کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں بلکہ کچھ اور ہے اگر یہی معنی ہوتے تو حضرت عائشہ لانبی بعدہ کہنے سے کیوں روکتیں۔ حضرت عائشہ کا یہ فرمان ذر منثور، تکملہ، مجمع البخار اور تاویل الاحادیث میں ہے۔

اس شبے کے جواب میں میرے کچھ کہنے سے بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ باعثیں بازوہ (لاہوری جماعت) کے قائد و سربراہ مولوی محمد علی لاہوری نے جو کچھ کہا ہے اسے نقل کر دیا جائے۔

"ایک قول حضرت عائشہ کا پیش کیا جاتا ہے جس کی سند کوئی نہیں۔" قولوا خاتم النبیین ولا تقولوا لانبی بعدہ "خاتم النبیین کوہ اور یہ نہ کہو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور اس کا یہ مطلب لایا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے نزد یک خاتم النبیین کے معنی کچھ اور تھے کاش وہ معنی بھی کہیں مذکور ہوتے حضرت عائشہ کے اپنے قول میں ہوتے، کسی صحابی کے قول میں ہوتے، نبی کریم ﷺ کی حدیث میں ہوتے مگر وہ معنی دوبلن قائل ہیں اور اس قدر حدیثوں کی شہادت جن میں خاتم النبیین کے معنی لانبی بعدی کئے گئے ہیں ایک بے سند قول پر پس پشت پھٹکی جاتی ہیں۔ یہ غرض پرستی ہے خدا پرستی نہیں کہ رسول ﷺ کی تیس حدیثوں کی شہادت ایک بے سند قول کے سامنے رد کی جاتی ہے۔ اگر اس قول کو صحیح مانا جائے تو کیوں اس کے معنی یہ نہ کئے جائیں کہ حضرت عائشہ کا مطلب یہ تھا کہ

دونوں باتیں اکٹھی کہنے کی ضرورت نہیں۔ خاتم النبیین کافی ہے جیسا کہ مغیرہ بن شعبہ کا قول ہے کہ ایک شخص نے آپ کے سامنے کہا خاتم الانبیاء والا نبی بعدہ تو آپ نے کہا خاتم الانبیاء کہنا تجھے بس ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کا مطلب ہو کہ جب اصل الفاظ خاتم النبیین واضح ہیں تو وہی استعمال کرو یعنی الفاظ قرآنی کو الفاظ حدیث پر ترجیح دو اس سے یہ کہاں نکلا کہ آپ الفاظ حدیث کو صحیح نہ سمجھتی تھیں اور اتنی حدیثوں کے مقابل اگر ایک حدیث ہوتی تو وہ بھی قابل قبول نہ ہوتی چہ جائے کہ صحابی کا قول جو شرعاً جحت نہیں۔

(بيان القرآن ج ۳ ص ۱۵۱۶، ۱۵۱۷، ص ۱۵۱۸ تفسیری ص ۲۶۵۹)

منکرِین ختم نبوت کے متعلق شرعی احکام:

مسئلہ ختم نبوت دین کے اساسی اور بنیادی مسائل میں سے ہے اس لئے آئندہ شریعت نے صاف اور صریح لفظوں میں فرمادیا ہے کہ جو اس مسئلہ میں سواد اعظم کے خلاف ہو وہ خارج از اسلام اور کافر ہے۔

”اذا لم يعرف ان محمد ﷺ آخر الانبياء فليس بمسلم لانه من الضروريات“
(الاشاهد والظاهر مطبع مظہری ص ۱۳۸)

جو حضور ﷺ کو آخر نبی نہ جانے وہ مسلمان نہیں اس لئے کہ سرکار کو آخری نبی جاننا ضروریات دین میں سے ہے۔

عالمگیری میں ہے۔

”اذا لم يعرف الرجل ان محمد ﷺ آخر الانبياء عليهم وعلي نبينا السلام فليس بمسلم“
(العالمگیری ج ۲ ص ۲۸۲، مکتبہ رحیمہ)

جو شخص حضور ﷺ کو آخری نبی نہ جانے وہ مسلمان نہیں۔

علامہ سید محمد آلوی بغدادی فرماتے ہیں۔

”وَكُونَهُ خَاتِمُ النَّبِيِّينَ مَا نَطَقَ بِهِ الْكِتَابُ وَصَدُعَتْ بِهِ السَّنَةُ
وَاجْمَعَتْ عَلَيْهِ الْأَمَّةُ فَيُكَفَّرُ مَدْعُى خِلَافَهُ وَيُقْتَلُ أَنْ أَمْرٌ“

(روح المعانی ج ۷ ص ۶۵)

حضور ﷺ کا آخری نبی ہونا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ثابت ہے اور
امت کا اس پر اجماع ہے تو جو اس کے خلاف دعویٰ کرے اس کی تکفیر کی جائے گی
اور اصرار کرنے پر قتل کر دیا جائے گا۔

علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں۔

”وَقَدْ أَخْبَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّنَةِ
الْمُتَوَاتِرَةِ عَنْهُ أَنَّهُ لَأَنْبَى بَعْدَهُ، لِيَعْلَمُوا أَنَّ كُلَّ مَنْ ارْعَى هَذَا الْمَقَامَ فَهُوَ
كَذَابٌ أَفَاكٌ رَجَالٌ ضَالٌ مُضَلٌّ وَلُوْنَ حَرَقٍ وَشَعْبَدٌ وَاتَّى بِالْمُنَوَّعِ السُّحْرِ
وَالظَّلَاسِمِ وَالنَّيْرِ نَجِيَّاتٍ فَكُلُّهَا مَحَالٌ وَضَلَالٌ عِنْدَ أَوْلَى الْبَابِ“

(تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۳۹۳)

بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اور رسول ﷺ نے احادیث
متواترہ میں خبر دیدی کہ سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں تاکہ لوگ جان لیں کہ جو شخص
نبوت و رسالت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا مفتری دجال گمراہ اور گمراہ گر ہے اگرچہ اس
سے خرق عادت ہو اور وہ شعبدے دکھائے اور طرح طرح کے جادو طلسمات اور
نیز نگیاں پیش کرے عقلمند جانتے ہیں کہ یہ سب وہ کہاں اور فریب ہے۔

علامہ تور پشتی فرماتے ہیں۔

”وَآئَ كُسْ كَهْ كُويْدَ كَهْ بَعْدَ زَوْيَهْ نَبِيْ دِيْغَرَ بُودَ باهْسَتَ يَا خَوَاهِدَ بُودَ

وَآئَ كُسْ كَهْ كُويْدَ كَهْ اِمْكَانَ دَارَوَ كَهْ باشَدَ كَافَرَاستَ“

(المعتمد في المعتقد بحواله البشير القاري بشرح صحيح البخاري ص ۲۲)

سخت اذیت ہوتی ہے جب یہ سوچتا ہوں کہ ایسا فرقہ جو قرآن و سنت، آثار صحابہ تو اس لف اور پوری امت کے خلاف موقف لیکر اٹھا ہونہ صرف جی رہا ہے بلکہ اپنی بھر پور تو انائی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے پھر یوں تسلی ہوتی ہے کہ ایسا ہونا ناگزیر اور لا بدی ہے۔ سرکار نے پیشین گولی فرمائی ہے۔

”لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَبْعَثَ دِجَالَوْنَ كَذَابَوْنَ قَرِيبًا مِّنْ ثَلَاثِينَ كَلْمَهٍ
بِرَّ عَمَّ اَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ“
(بخاری شریف)

قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ میں ایسے دجال کذاب نہ پیدا ہوں گے جو سب کے سب اپنے کو اللہ کا رسول سمجھیں گے۔

حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی اس حدیث کی شرح فرماتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”وَلَيْسَ الْمَرَادُ بِالْحَدِيثِ مِنْ ادْعَى النَّبُوَةَ مُطْلَقاً فَإِنَّهُمْ لَا يَحْصُونَ كَثْرَةً
لِكُونِ غَالِبِهِمْ نِيَّشَانَهُمْ ذَلِكُ عنْ جُنُونٍ وَسُورَاءِ وَأَنَّمَا الْمَرَادُ مِنْ قَامَتْ
لَهُ شُوكَةً“
(فتح الباری ج ۶ ص ۳۵۵)

اس حدیث سے ہر قسم کے مدعاں نبوت کی تعداد بتانا مقصود نہیں اس لئے کہ مدعاں نبوت کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ شمار نہیں کیا جاسکتا یہ مرض (دعویٰ نبوت) علی العموم جنوں اور سودار سے پیدا ہوتا ہے بلکہ مقصود ان دجالوں کی تعداد بیان کرتا ہے جن کی شوکت قائم ہو جائے یعنی ماننے والے کثرت سے ہو جائیں یہ حقیقت ہے کہ جب تک جنون نہ ہو اس وقت تک سر میں دعویٰ نبوت، سودا پیدا نہیں ہوتا خود مرزا غلام احمد قادریانی کو دیکھئے، قادریانی جماعت کا رسالہ ریویو لکھتا ہے۔

”مراق کا مرض حضرت مرزا صاحب کو موروثی نہ تھا بلکہ یہ خارجی اثرات کے ماتحت پیدا ہوا تھا، اور اس کا باعث سخت دماغی محنت، تکفرات غم اور سوءِ هضم تھا

جس کا نتیجہ دماغی ضعف تھا اور جس کا اظہار مراق اور دیگر ضعف کی علامات مثلاً دوران سر کے ذریعہ ہوتا تھا۔ (رسالہ بیوقادیان ص ۱۰۲۶، بحوالہ قادیانی مذہب پیغمبر ایوب شن)

اور مراق کیا مرض ہے یا اطباء کی زبانی سمجھے۔

”مالیخولیا کی ایک قسم ہے جس کو مراق کہتے ہیں یہ مرض تیز سودا سے جو معدہ میں جمع ہوتا ہے پیدا ہوتا ہے۔“ (شرح الاسباب والعلامات امراض راس بحوالہ قادیانی مذہب ص ۱۰۵)

اور اس مرض کے آثار و نتائج کیا ہوتے ہیں ملاحظہ فرمائیے۔

”مریض کے اکثر ادھام اس کام سے متعلق ہوتے ہیں جس میں مریض زمان صحت میں مشغول رہا ہو مثلاً۔ مریض صاحب علم ہوتا پیغمبری اور معجزات و کرامات کا دعویٰ کرتا ہے خدائی کی باتیں کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تبلیغ کرتا ہے۔“

(اکسپر اعظم جلد اول ص ۱۸۸ بحوالہ قادیانی مذہب ص ۱۰۸)

پھر کیا ایسا شخص اپنے دعویٰ نبوت میں سچا ہو سکتا ہے اور اس کی باتیں لاائق اعتنا ہو سکتی ہیں اس کا فیصلہ خود ایک قادیانی کے قلم سے ملاحظہ کیجئے۔

”ایک مدعاً الہام کے متعلق اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس کو هشیرا، مالیخولیا یا مرگی کا مرض تھا تو اس کے دعویٰ کی تردید کے لئے کسی اور ضرب کی ضرورت نہیں رہتی کیونکہ یہ ایک ایسی چوٹ ہے جو اس کی صداقت کی عمارت کو نجخ و بن سے اکھاڑ دیتی ہے۔“

مضمون ڈاکٹر شاہنواز صاحب قادیانی

بحوالہ قادیانی مذہب ص ۱۰۸ ، ص ۱۰۹

مولفہ پروفیسر الیاس برلنی مرحوم

(مولانا محمد ایوب صاحب مظہر پور نوری)

﴿حیات النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم﴾

اللہ کی سرتا بقدم شان ہیں یہ ان سائیں انسان وہ انسان ہیں یہ
قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے مری جان ہیں یہ
خالق کائنات نے تخلیق انسانی کا سلسلہ شروع فرمایا جہاں انسانوں پر اور
ہیشمار انعام و اکرام فرمائے ہیں ویس ان کی ہدایت و رہنمائی کے لئے انہیں میں
سے اپنے مخصوص بندوں کو منتخب فرمایا کہ ارشاد و ہدایت اور تبلیغ رسالت پر مأمور فرمایا
اور ان میں سے بعض نفوس قدیسہ کو منتخب فرمایا کہ انہیں اپنی جانب سے آسمانی
کتابیں اور صحیفے دیکر ان کی افضلیت و برتری کا اعلان فرمایا۔

جمہور علماء و فقہاء کی اصطلاح میں پیغام خداوندی کو بندوں تک پہنچانے اور
انہیں را حق کی طرف بلانے والی مقدس جماعت کے ان عالی مرتبت نفوس قدیسہ
کو جو شیعہ کتاب اور شیعیت کے ساتھ مہمتوث فرمائے گئے۔ ”رسول“ کہا جاتا
ہے۔ اور وہ گرامی مرتبت بستیاں جنہیں اللہ تعالیٰ نے وہی سے سرفراز فرمایا کہ اپنے
احکام و پیغام بندوں تک پہنچانے کے لئے انسانوں ہی میں سے منتخب فرمایا لیکن
انہیں جدید شریعت اور کتاب نہیں ملی ”نبی“ کہتے ہیں۔

خلافت عالم نے انبیاء و رسول علیہم السلام و نسلیم کی اس نورانی جماعت کو
مبعوث فرمانے سے پہلے ہی گروہ ملائکہ میں ”انی جاعل فی الارض خلیفہ“
ارشاد فرمایا کہ اس مقدس جماعت کو اپنی خلافت و نیابت کے لئے منتخب کر کے گروہ
ملائکہ پر بھی ان کی فوقيت و برتری کا اعلان فرمادیا تھا۔

پھر انہیں مبعوث فرمانے کے بعد ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ
بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ فرمایا کہ تمام دنیا والوں پر واضح فرمادیا کہ باذن اللہ وہ تمہارے حاکم
و مطاع اور تم ان کے حکوم و مطیع ہو۔

پھر ان میں بعض کو بعض پر فضیلت دی اور نبی آخر الزماں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم
کو ﴿وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ﴾ فرمایا کہ رب سے افضل و اعلیٰ ہنا یا۔ اور آپ
کے فرقہ اقدس پر "لُولَاكَ لَهَا" کا تاج عزت رکھ کر باعث ایجاد عالم قرار
دیا۔ کیا ہی خوب فرمایا ہے استاد زمُن مولانا حسن بریلوی علیہ الرحمہ نے۔

نہ کیوں کر تاخدا آرائیں دنیا کے سامان میں
تمہیں دو لھا بنا کر بھیجنا تھا بزمِ امکاں میں
اور حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے تو یہ فرمایا کہ۔

تو اصل وجود آمدی از نخت
دگر ہرچہ موجود شد فرع ثبت

حدیث لولاک بنا گئ ذہل یا اعلان کر رہی ہے کہ حشر و نشر بھی آپ ہی کے
کرم کا صدقہ ہے کیونکہ اگر دنیا نہ ہوتی تو آخرت بھی نہ ہوتی اگر خیر و نشر نہ ہوتے تو
ان کی جزا و سزا کا سوال ہی کیا تھا؟ اور جب حدیث لولاک کے مطابق دنیا
آپ ہی کے لئے پیدا فرمائی گئی تو صاف ظاہر ہے کہ آخرت بھی آپ ہی کے لئے
ہے چنانچہ احادیث شفاعت گواہ ہیں کہ میدان حشر میں بھی آپ ہی کے عزت و
وقار کا ذکر نکانج رہا ہو گا۔

استاد زمین مولانا حسن بریلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔

فقط اتنا سبب ہے انعقادِ بزمِ محشر کا

کہ ان کی شانِ محبوی دکھائی جانے والی ہے

﴿وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ ارشاد فرمادہ خالق عالم

جل وعلا نے اطاعت رسول کو اپنی ہی اطاعت قرار دیکر تمام مخلوق پر ان کی فضیلت و برتری کا کھلے بندوں اعلان فرمادیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ دوسرا لفظوں میں، اطاعت رسول کو ہی سب پر واجب اور ضروری قرار دیکر انہیں سب کا حاکم و مطاع قرار دیا ہے اور ﴿وَمَا يُنْطَقُ عَنِ الْهُوَ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ فرمادیا کہ وہاں رسول سے نکلے ہوئے کلمات وہی ربی کے ترجمان ہوا کرتے ہیں۔

مرزا غالب نے کیا خوب کہا ہے۔

حق جلوہ گر ز طرز بیان محمد ست ﷺ

آرے کلام حق بزبان محمد ست ﷺ

آپ کے مرتبے کی وضاحت فرماتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے۔

﴿النَّبِيُّ أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ﴾

نجی ایمان والوں کی جان سے بھی زیادہ ان کے مالک ہیں۔

دوسرا مقام پر تو۔

﴿مَا أَنَا كُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهِكُمْ عَنْهُ فَأَنْتُهُوا﴾

رسول معظم تمہیں جس چیز کا بھی حکم دیں اس پر کار بند ہو جاؤ اور جس چیز سے بھی منع فرمادیں اس سے بازاً آ جاؤ۔

فرما کر ان کے فرقی اقدس پر حکومت مطلقہ کا تاج شرف رکھ کر دنیا والوں کو صاف صاف سنادیا کہ رسول ﷺ جس طرح تمہاری جانوں اور مالوں کے مالک ہیں ایسے ہی وہ مختار شریعت بھی ہیں۔ چنانچہ ان کا ہر ہر حکم خواہ امر ہو یا نبی قانون شریعت ہے۔

حدیث قدسی میں ان کی محبوبیت کبریٰ کا بیان اس طرح فرمایا جاتا ہے۔
”کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد ﷺ“ یعنی

خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم
خدا چاہتا ہے رضائے محمد ﷺ
جبھی تو محبوب کی باتیں بھی ایسی محبوب ہیں کہ ﴿فُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ فرما
کر زبان محبوب سے اپنی وحدانیت کا اعلان کرایا جا رہا ہے اور ان کی رسالت کا
اعلان اس طرح فرمایا جاتا ہے کہ محمد رسول اللہ گویا۔

قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے ترے سنی
اتنی ہے گنگتو تری اللہ کو پند
اسی پر بس نہیں بلکہ اپنے ذکر کے ساتھ ذکر محبوب کو کچھ اس طرح مربوط
فرمایا ہے کہ میساختہ کہنا پڑتا ہے کہ۔

تکبیر میں ، خطبوں میں ، نمازوں میں ، اذان میں
ہے نام الہی سے ملا نام۔ محمد ﷺ
اذان تو اذان ، خطبہ تو خطبہ ، تکبیر تو تکبیر ، نماز کو بھی ذکر محبوب سے خالی نہ رکھا
گیا بلکہ ذکر محبوب کو عین نماز میں جو غالص خدا کی بندگی اور اس کی عبادت ہے اس

میں بھی واجب اور ضروری قرار دے دیا کہ بغیر نبی معظم کی بارگاہ میں سلام پیش کئے ہوئے اور وحدانیت الہی کی شہادت کے ساتھ ہی ساتھ بغیر رسول مکرم کی رسالت و عبدیت کی شہادت دیئے ہوئے نماز ہرگز مکمل نہیں ہو سکتی۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں۔

ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو تجدیو !
والله ! ذکر حق نہیں ، کنجھی ستر کی ہے
اسی پر بس نہیں بلکہ اپنی محبت کے دعویداروں اور خواستگاروں کے لئے فرمایا
جاتا ہے کہ۔

﴿قُلْ إِنَّكُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبِّكُمُ اللَّهُ أَكْبَرُ﴾
(اے محبوب! اللہ کی محبت کے دعویداروں اور خواستگاروں سے) فرمادو کہ
میری اتباع کرو تو اللہ نہیں اپنا محبوب بنائے گا۔
اور خود سرور کو نہیں ﷺ ارشاد فرماتے ہیں۔
”لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالدِّهِ وَوَلِيْهِ وَالنَّاسُ أَجْمَعُينَ“
تم میں سے کسی کا ایمان کا مل نہیں ہو سکتا تو قتنیکہ اس کے دل میں میری محبت
اس کے والدین واولاد اور سب لوگوں سے زیادہ تھے۔
چ ہے کہ۔

محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے
اسی میں ہو اگر خامی۔ تو سب کچھ نامکمل ہے
رب العالمین نے ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ فرمائے

ان کی محبت کے اصل ایمان ہونے کے اسباب عمل بھی بیان فرمادیئے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب کو ہر عالم کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے وہ عالم دنیا میں بھی تمہارے کام آنے والے ہیں، عالم برزخ میں بھی ہر جگہ تمہارے کام آنے والے ہیں۔ صرف تمہارے لئے ہی نہیں بلکہ فرشتگان الہی، جن دلنس، بحر و برب، خشک و تر غرضیکہ خلوقات کی تینوں قسموں حیوانات، نباتات اور جمادات سب کے لئے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ جو قبر میں بھی کام آئیں گے اور حشر و شر میں بھی دشگیری فرمائیں گے ان کی محبت کیوں نہ جان ایمان اقرار پائے؟ ان کی محبت کو سوا قلب کی وہ جگہ کیوں نہ ملے جہاں دنیا کی کسی شی کا بھی ذکر نہ ہو۔

وہ تو خود ارشاد فرماتے ہیں۔ ”انما انا قاسم والله يعطي“ جو نعمت بھی ہو جب ملتی ہے، جسے ملتی ہے اور جتنی ملتی ہے دیتا تو اللہ ہی ہے مگر باعثتا میں ہوں، ہر چیز اسی کی ہے لیکن تقسیم میرے ہاتھوں سے ہوتی ہے گویا خالق نعم وہ ہے اور مالک نعم میں ہوں۔

مرزا غالب نے کیا خوب کہا ہے کہ۔

تیر قضا ہر آئینہ در ترکش حق است
لیکن کشاد آس بزبان محمد است

اس خدا داد قدرت واختیار پر اہل ایمان کیوں نہ مر میں، کیوں نہ ایسے نبی
محترم کی محبت کو سرمایہ، حیات بنائیں جو مالک نعم الہی ہیں۔

میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب
یعنی محبوب و محبت میں نہیں میرا تیرا

وہ وصول الی اللہ کا وسیلہ و ذریعہ ہیں، وہ بارگاہ خداوندی تک پہنچنے کا دروازہ ہیں، جو دنیا و آخرت ہر جگہ کام آنے والے ہیں۔ جو دنیا میں بھی ہمارے شفعت ہیں اور آخرت میں بھی شفاعت کبریٰ سے سرفراز ہوں گے پھر پروردگار عالم نے ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَآؤُكَ فَاسْتَغْفِرُوهُ اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوْجَدُوا اللَّهَ تَوَابًا رَّحِيمًا﴾ فرمادی کہ فرمادی ہے کہ

بخدا خدا کا بھی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقفر جو وہاں سے ہو بھی آکے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں انہیں تو ان کے پروردگار نے جتنی ساری خوبیاں کسی بندے میں ہو سکتی تھیں سب عطا فرمادیں، اتنی نعمتیں عطا فرمائیں جن کا ہم تصویر نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ! کیا خوب فرمایا ہے۔ امام اہل سنت نے کہ۔

تیرے تو وصف عیب تنا ہی سے ہیں بری حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حق تو یہ ہے کہ ان کے پروردگار نے کوئی نعمت بھی ایسی نہ چھوڑی جو انہیں عطا نہ فرمادی ہو۔

شیخ محقق مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ والرضوان مد ارج المجدۃ میں فرماتے ہیں۔

ع ہر نعمتیکہ داشت خداشد برو تمام

بارگاہ رسالت کے فیض یافتہ اور درباری شاعر حضرت سیدنا حسٹان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں نغمہ سرا ہیں۔

واجمل منک لم ترقط عینی و اکمل منک لم تلد النساء
 خلقت مبرء من کل عیب کانک قد خلقت کماتشاء،
 یا حبیب اللہ! آپ سے زیادہ حسن و جمال والا میری آنکھوں نے کبھی نہیں
 دیکھا (دیکھیں بھی تو کیسے جبکہ حضرت جبریل امین علیہ السلام شاہد ہیں کہ) آپ
 جیسا فضل و مکمال والا کسی عورت کے لطفن سے پیدا ہی نہیں ہوا۔ آپ تو تمام عیوب و
 نقائص سے صاف سترے کر کے پیدا فرمائے گئے ہیں۔ گویا آپ کی تخلیق آپ
 کی عین مٹشائے مطابق ہوئی ہے۔
 امام اہل سنت فرماتے ہیں۔

وہ کمال صن حضور ہے کہ گمان نقشِ جہاں نہیں
 یہی پھول خار سے ڈور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں
 اور فارسی کے مشہور و معروف شاعر نظیری نے تو صاف صاف کہہ دیا کہ۔

بحسِنِ تو نقاش نقشِ نیارہ
 کہ صنعتِ گری ختم شد برکمالت

حق تو یہ ہے کہ آپ کے اوصافِ کمال کے بیان سے زبان و قلم عاجز ہیں۔
 ہر و اصف نے اپنی بساطِ علمی کے مطابق فضل و مکمال کے گن گائے لیکن آخر میں
 اعتراض عجز کرتے ہوئے کسی نے یہ کہا کہ۔

غالب شانے خوبجہ بہ بیزاداں گذشتیم
 کان ذات پاک مرتبہ داں محمد است

اور کسی نے یوں کہا کہ۔

اے رضا خود صاحب قرآن ہے ماح حضور
تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی
کہاں تک کسی سے آپ کے فضائل و مکال کا بیان ہو سکے جب کہ آپ کی
عظمت خدا داد کا یہ عالم ہے کہ علامہ بوصیری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔

دُعَ ما أَدَّى النَّصَارَىٰ فِي نَبِيِّهِمْ وَاحْكَمْ بِمَا شَتَّتَ مَدْحَافِيهِ وَاحْكُمْ

شیخ محقق مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ مدارج المنوۃ میں
اور بھی واضح الفاظ میں یوں فرمایا کہ۔

مخواں اور اخدا ، از بہر حفظ شرع و پاس دیں
وگر ہر وصف کش میخواہی اندر مدحش اماکن
عاشقوں کی سرستی کا تو یہ عالم ہے کہ عالم کیف و مسٹی میں بالکل کھٹے
لفظوں میں یہ اعلان کردیتے ہیں کہ۔

خدا گر نا ہوتا جو تخت مشیت
خدا ہو کے آتا وہ بندہ خدا کا

یہ تو ان کی اتباع و محبت کا ثابت پہلو تھا کہ ”ان کی اتباع و فرمانبرداری کو
مقصد حیات بنا لوجس خدا کے محبوب بندے ہو جاؤ گے۔“ اور حضور کا ارشاد اگر را
کہ ”جب تک تمہارے دلوں میں میری محبت تمہارے سبھی متعلقین سے بڑھ چڑھ
کرن ہو گی تم کامل الایمان نہیں ہو سکتے۔“

نیز ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ

﴿وَمَنْ يَطِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَدْخُلُهُ جَنَّةً تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اسے ایسے باغات میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے اور یہی بڑی کامیابی ہے۔

ان تمام باتوں سے صاف واضح ہوتا ہے کہ تمہارے ایمان کا کمال عشق و محبت رسول میں مضر ہے۔ حب رسول کی نورانی شمع تمہاری خانہ دل میں روشن کرو اور اس کی لو تیز کرتے جاؤ، پھر اپنی جیتنی جاگتی آنکھوں سے کمال ایمان کے جلوسوں کا نظارہ کرو گے۔

اب آئیے! ذرا منفی پہلو پر بھی نظر ڈالتے چلیں۔ ارشاد ربانی ہے۔

﴿فُلْ إِنْ كَانَ أَبَاءُكُمْ وَأَبْنَاءُكُمْ وَأَخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ بَاقِرَفَتُمُوهَا وَتَجَارَةً تَعْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضُونَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَصُوا حَتَّىٰ يَا تَيَ اللهِ بِأَمْرِهِ﴾

اے محبوب! فرمادو کہ اے لوگوں! تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیباں، تمہارا کنبہ، تمہاری کمائی کے مال اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ ہے اور تمہاری پسند کے مکان ان میں کوئی چیز بھی اگر تم کو اللہ اور اللہ کے رسول کی راہ میں کوشش کرنے سے زیادہ محبوب ہے تو انتظار کرو کہ اللہ اپنا عذاب اتارے۔

صاف ظاہر ہو گیا کہ جہاں حب رسول کے مقابل اعزاء و اقرباء اور مال و دولت وغیرہ کی محبت غالب نظر آئی رحمت خداوندی نے کس طرح رُخ موز اور عذاب کی وعیدتائی جانے لگی۔

اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز نے سچ فرمایا کہ۔

نہیں وہ بیٹھی نگاہ والا ، خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما
غضب سے ان کے خدا چائے، جلال باری عتاب میں ہے
اور یہ بھی حقیقت ہی ہے کہ۔

نگاہ پھیر لیں تو دو جہاں میں کچھ نہ رہے
انھا دیں آنکھ تو ہر شئی کو زندگی مل جائے

کیوں نہ ہو کہ جب رب کریم نے ”وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ“ فرمائے سلسلہ نبوت
ورسالت کو آپ ہی کی ذات مقدس پر ختم فرمادیا ہے اور آپ ہی کو نبی آخر الزمان
بنا کر مبعوث فرمایا ہے تو فضائل و کمالات کس پر ختم فرماتا؟ اب کون باقی تھا جسے
اپنے اوصاف کمالیہ کا آئینہ دار بناتا؟ اب کون رہ گیا تھا جسے اپنی ذات و صفات کا
منظہر اتم بنا کر اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرماتا؟

انہیں تو ان کے پروردگار نے اس کام کے لئے اسی وقت منتخب فرمایا تھا
جب زمین و آسمان ، زمان و مکان ، این و آن غرضیکہ کچھ بھی نہ تھا صرف ان کا
پروردگار تھا اور وہ تھے ، تیرسی کسی بھی شئی کا وجود نہ تھا ، انبیاء سالقین ایک سے
ایک بڑھ چڑھ کر فضل و کمال والے ہوتے چلے آئے تھے۔ اب جبکہ سردار جملہ
انبیاء تشریف لانے والے تھے نہیں بلکہ بصحواۃ بعثت الی الخلق کافہ۔

بیکمیں جن و انس اور جملہ ملکوت السموات والا رض ہی کے نہیں بلکہ جمعیت انبیاء، ورسل کے بھی رسول مبعوث فرمائے جانے والے تھے۔ سلسلہ نبوت و رسالت ختم ہونے والا تھا اور اب کسی نبی و رسول کی تشریف آوری کے امکان ہی کا دروازہ بند ہونے والا تھا ضرورت تھی کہ وہ ایسے فضل و کمال والے رسول بنا کر بیکمیں جو ممتنع انظیر ہوں۔ یہیں و مثیل ہوں نہ آپ کی نظیر آپ سے پہلے ربی ہوا اور نہ ہی آپ کی نظیر و مثیل آپ کے بعد ممکن ہو جتنے فضائل و کمالات آپ سے پہلے انبیاء، ورسل عظام اپنے ساتھ لانے تھے سب تو آپ میں موجود ہی ہوں اور پھر ان کے بعد اتنے فضائل و کمالات آپ کی ذاتِ عالی صفات میں موجود ہوں جن سے زیادہ کا تصور کسی بندے میں محال و ممتنع ہو۔

انہیں ہو کتاب دی جائے وہ بھی سب سے افضل و اعلیٰ اور بے مثال ہو۔
ورنہ انسانیت کی پیاس نہ بخست، اس کی طبیعت کو آسودگی نہ ہوتی، اس سے زیادہ کی
تفہمی باقی رہ جاتی اور پھر وہ اپنی اس حسرت کو دل بھی میں لئے سکتی رہ جاتی حق تو
یہ بھے کہ تدرست خداوندی کا کما حق ظہور ہی نہ ہوتا۔ چنانچہ خالق کائنات نے
اپنے محبوب کو جو کتاب عطا فرمائی وہ سابقہ تمام آسمانی کتب و صحائف سے افضل و
املی، جس دین کے ساتھ مبعوث فرمایا وہ سابقہ کبھی ادیان سے بالاتر جملہ ادیان
اور سب سے اکمل و اعلیٰ۔ اور خود محبوب کو بھی ان کی ذات و صفات میں ہر اعتبار
سے ایسا ہی بے مثل بے مثال بنایا جیسا کہ چاہیے تھا اور انہیں مبعوث فرمانے کے
حد صاف صاف احلاں فرمادیا کرے۔

هـ لِيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْتُمْ عَلَيْكُمْ بَعْدَىٰ وَرَضِيَتْ لَكُمْ

الإسلام والمسيح

(اے ایمان والو! تمہارے پاس قرآن جیسی بیمثال کتاب بھیج کر) تمہارے لئے تمہارا دین مکمل فرمادیا اور (رحمۃ للعالمین جیسا فخر رسول، شفیع المذنبین جیسا ہادی سبل، اپنے محبوب جیسا خاتم الانبیاء والرسل جسے میں نے اپنی ذات و صفات کا مظہر ہاتم بنایا ہے تمہارے اندر مبعوث فرمائکر) تم پر اپنی نعمت پوری فرمادی اور تمہارے لئے اسلام (جیسا بے مثل و بے مثال اور ناخجلمه ادیان) دین پسند فرمایا۔

اب دین کے مکمل ہو جانے، نعمت پوری ہو جانے اور حضور کی خاتمیت کے بعد کہاں گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ آپ کے نظیر اور مثالیں کے امکان کا تصور بھی ہو سکے۔ اس مشکل مسئلہ کو مرزاعاً غالب نے جتنے عمدہ پیرائے میں حل فرمایا ہے یہ انہیں کا حصہ ہے وہ لکھتے ہیں۔

اے کہ ختم المرسلینش خواندہ دائم از وے یقینیش خواندہ
ایں الفلامے کے استغراق راست حکم ناطق مفتی اطلاق راست
نشاء ایجاد ہر عالم یکے ست گرو صد عالم بود خاتم یکے ست
منفرد اندر کمال ذاتی است لا جرم ملکش "محال ذاتی" ست
وہ رسول معظم جن کی محبت و رسالت کا آفتاب آسمان و رسالت پر تاقیامت
تباہ و درخشاں رہنے والا ہے اور رہتی دنیا تک رسالت کے اس نورانی آفتاب کو
نه تو زوال ہے نہ ہی اس میں گھن کا اندر یہش ہے بلکہ ارشاد ربیانی ﴿وَلَلْأُخْرَةُ
خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى﴾ کے بوجب اس کی نورانی شعاعیں ہر آنے والی
ساعت میں تیزتر ہوتی جائیں گی وہ نبی مکرم جو صحابہ و تابعین ہی کے نہیں بلکہ

رہتی دنیا تک کے لئے سب کے رسول بن کر تشریف لائے ضروری تھا کہ وہ اپنی ساری امت کے احوال و افعال، کردار و اعمال اور نیات و خطرات سے باخبر ہوں۔ اپنی نورانی کرنوں سے قلوب الٰم کو منور و مستفیض بھی فرماتے رہیں اور جملہ عالم کے لئے رحمت عامہ ہونے کے باعث ان پر اپنی رحمتیں نچاہوں بھی کرتے رہیں اور یہ سب کچھ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ وہ حیات حقیقی جسمانی کے ساتھ زندہ حیات بھی ہوں۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے ظاہری نگاہوں سے رد پوش ہو جائیں لیکن یہ بات ایسے عظیم و جلیل اور بین الاقوامی رسول کی ہمہ گیر رسالت و نبوت کے قطعی منافی تھی کہ وہ ہم سے ہمیشہ کے لئے جدا ہو جائیں۔ اور بقول اعداء لعین ”مر کر مٹی میں مل جائیں۔“ معاذ اللہ، ان کا ہماری ظاہر بین نگاہوں سے پوشیدہ ہو جانا ہرگز اس بات کی دلیل نہیں کہ (معاذ اللہ) وہ مر کر مٹی میں مل گئے۔

کیا آپ دیکھتے نہیں کہ جن و ملک زندہ ہیں، موجود ہیں مگر ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہیں۔ کون مسلمان نہیں جانتا کہ حضرات خضر و الیاس علیہما السلام حیات و دنیاوی جسمانی کے ساتھ زندہ ہیں لیکن عوام الناس میں سے کوئی توبتاے کہ اس نے کبھی ان دونوں حضرات یا ان میں سے کسی ایک ہی صاحب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور دیکھا تو پہنچانا بھی ہے۔ معلوم ہوا کہ حیات جسمانی کے ساتھ موجود ہونے کے لئے سب لوگوں کا نہیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا ضروری نہیں۔

لہذا آپ سُنئے انسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، مسند امام احمد اور مشفکوہ شریف وغیرہ کی احادیث شاہد ہیں کہ جب سرکار رسالت مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے جمع ہے روز درود وسلام کی کثرت کرنے کے متعلق فرمایا تو بعض حضرات نے عرض کیا کہ

یا حبیب اللہ! بھی تو آپ ہمارا درود وسلام سنتے ہیں لیکن بعد وصال کیسے نہیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا۔

”ان اللہ حرم علی الارض ان تأكل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق“
اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام فرمادیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے لہذا اللہ کا ہر نبی زندہ ہے اور انہیں روزی ملتی ہے۔
حضرت شیخ محقق مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ والرضوان اسی موقع پر اشعة اللمعات شرح مشکلاۃ جلد اول میں فرماتے ہیں کہ

حیات انبیاء متفق علیہ است یعنی کس را دروے خلاف نیست حیات جسمانی دنیاوی حقیقی نہ حیات روحانی معنوی چنانکہ شہدار است

حیات انبیاء کرام علیہم السلام پر سب کا اتفاق ہے اس میں کسی کا کوئی اختلاف ہی نہیں کہ ان کی زندگی حیات جسمانی دنیاوی حقیقی کے ساتھ ہے شہدائے کرام کی طرح ان کی حیات روحانی معنوی نہیں۔

حضرت علامہ یوسف نبہانی علیہ الرحمۃ والرضوان اپنے رسالہ فضائل محمدیہ میں اسی سلسلے میں بحث فرماتے ہوئے ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ

”قال الامام السیوطی فی آخره محصل من مجموع هذا النقول
والاحادیث ان النبی ﷺ حی بحسدہ وروحہ وانه يتصرف ويسیر
حيث شاء فی اقطار الارض فی الملکوت وهو بهیته التي كان عليها
قبل وفاة لم يتبدل منه شئ وانه مغیب عن الابصار كما غیبت الملائكة
مع کونهم احیاء باجساد هم فاذا اراد اللہ رفع الحجاب عنمن اراد
اکرامہ برویته راه علی هیته التي هو علیها الامانع من ذالک“

امام سیوطی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب (اباء الاذکیاء فی حیة الانبیاء) کے آخر میں لکھا ہے کہ ان تمام نقول و احادیث کا نخوٹ یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جسم و روح دونوں کے ساتھ زندہ ہیں۔ دنیا بھر میں جہاں اور جیسے چاہتے ہیں تصرف فرماتے اور تشریف لے جاتے ہیں ادا آپ اپنی اسی شکل و صورت پر ہیں جو قبل وفات تھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی البتہ حضور ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں جیسا کہ فرشتے اپنے جسموں کے ساتھ زندہ ہونے کے باوجود پوشیدہ ہیں اللہ اجل اللہ تعالیٰ کسی کو حضور کے دیدار سے مشرف فرمانے کے ارادے سے پرده اٹھادیتا ہے تو وہ حضور کو سابقہ بیت پر دیکھتا ہے۔ اس سے کوئی چیز بھی روکنے والی نہیں ہوتی۔

فقہ کی مشہور و معروف کتاب مراثی الفلاح شرح نور الایضاح میں مزید توضیح کے ساتھ صاحب کتاب حضرت شیخ حسن بن عمار شربلی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔

”ومما هو مقرر عند المحققين انه صلی اللہ علیہ وسلم حی یرزق متمتع بجمعیع الملاذ والعبادات غير انه مجب عن ابصار القاصرين عن شریف المقامات“

یہ بات محققین علماء کے نزدیک پایۂ ثبوت کو پہنچی ہوئی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم (حقیقی جسمانی زندگی کے ساتھ) زندہ ہیں، ان کے حضور روزی پیش ہوتی ہے سمجھی لذت والی چیزوں کا مزہ اور عبادتوں کا سرور پاتے ہیں لیکن بلند درجات تک جن کی رسائی نہیں ہے ان کی نگاہوں سے آپ او جھل ہیں۔

اب اس سلسلے میں سیدنا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بالکل صاف اور واضح فیصلہ کر کے مضمون ختم کرتا ہوں۔ اگر تعصب و نگ نظری

سے کنارہ کشی کرتے ہوئے چشم بصیرت سے اس فیصلے کو پڑھا جائے تو انشاء اللہ تعالیٰ اس مسئلے کے تمام اعتراضات پادر ہوا نظر آئیں گے اور حق و انصاف واضح ہو کر سامنے آجائے گا۔

امام اہل سنت اس مشکل مسئلے کو بالکل سادہ اور عام فہم طریقے پر حل فرماتے ہوئے لکھتے ہیں۔

انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر انکی کہ فقط آنی ہے
پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے
روح توسیب کی ہے زندہ ان کا جسم پر نور بھی روحاںی ہے
اور وہ کی روح ہوتی ہی لطیف ان کے اجسام کی کب ثانی ہے
پاؤں جس خاک پر رکھدیں وہ بھی روح ہے پاک ہے نورانی ہے
اس کی ازواج کو جائز ہے نکاح اس کا ترک بننے جو فانی ہے

یہ ہیں جی ابدی ان کو رضا
صدق و عده کی قضا مانی ہے

(مولانا محمد قدرت اللہ صاحب رضوی بسوی)



﴿مسئلہ امتناع نظیر﴾

ایک مدت سے جن مسائل و معتقدات کی بنیاد پر الگ الگ مکاتب فلکر قائم ہیں انہیں مسائل و معتقدات میں ایک مسئلہ "سرکار کی نظیر و مثالی" کا بھی ہے، یہ مسئلہ کوئی اتنا بھم اور نظری نہیں تھا کہ اس کے لئے الگ الگ محااذ بنائے جاتے اور ایک دوسرے کو بحث و مناظرہ کی دعوت دی جاتی مگر صدی بینے کو ہے اور آج بھی یہ مسئلہ فلکری جوانیوں اور ڈھینگا مشتیوں کا اکھاڑہ بنتا ہوا ہے۔ بار بار کے حق واضح ہو جانے کے باوجود آج بھی کچھ لوگ گلی گلی یہ صد الگاتے پھرتے ہیں کہ "سرکار کی نظیر ممکن ہے اور خدا چاہے تو محمد جیسے سینکڑوں محمد پیدا فرماسکتا ہے۔" یہ وہی لوگ ہیں جو تقویۃ الایمانی عبارتوں کو دل و دماغ سے ہم آہنگ کرنے کے لئے آئے دن چولا بدلتے رہتے ہیں اس لئے نہیں کہ وہ تقویۃ الایمان کی عبارت و مسائل کے نفاق سے واقف نہیں، وہ واقف ہیں اور اچھی طرح واقف ہیں پھر بھی ان عبارتوں کی حمایت و دکالت کا جھنڈا اس لئے اٹھائے پھرتے ہیں تاکہ ان کے اسلاف کا وقار محفوظ رہے جو انہیں ایمان سے زیادہ عزیز ہے۔ وہ خوب سمجھتے ہیں کہ سرکار کی نظیر کے مسئلہ میں نظیر کے جو معنی مراد ہیں اس معنی کو کوئی ایسا وجود قطعاً ناممکن ہے جسے سرکار کی نظیر کے معنی پہنائے جا سکیں لیکن وہ اپنے میں اس کے اظہار و اعلان کی جرأت نہیں پاتے کیونکہ ان کے سامنے ان کے اسلاف کا وہ لھناؤنا کردار ہے جو انہوں نے ایمان و یقین کی قربانی دے کر ادا کیا ہے۔ اسی کردار کی لاج رکھنے کے لئے یہ لوگ تمام اسلامی برادری کے احسانات کو پاہال اور جذبات کو مجروح تو کر سکتے ہیں مگر یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کے اسلاف

کی ساکھ پر کسی قسم کی آنچ آجائے۔

یہی وجہ ہے کہ وہ امتناع نظیر کا مسئلہ جو قطعاً واضح اور بدینہی ہے آئے دن مجہم
اور نظری ہوتا جا رہا ہے اور یہ لوگ اپنی آبرو کی سلامتی کے لئے طرح طرح کے
شکوک و شبہات پیدا کرتے جا رہے ہیں۔ آئیے پہلے آپ نظیر کے معنی سمجھ لیں تا
کہ ارتیاب و تخلیک کے دھنڈکوں سے آپ کا ذہن حفاظتار ہے۔

اس متنازعہ فیہ مسئلہ میں نظیر کے معنی ہیں سرکار کے سوا ایک ایسا وجود جو تمام
اوصاف میں سرکار کا شریک و ملکیم ہو۔ مثلاً آپ نبی ہیں تو وہ بھی نبی ہو، آپ
رسول ہیں تو وہ بھی رسول ہو، آپ خاتم النبیین ہیں تو وہ بھی خاتم النبیین ہو، آپ
اول مخلوقات ہیں تو وہ بھی اول مخلوقات ہو، آپ اول شافع ہیں تو وہ بھی اول
شافع ہو، آپ افضل رسول تو وہ بھی افضل رسول ہو، آپ سید کوئین ہیں تو وہ بھی
سید کوئین ہو وغیرہ لک۔

نظیر کے معنی تشریح سے صاف ظاہر ہے کہ نظیر بایس معنی اسی وقت ممکن ہو سکتی
ہے جبکہ سرکار کے تمام اوصاف میں کم از کم دوئی ممکن ہو محال نہ ہو یعنی سرکار سرکار
ہر وصف ایسی کلی ضرور ہو جو نفس الامر میں شرکت کا احتیال رکھتے تاکہ اس کلی کے
افراد ممکنہ باہم ایک دوسرے کی نظیر ہو سکیں مثلاً سرکار کی ایک صفت ہے نبوت جو کلی
ہے اس کے ایک فرد حضور ہیں اور دوسرے افراد انہیاء سابقین ہیں اسی لئے ہر نبی
صفت نبوت میں دوسرے نبی کی نظیر ہیں۔

اور اگر بعض اوصاف ایسے ہوں جن میں دوئی قطعاً ممکن نہ ہو تو نظیر ممکن نہیں

بلکہ محال بالذات ہوگی۔ عالم اسلام کا کون ایسا شخص ہے جو نبیں جانتا کہ خاتم النبیین اول مخلوقات، اول شافع اول مشفع یہ وہ القاب و خطابات ہیں جو سرکار کی ذات سے مخصوص ہیں اور کوئی ہوشمند اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ وہ اوصاف ہیں جن میں دوئی قطعاً ممکن نہیں بلکہ محال بالذات ہے۔ اگر اس میں آپ کو کوئی شبہ ہو تو پہلے مناطقہ کی ایک بحث ذہن نشین کر لیں جو انہوں نے کلی اقسام کے سلسلہ میں کی ہے۔ علماء منطق نے کلی کی افراد کے وجود کے اعتبار سے چند قسمیں بیان کی ہیں۔

- 1: ایسی کلی جس کے سارے افراد محال بالذات ہوں، جیسے شریک باری
- 2: ایسی کلی جس کے سارے افراد ممکن ہوں مگر ایک فرد بھی پایا نہ جاتا ہو جیسے عنقاء۔
- 3: ایسی کلی جس کا ایک ہی فرد پایا جائے باقی اور افراد محال بالذات ہوں جیسے واجب الوجود۔
- 4: ایسی کلی جس کے سارے افراد ممکن ہوں مگر صرف ایک فرد پایا جائے جیسے سورج۔
- 5: ایسی کلی جس کے افراد کثیرہ موجود ہوں مگر متناہی ہوں جیسے سنی رسالہ
- 6: ایسی کلی جس کے افراد کثیرہ موجود ہوں اور غیر متناہی ہوں جیسے معلومات باری تعالیٰ۔

کلی کی ان تمام قسموں میں تیری قسم ایسی ہے جو ایک ہی فرد میں محصر

ہوتی ہے یعنی ایک فرد کے علاوہ اس کے تمام افراد محل بالذات ہوتے ہیں۔ خاتم النبیین وغیرہ کلی کی اسی تیسری قسم میں داخل ہیں یعنی ان کے ایک ہی فرد کا وجود ہو سکتا ہے اس میں دولیٰ کی قطعاً گنجائش نہیں ورنہ خاتم النبیین خاتم النبیین اور اول مخلوقات اول مخلوقات نہ رہے گا اور خاتم النبیین کا خاتم النبیین اول مخلوقات کا اول مخلوقات نہ ہونا محل بالذات ہے اس لئے ان اوصاف میں دولیٰ بھی محل بالذات ہوگی جب دولیٰ محل بالذات ہوگی تو ایک فرد کے علاوہ ان کے سارے افراد محل بالذات ہوں گے اور جب سارے افراد محل بالذات ہوں گے تو نظر بھی لا محلہ محل بالذات ہوگی۔

مزید وضاحت کے لئے یوں سمجھئے کہ اگر سرکار کے علاوہ کوئی دوسرا وجود سرکار کی نظیر تسلیم کر لیا جائے تو دو حال سے خالی نہیں وہ وجود خاتم النبیین ہو گایا نہیں اگر نہیں تو خاتم النبیین کا انحصار ایک فرد میں لازم آیا اور اگر وہ وجود خاتم النبیین ہو تو اس تقدیر پر حضور اقدس ﷺ خاتم النبیین ہوں گے یا نہیں۔ اگر نہیں تو پھر بھی خاتم النبیین کا انحصار ایک فرد میں لازم آیا اور اگر دونوں خاتم النبیین مانے جائیں تو دونوں ساتھ ساتھ ہوں گے یا کیے بعد دیگرے اگر ساتھ ساتھ ہوں تو چونکہ دونوں میں معیہ پائی گئی اس لئے دونوں میں سے کسی پر خاتم النبیین کا اطلاق درست نہ ہوگا۔ اور اگر کیے بعد دیگرے ہوں تو یہ دوسرا وجود سرکار کے بعد ہو گا یا پہلے اگر بعد کو ہو تو سرکار خاتم النبیین نہ ہوں گے اور اس کا انحصار ایک فرد میں لازم ہو گا اور اگر پہلے ہو تو یہ دوسرا وجود خاتم النبیین نہ ہو گا اور اس صورت میں بھی خاتم النبیین کا انحصار ایک فرد میں لازم ہو گا۔ اس تمام بحث کا حاصل یہ ہے کہ

خاتم النبیین کا صرف ایک ہی فرد پایا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے تمام افراد قطعاً غیر ممکن اور محال بالذات ہیں کیونکہ اگر حضور ﷺ کے علاوہ دوسرا خاتم النبیین مانا جائے تو اس کے عدم کو مستلزم ہو گا اور وہ تناقص امور کا مصدق ہو جائے گا یعنی وہ خاتم بھی ہو گا اور خاتم نہیں بھی ہو گا اور چونکہ تناقص امور کا مصدق محال بالذات ہے اس لئے حضور کی نظیر بھی محال بالذات ہو گی۔

بعنہ یہی دلیل اول تخلوقات، اول شافع، اول مشفع وغیرہ اوصاف میں بھی جاری ہے یعنی یہ اوصاف بھی خاتم النبیین کی طرح دوئی کے حامل نہیں اور ان اوصاف کی بھی نظیر ممتنع بالذات ہے۔

ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہو کہ جب خاتم النبیین کا ایک فرد ممکن ہے تو دوسرا فرد بھی ممکن ہونا چاہئے تو اس کے ازالہ کے لئے یہ سمجھ لینا ضروری نہیں کہ کسی کلی کا ایک فرد جیسا ہو اس کے دوسرے افراد بھی ویسے ہی ہوں واجب الوجود ایک کلی ہے جس کا ایک فرد ذات باری تعالیٰ واجب ہے لیکن اس کے دوسرے افراد واجب نہیں بلکہ ممتنع بالذات ہیں اسی طرح ارتقائِ امریں کا ایک فرد ارتقاء ضدین ممکن ہے لیکن دوسرا افراد ارتقاء نقیضین محال بالذات ہے یوں ہی اجتماعِ امریں کا ایک فرد اجتماعِ متوافقین ممکن ہی نہیں بلکہ واقع ہے لیکن دوسرا فرد یعنی اجتماعِ نقیضین محال بالذات ہے بعینہ اسی طرح خاتم النبیین اور دوسرے اوصاف مذکورہ کا حال ہے کہ ان کا ایک فرد تو ممکن ہے لیکن دوسرے افراد محال بالذات ہیں۔ اس وضاحت سے یہ شبہ بھی زائل ہو گیا کہ ”ہر ممکن کی نظیر

ممکن اور مقدور ہوتی ہے، اس لئے کہ ابھی آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ بہت سی ایسی کلی ہیں جن کا ایک فرد واجب واجب یا ممکن ہے مگر دوسرے افراد حال بالذات اور غیر مقدور ہیں۔

ہو سکتا ہے کوئی صاحب اپنے مخصوص لب ولہجہ میں آپ سے یہ فرمائیں کہ
جناب اللہ صاحب تو فرماتے ہیں۔

﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔


تو اللہ صاحب سرکار کی نظیر و مثیل پیدا کرنے پر کیوں نہ قادر ہوں گے؟ تو آپ ان کو بتائیں کہ عقیدہ کی تمام کتابوں میں یہ مصرح ہے کہ ممتعات اور واجبات باری تعالیٰ کے زیر قدرت نہیں صرف ممکنات زیر قدرت میں اس لئے کہ زیر قدرت جو امور ہوتے ہیں یا تو من جہة الایجاد ہوتے ہیں یا من جہة الاعدام اور ممتعات اگر من جہة الایجاد زیر قدرت مانے جائیں تو وہ ممتعات نہیں رہیں گے بلکہ ممکن ہو جائیں گے۔ اور اگر من جہة الاعدام مانے جائیں تو تحصیل حاصل لازم آئے گی۔ اور یہ دونوں حال ہیں۔ و بعکم یجری فی الواجب

علاوه ازیں اگر ممتعات تحت قدرت ہوں گے تو وہ حال سے خالی نہیں یا تو کل ممتعات تحت قدرت ہوں گے یا بعض ہوں گے اور بعض نہیں دوسری صورت میں ترجیح بلا مرتع لازم آئے گی جو باطل ہے اور پہلی صورت میں عدم واجب الوجود بھی تحت قدرت ہو گا اور جب واجب الوجود کا عدم تحت قدرت ہو گا

تو واجب الوجود کا عدم عدم تحت قدرت ہوگا تو واجب الوجود واجب الوجود نہیں رہے گا۔ جو بالکل محال بالذات ہے۔

یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھنی چاہئے کہ ممتعات اگر تحت قدرت داخل نہیں تو اس سے باری تعالیٰ کا عجز لازم نہیں آتا اور نہ قدرت کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے کیوں کہ ممتعات میں یہ صلاحیت ہی نہیں کہ وہ تحت قدرت داخل ہوں بلکہ قدرت کا کمال یہی ہے کہ تمام ممتعات دائرہ قدرت سے باہر ہوں جس طرح آپ خوبی کو دیکھ نہیں سکتے تو اس سے نہیں سمجھا جائے گا کہ آپ کی نگاہ کمزور ہے بلکہ یہی کہا جائے گا کہ خوبی میں صلاحیت ہی نہیں کہ وہ دیکھی جائے۔ اسی طرح اگر سرکار کی نظر و مثالی تحت قدرت نہ ہو تو اس سے قادر مطلق کا عجز ثابت نہ ہوگا بلکہ ہر ہوشمند یہی کہے گا کہ اس میں تحت قدرت ہونے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔

(مولانا خواجہ مظفر حسین صاحب پورنونی)



(صحابہ کرام کا جذبہ عشق رسول)

کائنات عالم میں عشق و محبت کی نہ جانے کتنی داستانیں بھری پڑی ہیں، تاریخ اپنی آغوش میں ہزاروں ارباب محبت کو سینئے ہوئے ہے شعبہ محبت میں عشق اُن کی ایک طویل فہرست نظر آئے گی مگر اس میں سے عاشقانِ مصطفیٰ کی محبت اپنے اندر ایک انفرادی شان، نمایاں حیثیت اور جدا گانہ انداز لئے ہوئے ہے۔ اصحاب رسول کی زندگی سے محبت کی صحیح تغیر ہوتی ہے۔ ان کی لا فانی محبت آج بھی تاریخ کے ذریں صفحات پر سہرے حروف میں ثابت ہے اور اس کی تابناک حقیقت کو غیر بھی سراتے ہیں۔ ان کی زندگی عشق رسول کا ایک ایسا مرقع ہے جس کے سامنے غیروں کی گرد نیں بھی عقیدتمندانہ انداز سے خم ہیں۔ صدیق اکبر ہوں یا فاروقِ اعظم، عثمان ذی النور ہوں یا علی مرتضی، عشرہ مبشرہ ہوں یا دیگر صحابہ ہر ایک کے دل سے محبت رسول کے سوتے پھوٹتے ہیں۔ محبین کی اس مقدس جماعت نے عشق و محبت کی صحیح صورت کائنات کے سامنے پیش کر کے کتابِ محبت میں اربابِ محبت کے لئے ایک نئے باب کا اضافہ کیا ہے۔ اس اجمال کی مختصری تفصیل ان کی زندگی کے آئینہ میں دیکھی جائے۔ تو استعارہ و کناہی کے جوابات اٹھ جائیں گے اور ان کے جذبہ عشق رسول کی مقدس داستان ابھر کر سامنے آجائے گی۔ صحابہ کرام میں سب سے سر بلند خلفاء راشدین ہیں اور جماعت خلفاء میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مтарہ و قوت ہیں۔ آئیے سب سے پہلے انہیں کے جذبہ عشق رسول کا جائزہ لیا جائے۔

فرزند صدیق اکبر حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ، جنگ بدر میں مشرکین مکہ

کے ہمراہ کفار قریش کی طرف سے شکر اسلام سے زور آزمائی میں مصروف تھے۔
 مشرف بہ اسلام ہونے کے بعد ایک روز شفیق باپ کی خدمت میں عرض کرتے
 ہیں پدر بزرگوار جنگ بدر میں ایک ساعت ایسی بھی آئی۔ کہ آپ میری تلوار کی
 زد میں آگئے تھے اگر میں چاہتا تو بڑی آسانی سے آپ کو تباہ کر سکتا تھا لیکن
 رشتہ ابوت نے میری کلامی تھام لی۔ اور میں نے آپ کی طرف سے صرف نظر کر
 لیا۔ صدیق اکبر کے جذبہ عشق نے انگڑائی لی۔ محبت رسول نے تیور بدلا۔ اور عشق
 رسول میں ڈوبی ہوئی ایک پر جلال آواز ابھری، وہ تمہارا کفر تھا جس نے تمہیں
 پدری رشتہ کی یاد دلائی، اور تمہارے جذبہ مبارزت پر خونی رشتہ غالب ہو گیا۔ واللہ
 اگر میرے ساتھ یہی معاملہ پیش آتا اور تم میری تلوار کی زد میں آ جاتے تو محبت
 رسول غالب آتی اور تکرار اپنا کام کر جاتی چشم فلک بھی دیکھ لیتی کہ رسول کی خاطر
 ایک شفیق باپ نے اپنے چہمیتے بیٹے کی گردان اڑا دی۔ (ابن عساکر)

قابل صد احترام ہے جذبہ صدیقی کہ دل کی گہرائیوں سے ابھرتا ہے اور
 کائنات کو انگشت بدنداں کر دیتا ہے صدیقی عشق رسول کی عظمت زدی شان رکھتی
 ہے مال اپنا ہوتا ہے مگر محبت کہتی ہے اسے اپنا نہ کہو تو صرف محبوب ہے۔ بقیہ سب
 کچھ محبوب کا ہے۔ حضرت صدیق کے اس جذبے کی ترجیحی حضرت ابو ہریرہ
 رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کرتی ہے ان کی روایت کے مطابق سید کائنات ﷺ
 نے ایک روز ارشاد فرمایا۔ سرمایہ ابو بکر سے زیادہ مجھے کسی کی دولت سے فائدہ نہیں
 پہنچا۔ سرکار کے اس فرمان سے آتش محبت کو ہوا لگی اور دلبی ہوئی چنگاری شعلہ
 حوالہ بن گئی۔ عشق صدیقی میں بیجان برپا ہوا۔ اور دریائے محبت بشكل آنسو
 آنکھوں سے ابل پڑا۔ گریہ سامانی کرتے ہوئے عرض کیا۔ اے میرے آقا

محبوب و محبت میں میرا اور تیرا کیسا، میں بھی آپ کا اور میرا سب کچھ آپ کا، بہت پہلے ابو بکر کا تن من دھن سب آپ پر قربان ہو چکا ہے۔ اب ابو بکر کا حال کیسا؟

(احمد)

اللہ اللہ یہ محبت صدیقی کہ ماں اپنا ہے، مگر محبت کہتی ہے کہ اسے میرانہ کہا جائے اگر محبوب بھی اس کو ابو بکر کا ماں کہیں گے، تو صدیق کا آگینہ دل ٹوٹ جائے گا۔ حضرت صدیق کی زندگی کا ایک ایک لمحہ رضاۓ رسول اور عشق مصطفیٰ میں گزرتا تھا۔ آپ کی پسند و ناپسند سے بھی ہم آہنگ ہوئی تھی۔ اس کا اندازہ ہم کو اس سے ہوتا ہے کہ رسول خلدلیل اللہ عزوجلیٰ کے چچا ابو طالب کا ایمان قبول کرنا رسول کے لئے آنکھوں کی خندک اور دل کا سرو رتھا اور دائرہ اسلام میں ان کا داخلہ رسول کی سرست و شادمانی کا سبب اور انبساط و خوشی کا باعث تھا۔ سرکار آرزو فرماتے تھے کہ کاش چچا ابو طالب دولت ایمان سے ہمکنار ہو جائیں، حضرت صدیق پر جب یہ حقیقت مکشف ہوئی تو بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ قسم ہے اس ذات وحدہ لا شریک کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے ابو طالب کا شرف ایمان سے مشرف ہونا میرے لئے میرے والد ابو قافہ کے دائرہ اسلام میں آنے اور غلامی رسول قبول کرنے سے زیادہ عزیز و محبوب ہے کیونکہ مجھے وہی محبوب ہے جو سرکار کو محبوب ہے مجھے وہی پسند ہے جو سرکار کو پسند ہے میری ساری سرست و شادمانی سرکار کی رضا سے وابستہ ہے جب ابو طالب کا ایمان قبول کرنا سرکار کو عزیز ہے تو بھلا میں اسے ناپسند کرنے کی جسارت کیسے کر سکتا ہوں۔

(شفا شریف)

یہ تو تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جذبہ عشق رسول۔ اب بالاختصار

حضرت فاروق عظیم رضی اللہ عنہ کی محبت تاریخ کے آئینہ میں ملاحظہ فرمائیے۔ آپ کے جذبہ عشق رسول کی شفقتگی ایسی ہے، کہ عقل انسانی، نگ رہ جاتی ہے، ہوشمندی سر پنک دیتی ہے، خرد کی توانائی دم توڑ دیتی ہے کہ عشق و محبت کی ایسی دیوانگی تو کہیں نظر نہیں آتی، حضرت فاروق عظیم بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں اور عرض کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ مجھے میری عزیز جان کے علاوہ کائنات کی برگعت سے زیادہ عزیز ہیں۔ ارشاد ہوا ”لن یومن احد کم حتی اکون احب الیه من نفسہ“ تم میں سے کوئی مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اسے اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ عمر ابھی تمہاری محبت نامکمل ہے اس میں کمال پیدا کرو، ارشاد نبی نے گردن فاروقی خم کر دی اب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب تو آپ مجھے میری عزیز جان سے بھی زیادہ ہیں۔ (شفا شریف)

انسان کو ماں باپ اولاد عزیز واقارب اور خونی رشتؤں سے بڑی محبت ہوتی ہے اور اپنی جان تو ہر ایک کو عزیز ہوتی ہے دنیا میں جان سے زیادہ کوئی شے پیاری نہیں ہوتی مگر جذبہ فاروقی نے رسول کے لئے والدین سے منہ پھیر لیا، اولاد کو خنوکر مار دی عزیز واقارب اور خونی رشتؤں سے ناتا تو زلیا، حتیٰ کہ جان جیسی عزیز شے بھی محبوب کے قدموں میں ذہیر کر دی۔ یہ تمام چیزیں تو سرکار کے قدموں کی خاک ہیں، اور یا رسول اللہ میرے لئے عزیز و محبوب تو صرف آپ ہیں کوئی دشت محبت کا شہسوار جو اس کی نظیر پیش کر سکے مجنون اور فرہاد جیسے عشق و محبت میں مارے ہوئے آزمودہ کار بھی محبت فاروقی کے آگے زانوئے تلمذ ہے کریں۔

عشق فاروقی کا ایک اور منظر بھی قابل دید ہے۔ آپ مجر اسود کے سامنے

کھڑے ہیں اور جوش محبت میں اس کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں تو ایک پتھر ہے تجھے میں نفع و ضرر کی صلاحیت نہیں تیری ذات سے میرے لئے کوئی منفعت و مضر نہیں، میں تجھے ہرگز بوسنے دیتا، اگر میری آنکھوں نے رسول خدا ﷺ کو تجھے چوتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا، میں تجھے اس لئے چوتا ہوں کہ تجھے محبوب کے لہماں مقدس مس ہوئے ہیں، نسبت رسول کی وجہ سے تجھے چوم رہا ہوں۔

(شفا شریف)

محبت فاروقی کی جلوہ سامانی کا ایک اور دل کش پہلو بھی قابل دید ہے۔ آپ نے مقامِ ذوالخالیقہ میں دور کعت نماز ادا کر کے فرمایا، میری نگاہوں نے آقا کو جو کرتے ہوئے دیکھا میں نے بھی وہی کیا، آقانے دور کعت نماز ادا فرمائی تھی عشق نے مجبور کیا کہ عترم بھی یہاں اپنا سجدہ لٹاؤ، اس لئے اس دور کعت کی ادائیگی ہوئی ہے۔

(شفا شریف)

مخصر یہ کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی محبت رسول بھی دستِ محبت میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔

اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جذبہ عشق رسول کے کچھ تراشے پیش ناظرین ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش نے حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کو طواف کعبہ کی اجازت دے دی، عثمان اگر تم چاہو تو صرف تمہارے لئے اجازت ہے تم کعبہ کا طواف کر سکتے ہو مگر تمہارے رسول اور رفقاء اس اجازت سے مستثنی ہیں، طواف کعبہ ایک عظیم عبادت ہے نصیبہ والوں کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے۔ حضرت عثمان کی یہ خوش بختی ہے کہ انہیں طواف کی اجازت مل گئی انہیں

طواف کر لینا چاہئے، مگر محبت کہتی ہے کہ محبوب نے ابھی طواف نہیں کیا ہے تم طواف کرو گے؟ نہیں نہیں بغیر محبوب کے طواف کرنے کا قصد بھی نہ کرنا محبت کی اس آواز پر انہوں نے قریش کو جواب دیا، میری غیرت ایمانی یہ گوارہ نہیں کر سکتی کہ رسول سے پہلے میں طواف کرلوں، میں اس وقت تک ہرگز طواف نہیں کر سکتا جب تک کہ سرکار طواف نہ فرمائیں۔

(شفا شریف)

عثمانی عشق و محبت کی ایک اور روایت سے کائنات دل کو معمور کر لیجئے۔ آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو محلہ کا بیان ہے کہ ایک بار ہم نے دیکھا کہ سرکار حضرت عثمان سے مر گوشی فرمائی ہے ہیں آپ کے گوش اقدس میں کچھ ایسی باتیں پہنچیں جس سے آپ کے چہرے کارنگ متغیر ہو گیا۔ ٹلگفتہ چہرہ پر شمردہ ہو گیا۔ پھر ایک زمانہ کے بعد وہ مہیب ساعت آئی، کہ حضرت عثمانی رضی اللہ عنہ کو بلوائیوں نے ان کے کاشانہ اقدس میں محصور کر دیا، ہم نے آپ سے عرض کیا، اب پانی سر سے اوپنجا ہو چکا ہے پیانہ صبر لبریز ہو گیا ہے۔ اب ان کی سرکوبی کی اجازت دیجئے آپ نے فرمایا مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ میرے آقانے مجھے مقابلہ کی نہیں بلکہ صبر و شکر کی وصیت فرمائی ہے۔

(بیہقی)

قابل توجہ ہے یہ امر کہ جان خطرے میں ہے۔ کھانا پانی بند ہے گھر سے باہر قدم نہیں نکال سکتے، جان کو عظیم خطرہ لاحق ہے آپ کو حرم دے دینا چاہئے تھا کہ ہاں ہاں ان بلوائیوں کو رونداؤ، صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دو، مگر آیا ایسا کرنے سے گریز کرتے ہیں، کیونکہ محبت کہتی ہے کہ چاہے جان چلی جائے مگر

محبوب کی وصیت پر آنچ نہ آنے پائے، آپ کا یہ جذبہ عشق ہی تھا کہ رسول کے ایک اشارہ پر آپ نے اونٹوں کی ایک کثیر جماعت، دیناروں کے کھلتے ہوئے ہزاروں سے مسجد نبوی کی تعمیر کیلئے زمین اور بیرون مہر خرید کر قدم مصطفیٰ میں بچا دیا۔

(مشکوہ شریف)

غرض کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی بھی عشق رسول کا گلستانہ ہے۔

مولائے کائنات حضرت علی الرضا رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ بھی عشق رسول سے معمور ہے ان کا ایک ہی فرمان اتنی جامعیت کا حامل ہے کہ محبت کے تمام شعبے اس میں سست آتے ہیں۔ آپ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ حضرات رسول خدا ﷺ سے کس انداز کی محبت کرتے تھے، آپ کے جذبہ عشق کے کیا تصور ہوتے تھے؟ ارشاد فرمایا، لوگوں کو اپنا مال بہت عزیز ہوتا ہے مگر ہم رسول کے سامنے مال کوٹھو کر مارتے تھے، اپنی اولاد سے بے پناہ پیار ہوتا ہے مگر ہماری اولاد رسول کی محبت کی بھینٹ چڑھتی تھی، والدین سے یک گونہ محبت ہوتی ہے مگر محبت رسول کے سامنے والدین کی محبت بھی دم توڑتی نظر آئی، سخت پیاس کے وقت محنڈا پانی جتنا محبوب ہوتا ہے اس کا اندازہ ایک پیاسا ہی کر سکتا ہے۔ مگر شدت تشنگی میں پانی رسول کو اختیار کرتے ہو یا فرحت بخش محنڈے پانی کو تو قسم ہے خدائے وحدہ لا شریک کی ہم سکون بخش محنڈے پانی کوٹھو کر مار کر اپنی جان قربان کر دیں گے۔ مگر ہم یہ بھی گوارہ نہیں کر سکتے کہ رسول کو چھوڑ کر سرد پانی کی طرف نگاہ اٹھادیں۔

(شفا شریف)

خلافے راشدین کے بعد دیگر صحابہ کی داستان عشق بھی ذہن نشین

کرتے چلے۔

حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما گروہ صحابہ میں ایک نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ کا پیرسُن ہو گیا ہے آپ سے کہا گیا کہ کائنات میں جو سب سے زیادہ آپ کو محظوظ ہواں کو پکاریے مرض سے نجات مل جائے گی، آپ نے فوراً پکارا یا
 محمد انہیں پکارتے ہی پیر درست ہو گیا۔
 (نزہۃ الناظرین)

حاضرین کے ذہن میں خونی رشتؤں کی طویل فہرست ابھر آئی ہو گی لیکن آپ نے سب کو پس پشت ڈال دیا اور صرف رسول کو پکار کر یہ اعلان کر دیا کہ پوری کائنات میں آپ کو سب سے زیادہ محظوظ سرور کائنات ﷺ ہیں۔

ایک مقام پر آپ کی محبت دیوانگی کے روپ میں نظر آتی ہے آپ کے ہاتھ میں اونٹ کی مہار ہے اور اونٹ کو کبھی اس گلی میں لے جاتے ہیں اور کبھی اس گلی میں لے جاتے ہیں کبھی اس گلی کو گذرگاہ بناتے ہیں کبھی ادھر کارخ کرتے ہیں کبھی ادھر کا، ان سے سوال کیا گیا حضور والا یہ کیا ہو رہا ہے۔ ارشاد فرمایا یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم میں تو اتنا جانتا ہوں کہ ایک روز میں نے اپنے آقا کو اسی انداز میں دیکھا تھا، محبت نے مجبور کیا کہ عبد اللہ محبوب کی ادائیں کو دھرا د اور میں سرکار کی ادائیں کی نقل کرنے لگا۔
 (شفا شریف)

جو لوگ آداب محبت سے بیگانے ہیں۔ عشق کے تقاضوں سے نا آشنا ہیں۔
 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی زندگی کا ایک گوشہ انہیں دعوت فکر دیتا ہے آپ اکثر وہ بیشتر منبر رسول کے پاس کھڑے ہوتے اور منبر رسول پر رسول کے تشریف فرمائے ہوئے

کی جگہ ادب سے ہاتھ رکھتے اور پھر اسے اپنے چہرے پر مل لیتے تھے۔ (شفا شریف)

عقل کہتی ہے کہ ایک منبر کی کیا حیثیت ہے لکڑی کا ڈھانچہ ہے، ادنیٰ حقیقت رکھتا ہے جب وہ خود مقدس نہیں، تو اس سے مقدس کیے حاصل ہو گا، مگر محبت عبد اللہ کہتی ہے کہ اسے رسول کے مقدس جسم سے نسبت ہے، مقدس سے نسبت رکھنے والا بھی مقدس ہوتا ہے۔ لہذا ایسی چیزوں سے مقدس حاصل کرو، محبت رسول کرو، محبت رسول میں آپ کی داروغہ کا یہ عالم تھا کہ آپ ہمیشہ با غت شدہ اور زر در نگ کا کالا جوتا پہننے تھے کیونکہ آپ نے سرکار کو ہمیشہ ایسے ہی نعلین میں دیکھا تھا۔

(شفا شریف)

محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ چلتی پھرتی چیزوں میں بھی محبوب کی پسند کو مد نظر ہونا چاہئے۔

حضرت ابوالیوب انصاری رضی اللہ عنہ کا جذب عشق بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ ان کی دیوالیگی کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ ان کے کاشانہ، اقدس پر سرکار کے قیام کے دوران میں گھر کے اندر جو کچھ پکتا سب رسول کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا، سرکار اس میں سے حسب اشتہارتاؤں فرمائیتے تھے۔ جب بچا ہوا کھانا گھر پہنچتا تو رسول کے متوالوں کا حال قابل دید ہوتا تھا، عشق رسول میں سرشار خاندان ان کھانے میں رسول کے نشان انگشت تلاش کر کے وہیں سے لقہ لینے کی کوشش کرتا تھا، ایک روز بارگاہ رسالت سے کھانا واپس آیا، نشانہ انگشت کی تلاشی ہوئی مگر ایک نشان بھی نہ ملا، حضرت ابوالیوب انصاری رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت

میں مفطر بانہ عرض کیا رسول اللہ آج آپ نے کھانا تناول نہیں فرمایا، خدا نخواستہ طبیعت تو ناساز نہیں ہے۔ رسول نے ارشاد فرمایا کھانا نہ کھانے کا سبب یہ ہے کہ آج کھانے میں کچا ہنس پڑا ہوا ہے اور کچا ہنس مجھے پسند نہیں، عرض کیا رسول رسول اللہ جب آپ کو کچا ہنس پسند نہیں تو میں بھی آج سے کبھی کچا ہنس استعمال نہیں کروں گا اور پھر انہوں نے زندگی کے آخر لمحہ تک کچا ہنس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔

(جواهر البهار شریف)

عشق و محبت کی بھی وہ منزل ہے جہاں کھری کھوئی محبت بے نقاپ ہو جاتی ہے۔ عقل کہتی ہے کہ یہ ضروری نہیں کھانے پینے کے معاملہ میں اپنی پسند کو رسول کی پسند کا پابند کیا جائے، اور محبت کہتی ہے کہ وہ عقل والوں کا شیوه ہوگا، اصل محبت کا اندازہ فکر تو یہ ہے کہ محبوب کی ناپسند کی طرف نگاہ اٹھانا بھی تو ہیں محبت ہے، ہبھن حرام نہیں ناجائز نہیں، اس کے استعمال میں کوئی شرعی قباحت نہیں مگر جب محبوب نے اسے ناپسند فرمادیا تو محبت کے لئے اس کا استعمال نازیبا ہے۔

حضرت زید ابن دشمنہ رضی اللہ عنہ کی والہانہ محبت بھی تاریخ کے سینے میں ایک تاباک حیثیت رکھتی ہے، جب شہید کرنے کے لئے ان کو حدود حرم سے باہر نکالا گیا اور وہ مقتل میں پہنچے تو ابوسفیان ابن حرب نے کہا، زید اس وقت تو تمہارے دل میں یہ خواہش کروٹ لے رہی ہو گی کہ محمد ﷺ تمہاری جگہ ہوتے، ان کی گردن زدنی، ہوتی اور تم اپنے اہل و عیال میں مصروف عیش ہوتے، محبت رسول کا متوا لا تڑپ اٹھا، حضرت زید مفطر ب ہو گئے۔ ارشاد فرمایا، ابوسفیان اپنے پیشواؤں سے متعلق تمہارا یہ طریقہ فکر ہو سکتا ہے، مگر میں تو یہ تصور

بھی نہیں کر سکتا کہ رسول کسی ایسی جگہ تشریف رکھیں جہاں آپ کے پائے مبارک
میں ایک کائنات بھی چجھ جائے اور میں اپنے خاندان میں آرام پذیر ہوں، قسم ہے
خداۓ زوالجلال کی ہمیں سرکشاد یا محبوب ہے مگر یہ گوارہ نہیں کہ آقا کے قدم میں
ایک کائنات بھی چھے، اس ناقابل تردید حقیقت کو دیکھ کر ابوسفیان نے بھی بے ساختہ
کہہ دیا، اصحاب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جس انداز کی محبت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے کرتے ہیں ہم
نے کسی کو بھی کسی سے باس انداز محبت کرتے نہیں دیکھا۔ (شفا شریف)

بروایت شفا شریف حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے
رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) سے زیادہ کائنات کی کوئی نعمت عزیز و محبوب نہیں۔

سید کائنات (صلی اللہ علیہ وسلم) کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوابان رضی اللہ عنہ کی محبت بھی
اپنے اندر ایک ندرت لئے ہوئے ہے۔ رسول سے جدائی آپ کے لئے ناقابل
برداشت ہوتی تھی، اگر کبھی رسول کو نہ دیکھتے تو بے قرار ہو جاتے تھے، ایک روز
بارگاہِ مصطفیٰ میں عجیب انداز سے حاضری دیتے ہیں چہرے کارنگ اڑا ہوا ہے،
حالت خستہ ہے، چہرے سے حزن و ملال پھوٹ رہا ہے، سر کارنے فرمایا ثوابان
آج تمہارا انداز کیوں بدلا ہوا ہے خیریت تو ہے چہرہ اترنا ہوا کیوں نظر آ رہا ہے
عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی شکایت نہیں ہے۔ میں کسی مرض کا شکار نہیں ہوں،
مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ صرف یہ درد مجھے ستار ہا ہے۔ کہ آقا کی زیارت نہیں
ہو پاتی، جب دیدار کی تڑپ بڑھتی ہے دل بے قرار ہوتا ہے تو مضطربانہ حاضری کا
شرف حاصل کرتا ہوں مگر اے میرے آقا یہاں تو زیارت کی کوئی نہ کوئی صورت

نکل آتی ہے، آخرت کا خوف دامن گیر ہے کہ وہاں سرکار انبیاء کرام کے ساتھ مقام رفیع میں جلوہ فرمائیں گے۔ اور خوش نصیبی سے اگر جنت میرے حصہ میں آئی تو ادنیٰ مقام پر میں مدد و در ہوں گا۔ اور اگر خدا خواست جنت ہی سے محروم ہو گیا تو پھر آقا کی زیارت کے شرف کی کیا صورت ہو گی؟ دونوں سورتوں میں آپ کی زیارت سے ہمیشہ محرومی رہیں گے لیکن مجھے بتائے وحشت کے ہوئے اس فکر میں دبلا ہوتا جا رہا ہے۔ محبت کے ماروں کی آرزو پوری نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ عشق و محبت کی یہ آہ باب اجابت تک پہنچ گئی، اور وہاں سے فوراً پیام مسرت بھی آ گیا۔

﴿مَنْ يُطِعَ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْمُصَدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسْنَ اولُئِكَ رَفِيقًا﴾

خدا و رسول کے اطاعت شعار بارگاہ خداوندی کے انعام یافتہ نبینیں صدقیقین، شہداء اور صالحین کے ہمراہ ہوں گے۔

سرکار نے حضرت ثوبان کو خدا کا یہ پیغام سنا دیا گھبرا نے کی ضرورت نہیں، یہاں ساتھ ہوتا تمہاری محبت وہاں بھی تمہیں میری ہمراہی میں رکھے گی۔

(نزہۃ النظرین)

جس صحابی پر نظرِ الودہ رسول کا جاں شانہ نظر آتا ہے، ہمیں کوئی بھی ایسا نہیں ملتا جس کے اندر جذبہ محبت کی کار فرمائی نہ ہو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا جذبہ عشق ملاحظہ ہو۔ آپ اپنی ٹوپی میں سرکار کے موئے مبارک عقیدت و محبت سے رکھتے تھے ایک موقع پر عین جنگ میں آپ کی ٹوپی سر سے گر گئی عقیدت بھرا دل تڑپ انھا ٹوپی میں سرکار کے موئے مبارک ہیں کہیں اس پر کسی کا پیر نہ پڑے۔

جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر عقیدت کی بڑی رسائی ہو جائے گی فوراً کسی خطرے کی پرواہ کئے بغیر جنگ کی طرف سے توجہ ہٹا کر بازی طرح ٹوپی پر جھپٹے اور عقیدت سے ٹوپی کو سر پر رکھ لیا۔ صحابہ کرام نے ان کے اس فعل کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا اور تنقید آکرہ بھی دیا، خالد یہ کہاں کی ہوش مندی ہے کہ ایک معمولی سی ٹوپی کے لئے اپنے کو خطرات کے حوالہ کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا ٹوپی کی وجہ سے یہ فعل مجھ سے سرز نہیں ہوا۔ بلکہ یہ محبت بھری حرکت تعظیم رسول کی وجہ سے ہوئی ہے میری معمولی ٹوپی میں رسول کے گرانقدر موئے مبارک تھے میں نے سوچا موئے مبارک کی کہیں بے حرمتی نہ ہو جائے، کہیں اس کی برکت مجھ سے سلب نہ ہو جائے، اس لئے جذبہ محبت نے اس حرکت پر مجبور کیا اور موئے مبارک کی کہیں بے حرمتی نہ ہو جائے، اور موئے مبارک کی حرمت کے تحفظ کے لئے میں ٹوپی پر جھپٹ پڑا۔

(شفا شریف)

محبت بلاں آواز دیتی ہے، اب ذرا اس کی طرف اپنی توجہ مبذول کیجئے۔
حضرت بلاں رضی اللہ عنہ سخت یہاں ہیں، بخچے کے آثار مفقود ہو چکے ہیں۔ قریب مرگ ہیں، عالم جانکنی کو دیکھ کر ان کی بیوی تڑپ انھیں، اور ان کی غم میں ڈوبی ہوئی آواز ابھری واہناہ ہائے حزن و ملال کہ رفیق زندگی ساتھ چھوڑ رہا ہے میری کائنات اجزہی ہے گوش بلاں میں یہ درد بھری آواز پہنچی تو آپ نے فوراً اس کی تردید کی غم کی کیا بات ہے واطر باہ وائے خوشیوں کا ہجوم کہ کل میں اپنے محبوب رسول خدا ﷺ اور ان کی محبوب جماعت کی زیارت کا شرف حاصل کروں گا یہ تو مقام خوشی ہے نہ کہ غم۔

(شفا شریف)

صحابہ کرام کا جذبہ عشق بھی کبھی ایسی نرالی صورت اختیار کر لیتا تھا کہ دیکھنے والے عش عش کر کے رہ جاتے تھے ابو مخدود رضی اللہ عنہ کے سر میں پیشانی کے اوپر بالوں کا ایک چھار ہتھا تھا جب وہ اسے کھول کر اس میں سنگھا کرتے تو بالوں کی لٹ زمین بوس ہو جاتی تھی۔ ان سے دریافت کیا گیا کہ اسے کٹا کیوں نہیں دیتے کیا اس کی بقا میں کوئی حکمت مضر ہے؟ انہوں نے کہا سبحان اللہ انہیں کٹانے کا مشورہ دیا جا رہا ہے ان بالوں سے میرے آقا کے دست مبارک مس ہوئے ہیں۔ یہی تو میرے سرمایہ آخرت ہیں، میں انہیں کٹانے کی جسارت کیسے کر سکتا ہوں۔

(شفا شریف)

صحابہ کرام جذبہ عشق رسول کے چند اور تراشے پیش قارئین ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ سر کار پیالے میں کدو تلاش کر رہے ہیں۔ اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر کدو تناول فرمائے ہیں، سمجھ گئے کہ آقا کو کدو غایت درجہ مرغوب ہے اسی دن سے وہ بھی کدو کو پسند فرمانے لگے اور ان کے لئے کدو جیسی محبوب و مرغوب خدا کوئی نہ رہی۔

(شفا شریف)

حضرت امام حسن بن علی حضرت عبد اللہ ابن عباس اور ابن جعفر رضی اللہ عنہم پر مشتمل ایک مقدس جماعت حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کے حضور حاضر ہوئی اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ آج آپ ایسا کھانا بنائیے جو سر کار کو مرغوب تھا تاکہ ہم بھی اسے مرغوب خدا بنائیں۔

(شفا شریف)

عقیدت و محبت میں صحابی عورتیں بھی صحابہ سے پیچھے نہیں ہیں، ان کا جذبہ

محبت بھی کتاب محبت میں ایک نئے باب کا اضافہ کرتا ہے۔ جنگ احمد میں ایک انصاری صحابیہ کے شوہروالد، بھائی رسول کے قدموں میں اپنی متاع زندگی ڈال کر منصب شہادت پر فائز ہو گئے، خونی رشته کی لکنی اہم ہستیوں نے رفاقت توڑ دی ان کا دل بے قرار ہے مگر باپ بھائی اور شوہر کے لئے نہیں بلکہ رسول خدا کے لئے انہیں معلوم ہے کہ ان حضرات نے رفاقت سے منہجِ موڑ لیا ہے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں مگر انہیں کوئی غم نہیں ہے۔ اضطرابی ہے تو رسول کی خیریت کے لئے صحابہ سے دریافت کیا میرے آقا کس حال میں ہیں، مجھے محبوب کی خیریت سے آگاہ کرو، کہہ دیا گیا بھمد اللہ تمہاری مشاء کے مطابق رسول خیریت سے ہیں۔ مگر بے قرار دل کو سکون نہیں ملتا، مجھے سرکار دکھاؤ، بغیر دیکھے محبت کی اضطرابی نہیں جائے گی بغیر دیدار کے قلب مضطرب کو سکون نہیں ملے گا صحابہ نے انہیں سرکار کی بارگاہ میں حاضر کر دیا، لو محبوب سامنے ہیں خوب جی بھر کے زیارت کرلو، اس عاشق زار خاتون نے عقیدت و محبت کے گراں بہا جو ہر بکھیر دیئے، شوہر شہید ہو گئے ہونے دو، باپ کی گردان کٹ گئی کوئی غم نہیں، بھائی کا ساتھ چھوٹ گیا کوئی پرواہ نہیں، محبوب خیریت سے ہیں تو ہر مصیبت ڈور ہے آقا کی خیریت سے بڑھ کر میرے لئے اور کیا خیریت ہو سکتی ہے۔

عورتیں بھی محبت رسول میں بالکل مردوں کے دوش بدوش نظر آتی ہیں ایک اور صحابیہ کا جذبہ عشق دعوت مطالعہ دیتا ہے۔ ایک صحابیہ نے حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اضطرابی قلب بڑھتی جا رہی ہے۔ سوز محبت نے طبیعت کو بے چین کر رکھا ہے۔ زیارت رسول کے لئے دل تڑپ رہا ہے۔

روضہ رسول بی دکھائیے تاکہ قلب مضرط کو سکون نصیب ہو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کی تسلیمین قلب کی خاطر قبر انور کھول دی بارگاہ حسن میں عشق کی جوانانیت دیکھئے کہ حسن کی چوکھت پر عشق کا سرخ ہے آنکھوں سے سیل محبت روایہ ہے۔ محبوب کی جدائی میں گریہ سامانی ہو رہی ہے اے اللہ آب یہ جدائی ناقابل برداشت ہے۔ مجھے میرے محبوب کے پاس پہنچا دے سوز عشق نے باب اجابت کو کھٹکھٹایا رحمت خداوندی جھوٹی اور عشق کی فریاد کو آغوش رحمت میں جگہل گئی، چشم عالم نے بھی دیکھ لیا کہ حسن کی بارگاہ میں ایک عاشق زار نے محبوب کی جدائی کی تاب نہ لا کر وہ توڑ دیا۔

(شفا شریف)

زنان مصر کو آواز دوآ کر دیکھ جائیں ایک عاشق زار کے لاش کو آج آستانہ محبوب پر جذبہ عشق رسول کی ایک زندہ جاویدہ مثال پڑی ہے جس کی لافانی حقیقت نے ارباب خرد کے ہوش اڑا دیئے ہیں۔

یہ تو انفرادی انداز سے صحابہ کرام کا جذبہ محبت پیش ہوا۔ اب اجتماعی روپ میں ان کی دیوانگی کا سوز و گداز ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت اسحاق تھبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کے وصال کے بعد اصحاب رسول انتہائی خشوع کے ساتھ ذکر رسول کرتے تھے اور یوقت ذکر محبت سے ان کے رو نگئے کھڑے ہو جاتے تھے اور وہ محبت رسول میں اکثر گریہ سامانی کرتے تھے۔

(شفا شریف)

یہ بھی محبت کا ایک انداز ہے کہ محبوب کا ذکر تعظیم و تو قیر سے کیا جائے اور تو قیر رسول کو ایمانی جزو سمجھا جائے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

صحاب رسول احترام محبوب میں باب رسول پر اپنے ناخنوں سے دستک دیتے تھے
تاکہ ساعت محبوب پر گراں نہ گرے۔

(شفا شریف)

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی لگا ہوں سے دیکھا کہ
رسول خدا ﷺ اپنے موئے مبارک اتروار ہے ہیں اور عاشقان رسول موئے
مبارک کے حصول کے لئے پروانہ وار آپ کا طواف کر رہے ہیں سرکار کے سر سے
اگر ایک بھی موئے مبارک جدا ہوتا ہے تو کسی نہ کسی کے ہاتھوں میں پڑتا ہے ایک بھی
بال زمین پر گرنے نہیں پاتا۔

(شفا شریف)

حضرت عروہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قریش کے نمائندہ کی حیثیت سے جب
سرکار کی بارگاہ میں پہنچے تو دیکھا کہ رسول خدا ﷺ وضوفرمائے ہیں اور اصحاب
رسول ان کا احاطہ کئے ہوئے ہیں رسول کے پروانے چاروں طرف شمع رسالت
کا طواف کر رہے ہیں جسم اقدس سے وضو کا پانی جدا بھی ہونے نہیں پاتا کہ
پروانے اسے اپنے باتھوں میں روک لیتے ہیں کسی نے شوق محبت میں اپنا دامن
پھیلا دیا ہے تاکہ وضو کا غسالہ نصیب ہو جائے، وارثگی کا یہ عالم ہے کہ ایسا محسوس
ہوتا ہے کہ پانی کے حصول کے لئے آپس میں لڑ پڑیں گے۔ رسول لعاب وہن
زمین پر ڈالتے ہیں، تاک صاف کرتے ہیں، مگر یہ جاں شمارا سے بھی زمین تک
پہنچنے نہیں دیتے بلکہ درمیان ہی سے اسے اچک لیتے ہیں اور اس کو کوئی اپنے
چہرے پر مل رہا ہے کوئی سینے پر مل رہا ہے کوئی جسم کے، بیگر حصول کو فیض پہنچا رہا
ہے آپ کا کوئی موئے مبارک اگر ٹوٹتا ہے تو یہ دیوانے اس کے حصول کے لئے

آپس میں متصادم ہو جاتے ہیں رسول انہیں کوئی حکم دیتے ہیں تو اس کی تعیل کے لئے ہر شخص پیش قدی کرتا ہے اور ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے ہی ہاتھوں یہ کام انجام پذیر ہو، جب وہ اپنے رسول کے حضور گفتگو کرتے ہیں تو آواز پست رکھتے ہیں رسول کی تعظیم و توقیر بجالانے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ رسول سے آنکھیں نہیں ملاتے بلکہ نگاہیں پیچی رکھتے ہیں، حضرت عروہ ابن مسعود دیوانگان رسول کی یہ دیوانگی دیکھتے جاتے تھے اور حیرت سے ان کی آنکھیں پھیلتی جاتی تھیں اور پھر جب وہاں سے لوٹے تو بارگاہ رسالت کے عقیدت کیشون کے والہانہ عشق و محبت کی چھاپ ان کے دل و دماغ پر پچھائی پڑی کہ قریش کے سامنے اپنے دلی تاثرات کا اظہار ان الفاظ میں کئے بغیر نہ رہ سکے۔ اے جماعت قریش! قیصر و کسری کے درباروں کو میں نے دیکھا ہے۔ نجاشی کے دربار کی عظمت سے میں خوب واقف ہوں سلاطین عالم کے درباروں کی خنوت سے میری آنکھیں آشنا ہیں مگر قسم ہے خدائے ذوالجلال کی بارگاہ مصطفیٰ کی عظمت ہی نزالی ہے۔ کسی شہنشاہ کے حواری اس کی تعظیم و توقیر ویسی نہیں کر سکتے جیسی اصحاب محمد (علیہ السلام) اپنے رسول کی کرتے ہیں۔

(بخاری شریف)

صحاباء کرام کا یہی جذبہ عشق رسول ہے تاریخ جس کی نظر پیش کرنے سے قاصر ہے غیر بھی ان کے جذبہ محبت کی بالاتری کو تسلیم کرتے ہیں دشمنوں کے قلب درود بھی ان کی دیوانگی سے متاثر ہیں، اسی جذبہ کو لے کر وہ اٹھتے تو کائنات عالم پر چھاگئے، عظمت کائنات ان کی ٹھوکروں میں آگئی دنیاوی فیروز مندی ان کے قدموں تلے بچھنگئی۔

(مولانا محمد احمد صاحب اشرفی اعظمی)

مولوی اسماعیل دہلوی کی کتابوں کے متعلق چند اشارات

مولوی محمد اسماعیل صاحب دہلوی جن کی کتابیں تقویۃ الایمان، صراط مستقیم اور رسالہ یکروزی وغیرہ ان کے موافقین اور مخالفین میں اس طرح مشہور ہیں کہ ایک طرف مولوی اسماعیل اور ان کی کتابیں ان کے موافقین سے خراج تحسین و آفرین وصول کر رہی ہیں تو دوسری طرف ان کے مخالفین جو حدوثمار سے باہر ہیں ان کی طرف سے مولوی اسماعیل اور ان کی کتابیں لعن و طعن بلکہ کفر کے فتوے سن رہی ہیں۔

موافقین میں ہندوستان کی دو جماعتیں ہیں، ایک دیوبندی دوسری غیر مقلد یہ دونوں جماعتیں مولوی اسماعیل صاحب دہلوی کی مدح سرائی میں ان کتابوں کی حقانیت نوازی کا عجیب انداز میں ذکر کرتی ہیں، دیوبندی جماعت جو حفیت اور تقلید کی مدعا ہے وہ مولوی اسماعیل کو حنفی اور مقلد ثابت کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگاتی ہے جب کہ غیر مقلدین مولوی اسماعیل کو تقلید شخصی کا منکر اور اپنی طرح غیر مقلد (اہل حدیث) ثابت کرنے میں زمین و آسمان ایک کئے دیتے ہیں۔ یعنی موافقین میں ایک طرح جماعت مولوی اسماعیل کو مقلد اور حنفی ثابت کر کے حفیوں میں ان کو مقبول بنا کر ان کی کتابوں کو حنفی مسلم کی کتابیں باور کر رہی ہیں اور غیر مقلدین اس کوشش میں ہیں کہ مولوی اسماعیل کی حق پرستی اور ان کی کتابوں کی حقانیت نوازی اس جہت سے ثابت ہو کہ وہ اصل میں غیر مقلد تھے، یہ حال یہ دونوں جماعتیں مولوی اسماعیل کو اپنے اپنے مسلم کا ثابت کرتے ہوئے ایک

متفقہ بات یہ ثابت کرنے میں لگی ہوئی ہیں کہ مولوی اسمعیل حق پرست تھے اور ان کی کتابیں ہر جہت سے حق پرستی پر منی ہیں۔

منافقین میں مسلمانوں کی ایک مشہور جماعت جو میسا اد و قیام اور نیاز و فاتحہ وغیرہ کے جواز کی قابل ہے وہ مولوی اسمعیل اور ان کی مذکورہ بالا کتابوں سے سخت پیزاری کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کتابوں میں ایسی دلخراش باتیں پاتے ہیں جن کو کوئی مسلمان آیک لمحے لئے برداشت نہیں کر سکتا۔

موافقین جب مولوی اسمعیل صاحب کی کتابوں کی طرف سے صفائی دیتے ہیں تو ان کی زبان و قلم سے کچھ ایسی بھی نکلتی ہیں جن سے کم از کم اتنا ضرور ثابت ہوتا ہے کہ مولوی اسمعیل صاحب کی یہ کتابیں موافقین ہی کے بیان کے مطابق قم سے خالی نہیں مثلاً تقویۃ الایمان کی طرف سے صفائی دیتے ہوئے ایک صاحب نے یوں تحریر فرمایا ہے کہ اصل میں تقویۃ الایمان وغیرہ کتابوں کے لب و لبج میں اس وجہ سے تھوڑی تختی آگئی ہے کہ جس وقت مولوی اسمعیل صاحب نے یہ کتابیں لکھی ہیں، اس وقت دہلی اور اطراف دہلی کے مسلمان شرے و بدعت میں مبتلا تھے اور اولیاء و انبیاء کے بارے میں اپنے عقیدوں میں بہت غلوکر گئے تھے۔ چنانچہ لوگ ولیوں کو بڑھا کر نبی بنا دیتے تھے اور نبیوں کو بڑھا کر خدا تک پہنچا دیتے تھے، لہذا ایسے غالی اور بد عقیدہ مسلمانوں کی اصلاح بدایت کے لئے مولوی اسمعیل صاحب اپنی کتابوں میں تلمذ کلامی کے شکار ہو گئے یعنی ان کے قلم سے نامناسب الفاظ نکالے اس قسم کا امتہان فرمائیا گیا۔

قلم سے پائیں گے اس سلسلہ میں آپ کی توجہ ماہنامہ تجھی دیوبند کے پرانے فائلوں کی طرف مبذول کراؤں گا۔

بہر حال تقویۃ الایمان وغیرہ کی عبارتیں حد کفر تک نہ بھی پہنچی ہوں تو کم از کم کتابوں کے موافقیں یعنی ان کتابوں کو حقانیت نواز ثابت کرنے والے اتنا تو ضرور تسلیم کرتے ہیں کہ مولوی اسماعیل دہلوی کی یہ کتابیں روح فرساحد تک سخت بیانی سے ملوث ہیں۔

میں کہتا ہوں کہ اگر بالفرض مولوی اسماعیل صاحب دہلوی نے دہلی کے بدعتیوں کی بدعات اور غالی مسلمانوں کی گمراہیوں سے کڑھ کر یہ کتابیں لکھیں اور سخت لب والجھ اختیار کیا تو انہوں نے یہ ظلم کیوں کیا کہ بجائے اس کے کہ وہ مجرموں کو سزا دیتے ہے خطاوں کو سزا دینے لگے، میری مراد اس سے یہ ہے کہ جو مسلمان بقول دیوبندی وغیر مقلدین حضرات انبیاء کو بڑھا کر خدا تک پہنچاتے تھے اور ولیوں کو اٹھا کر بنیوں کے مقام پر بٹھاتے تھے، تو مجرم یہ مسلمان تھے یا انبیاء و اولیاء؟ ظاہر ہے کہ مجرم یہ گراہ مسلمان تھے نہ کہ انبیاء و اولیاء، سزا گراہ مسلمانوں کو ملنی چاہئے نہ کہ انبیاء و اولیاء کو لیکن آپ تقویۃ الایمان وغیرہ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ حقیقت تسلیم کرنی پڑے گی کہ مولوی اسماعیل نے گراہ مسلمانوں کی گردن نہیں ماری ہے بلکہ اولیاء و انبیاء کی گردن ماری ہے۔

در اصل مولوی اسماعیل اپنے اصلاحی قدم کے اٹھانے میں اپنے سخت قسم کے غصہ کا شکار تھے اس لئے انہوں نے مسلمانوں کی اصلاح اس میں سمجھی کہ یہ گراہ

مسلمان انبیاء و اولیاء کو جتنا حد سے بڑھا کر گراہ ہو رہے ہیں کہ انبیاء و اولیاء کو اتنا ہی ان کے مرتبہ سے گراہتا کہ یہ گراہ مسلمان حد اعتدال پر آ جائیں، دراصل مولوی اسمعیل کی یہی ناپاک ذہنیت تھی جس نے اپنی کتابوں کے ذریعہ گراہی کے ایسے ایسے فتنے اٹھائے کہ الامان وال حفیظ۔

بعض موافقین نے تقویۃ الایمان کی طرف سے صفائی دینے ہوئے یہ بات بھی لکھی ہے کہ دراصل کتاب تقویۃ الایمان فارسی زبان میں لکھی گئی تھی بعد میں کسی نے اس کا اردو ترجمہ کیا ہے اس صفائی کا مقصد یہ ہے کہ اصل میں مولوی اسمعیل قصور و انبیاء ہیں بلکہ تقویۃ الایمان کا ترجمہ کرنے والا مجرم ہے۔ یہ بات مولوی عبدالشکور صاحب مرزاپوری نے تقویۃ الایمان کی طرف سے صفائی دینے میں کہی ہے۔

میں کہتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لئے اگر یہ بات مان لی جائے کہ اصل کتاب تقویۃ الایمان فارسی میں ہے تو یہ فارسی والی تقویۃ الایمان ہندوستان کے کسی بھی گھر میں کوئی بھی ایک نسخہ موجود نہیں ہے اگر ہے تو نکال کر دکھاؤ۔

دوسرایہ کہ اگر بالفرض یہ تقویۃ الایمان کی بے ہود گیاں اردو ترجمہ کرنے والے کی بے ہود گیاں ہیں تو مولوی عبدالشکور صاحب مرزاپوری کی طرح سب کے سب صفائی دینے والے اس بات کو کیوں نہ اک زبان ہو کر تعلیم کر لیں کہ یہ اردو تقویۃ الایمان کی بے ہود گیاں ترجمہ کرنے والے کی بے ہود گیاں ہیں کہ مولوی اسمعیل صاحب کی۔

مولوی اسماعیل صاحب نے جہاں اپنی کتابوں کے سلسلہ میں بہت سے ظلم
ڈھانے ہیں وہاں ایک بڑا ظلم یہ کیا ہے کہ وہ آیات قرآنی جو یہودیوں اور نصاریٰ
یا بت پرستوں کی نمذمت میں نازل ہوئیں ان آیتوں کو مسلمانوں کے کچھ اعمال
میں کھینچ تان کر گمراہی کا پہلو نکالا اور پھر بے دھڑک یہود و نصاریٰ اور بت
پرستوں کے حق میں نازل شدہ آیات مسلمانوں کے حق میں اپنی کتابوں میں لکھ
کر اور نہایت بے باکی کے ساتھ وہ سارے احکام جو یہودیوں وغیرہ کے حق میں
ہیں مسلمانوں پر چپاں کر دیں اس طرح کے وہ مظالم ہیں جن کے تحت مولوی
اسماعیل صاحب کی کتابیں مسلمانوں کے حق میں بلا کو خان بن کر رہ گئیں ہیں۔

(مولانا فاروقی محمد عثمان صاحب اعظمی)



تقویۃ الایمان توحید کا تنقیدی جائزہ

ادارہ پاسبان کے ارکین کوربِ کریم دارین میں جزائے خیر عطا فرمائے کہ یہ حضرات عوام اہل سنت کے ایمان و اعتقاد کے تحفظ کی خاطر و قافو قرار سائیں و کتب شائع کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ اس حمایت حق کے جذبہ اخلاص سے سرشار ہو کر مدیر پاسبان علامہ نظامی کا ایک مطبوعہ خط مع ایک فہرست خاکسار کے نام پہنچا جس میں ماہنامہ ”پاسبان“ کے ”عقائد نمبر“ کے لئے قلمکاروں کے نام اور ان کے عنوانات تحریر متعین ہیں۔ میرے لئے بھی عنوان تحریر ”تقویۃ الایمان توحید کا تنقیدی جائزہ“ منتخب کیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہی سنی اہل قلم کے لئے اس موضوع پر لکھ دینا کوئی مشکل امر نہیں کیونکہ یہ مذہبیت کی تاریخ میں ”تقویۃ الایمان“ سے زیادہ بے سرو پا، غلط اور من گھرست شاید ہی کوئی کتاب لکھی گئی ہو جن تو یہ ہے کہ اس تصنیف کثیف کو سرچشمہ ضلالت ہونے کی وجہ سے دنیاے وہابیت میں مرکزی حیثیت حاصل ہے اسی لئے اس کتاب کی رد میں اکابر علماء اہل سنت اس قدر لشیخ فراہم کر رہے ہیں کہ دنیا میں کسی غلط کتاب کا کسی زمانے میں بھی شاید ہی اتنا رد لکھا گیا ہو۔ میری دانست میں ”تقویۃ الایمان“ کی رد میں جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں حضرت صدر الافق افضل قدس سرہ العزیز مراد آبادی کی تصنیف لطیف ”الطیب البیان“ سب سے عمدہ اوجامع رو ہے۔ جس پر اضافہ کی امید نہیں کی جاسکتی ہے۔ ساتھ ہی حضرت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے بھی ”تقویۃ الایمان“، ”تذکیر الاخوان“، ”صراط مستقیم“ اور اس قبل کی دیگر کتابوں کا رد اپنی بیشتر تصنیف کے ذریعہ اتنے شاندار اور سہل انداز میں لکھ دیا

بے کہ علمائے متاخرین کو کوئی وقت اور عرق ریزی کی ضرورت نہیں ہو گی۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے جنم تعدد وسائل میں ”تفویہ الایمان“ کے ہدایاتی مصنف کی مجنونانہ عبارتوں کی دھجیاں بکھیری ہیں ان میں ۔ ”الا من والعلی“ ”الکوکبة الشہابیہ اور سل السیوف الہندیہ“ وغیرہ کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

بہر حال میں چاہتا ہوں کہ نہایت ایجاد و اختصار کے ساتھ ”تفویہ الایمان“ دعویٰ توحید اور ان دعووں پر اس کے قرآنی دلائل کا تحریک کر کے ایمان و سلامتی کی راہ نکالنے کی کوشش کروں۔ اللهم هدایت الحق والصواب ۔

”تفویہ الایمان“ مطبوعہ کتب خانہ اعزازیہ صفحہ ۵ کا پہلا باب توحید و شرک کے بیان میں ہے۔ اس داستان کا آغاز اس طرح ہوتا ہے۔

”اول سننا چاہئے کہ شرک لوگوں میں بہت چھیل رہا ہے اور اصل تو توحید نایاب مگر انہوں نے شرک و توحید کے معنی نہیں سمجھتے اور ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں حالانکہ شرک میں گرفتار ہیں“

اس عبارت کے تیور ملاحظہ فرمائیے۔ سامع پر اک ضرب پڑتی ہے قاری کے ذہن پر یہ اثر مرتب ہوتا ہے کہ آج مصنف کتاب شرک و توحید کا معنی سمجھا کر ہی رہے گا۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دے گا مگر افسوس

۔ خواب تھا جو کچھ کہ دیکھا جو سن افسانہ تھا

کے بھوجب شرک و توحید کے معنی کی وضاحت تو کجا اپنی دیرینہ عادت یا وہ گوئی کے سوا کوئی باوزان اور مدلل بات نہیں کہہ سکا۔ اب دوسرا نمونہ دیکھئے۔

”سوال معنی شرک اور توحید کا سمجھنا چاہئے تا برائی اور بھلائی ان کی قرآن و حدیث سے معلوم ہو۔“

یہاں بھی شرک و توحید کی وضاحت نہیں ہو سکی، لغوی و شرعی کوئی معنی بیان نہیں کیا گیا اور محض ”سمجھنا چاہئے“ کہہ کر آگے بڑھ گئے۔
تیر انہونہ ملا حظہ ہو۔

”سننا چاہئے کہ اکثر لوگ پیروں اور تبیہروں کو اور اماموں کو اور شہیدوں کو اور فرشتوں کو اور پریوں کو مشکل کے وقت پکارتے ہیں اور ان سے مراد یہ ملتے ہیں۔ غرضیکہ جو کچھ ہندو اپنے بتوں سے کرتے ہیں سودہ سب کچھ یہ جھوٹے مسلمان انبیاء اور اولیاء سے اور اماموں اور شہیدوں سے اور فرشتوں اور پریوں سے کر گذرتے ہیں اور دعویٰ مسلمانی کا کئے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ! یہ منہ اور یہ دعویٰ حق فرمایا ہے اللہ صاحب نے سودہ یوسف میں ﴿مَا يُؤْمِنُ أَكْفَرُهُمْ بِاللَّهِ الْأَوَّلُمْ مُشْرِكُون﴾ اور تبیں مسلمان ہیں اکثر لوگ مکر کر شرک کرتے ہیں۔ یعنی اکثر لوگ جو دعویٰ ایمان کا رکھتے ہیں سودہ شرک میں گرفتار ہیں۔“

سطور بالا میں محض ایک طائرانہ نظر ڈالنے اور مسلمانوں کو جھوٹا مسلمان کہنے والے اس جھوٹے سے پوچھئے کہ ہندو تو اپنے بتوں کو معبد سمجھ کر سراط اعلیٰ خم کرتے ہیں اور ان سے عقیدت و نیاز مندی کا اظہار کرتے ہیں، کیا مسلمان بھی اپنے انبیاء، اولیاء، آئمہ، شہداء فرشتوں اور پیروں کو انہیں کافروں کی طرح معبد و مسجد سمجھتے ہیں اور ان کی ربوبیت والوہیت کا صنم تراش کر اپنی آستینوں میں

چھپائے پھرتے ہیں، اگر ایسا ہے تو مصنف تقویۃ الایمان شاہ اسماعیل دہلوی پر لازم تھا کہ وہ دلائل و شواہد کی روشنی میں گفتگو کرتے کہ فلاں فلاں مقام کے فلاں فلاں مسلمان پیر و پیغمبر کی الوہیت کے قاتل ہیں اور جب حقیقت حال یہ نہیں ہے اور ہرگز نہیں ہے تو پھر مصنف کا استدال شدید غلط فہمی اور سگین ضلالت پر منی نہیں تو اور کیا ہے؟

پھر مزید دیدہ دلیری یہ دیکھئے کہ اپنے مغالطائی استدال کے لئے انہوں نے سورہ یوسف کی آیت پاک ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾ نقل کی جس کا ترجمہ تک صحیح نہیں کر سکے، ان کا ترجمہ ہے۔ ”اور نہیں مسلمان ہیں اکثر لوگ مگر کہ شرک کرتے ہیں“ اس لاغی مصنف کے نزدیک گویا یہ آیت جس وقت نازل ہوئی اس وقت کے مسلمان یا غوث، یا خواجه، یا علی، یا حسین، یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا نعرہ متانہ مارتے تھے انہیں کوشش کرنے کے لئے یہ آیت اتری ہے حالانکہ یہ آیت جس وقت اتری ہر طرف لات و عزیزی کی خدائی کا دور دورہ تھا، کفار مکہ اللہ کے وجود پر یقین ضرور رکھتے تھے مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ خود تراشیدہ خداوندان باطل توبھی اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں شریک گردانتے تھے، اس جگہ۔ ما یؤمن ایمانی شرعی کے معنی میں مستعمل نہیں ہے بلکہ ایمان لغوی کے معنی میں مستعمل ہوا ہے۔ ایمان کے لغوی معنی کسی چیز کا یقین رکھنا ہے اور بلاشبہ اہل مکہ وجود و باری تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے مگر اس کے ساتھ اپنے بے شمار چھوٹے بڑے معبودوں کو بھی اللہ کی الوہیت میں شریک سمجھتے تھے، اسی حقیقت حقہ کے اظہار کے لئے ارشاد خداوندی ہے کہ۔

”کافروں میں اکثر آدمی اللہ کا یقین نہیں رکھتے مگر اس حال میں کہ شرک کرتے ہیں۔“

میرے اس نظریے کی تصدیق مزید کے لئے جلالین کی یہ عبارت ملاحظہ ہو۔

”وَمَا أَكْثَرُ النَّاسَ (إِذْ أَهْلَ مَكَةَ) وَلَوْ حَرَصْتَ عَلَى إِيمَانِهِمْ بِمُؤْمِنِينَ“ اور نہیں ہیں اکثر آدمی یعنی اہل مکہ ایمان لانے والے اگرچہ اے جبیب (علیہ السلام) آپ کو ان مکیوں کے ایمان لے آنے کی شدید بیتابی و قلبی خواہش ہے۔“

اسی آیت کریمہ کے تھوڑے فاصلے پر وہ آیت ہے جس کو صاحب ”تفویۃ الایمان“ نے مسلمانوں کو مشرک بنانے کے لئے نقل کی ہے اور اس کا غلط من گھڑت ترجمہ بھی کیا ہے جس کے ثبوت میں جلالین شریف کی تفسیری عبارت نقل کی جاتی ہے۔

”مَا يُؤْمِنُونَ اكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ حِيَثُ يَقْرُونَ بَانَهُ الْخَالقُ الرَّزَاقُ لَا وَهُمْ مُشْرِكُونَ بِهِ بَعْدَةٍ لِلأَصْنَامِ وَلَذَا كَانُوا يَقُولُونَ فِي تَلْبِيَتِهِمْ لَبِيكَ لَبِيكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبِيكَ لَا شَرِيكَ لَكَ إِلَّا شَرِيكًا هُوَ لَكَ تَمَلِكَهُ وَمَا مَلِكَهُ يَعْنُونَهَا“

بت پرستوں کی غالب اکثریت اللہ تعالیٰ کی خالقیت و رزاقیت کا اقرار تو ضرور کرتی ہے مگر اس کے ساتھ دوسروں کو بھی خدا کی خدامی میں شریک کر لیتی ہے اور اس شرک کی صورت یہ ہے کہ وہ اصنام کی پرستش کرتے ہیں۔ اسی لئے کفار مکہ ایام جامیت میں حج کے موقع پر اپنے تلبیہ میں کہتے تھے، ”اے رب میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں اے خدا میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ شریک جو تیرے لئے مخصوص ہیں تو ان شریکوں کا مالک ہے اور ان چیزوں کا بھی

جس کے وہ مالک ہیں۔“

ظاہر ہے کہ کفار کی مراد ان شریکوں سے بت ہوتی تھی۔ اس دلوک اور غیر مبہم حقیقت کے باوجود صاحب ”تفویہ الایمان“ نے کس ڈھنائی اور ناروا جسارت سے کام لے کر مسلمانوں کو مشرک بنانے کے لئے قرآن پاک کی آیت کامن گھڑت ترجمہ کر کے شرک کو مسلمانوں پر منتبط کر دیا، خداوند کریم ایسے ناخدا ترسوں کے مکروہ فریب سے مسلمانوں کو حفظ و حفاظ رکھے آمین۔

اب صاحب تفویہ الایمان کی حسب ذیل عبارت پڑھئے اور اس محو لہ آیات قرآنی کی صحت کا درج پر منظر دیکھئے اور مصنف کے جذب تحریف کی داد دیجئے۔

”رسول کا کلام حقیقیں کر لیتے تو سمجھ لیتے کہ جیسا رب خدا ﷺ کے سامنے بھی کافر لوگ ایسے ہی بائیں کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک نہ مانی اور ان پر غصہ کیا اور ان کو جھوٹا بتایا چنانچہ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ﴿يَعْدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضْرُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هُوَ لَا شَفَاعَةُ إِنَّ اللَّهَ قُلْ أَنْتُمْ اللَّهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشَرِّكُونَ﴾

(تفویہ الایمان مطبوعہ کتبخانہ اعزازیہ دیوبند صفحہ ۲)

ہم پوری دنیا نے وہ بیت کو چیلنج کرتے ہیں کہ آیت بالا سورہ یوسف میں دکھادے تو جانیں جو شخص نقل حوالہ میں اتنی غیر ذمہ دار اس ذہنیت کو راہ دے سکتا ہے اس سے بیان مطالب اور استنباط متناجی میں کسی دیانت کی کب امید کی جاسکتی ہے؟ بہر حال یہ آیت پاک سورہ یوسف میں ہے جس کا ترجمہ درج ذیل ہے۔

”اور اللہ کے سوا ایسی چیز (یعنی) بتوں کو پوچھتے ہیں جو ان کا کچھ بھلا
ن کرے اور نہ کچھ ضرر پہنچائے اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے یہاں
ہمارے سفارشی ہیں (یعنی دیندی امور میں) کیونکہ مرنے کے بعد آخرت
میں اُنھنے کا تودہ اعتقادی نہیں رکھتے تم فرماؤ کیا اللہ کو وہ بات بتاتے
ہو جو اس کے علم میں نہ آ سا تو میں ہے نہ زین میں (یعنی اس کا وجود
ہی نہیں کیونکہ ہر چیز جو موجود ہے وہ ضرور اس کے علم میں ہے اسے
پا کی اور برتری ہے اُن کے شرک سے۔“

قارئین کرام! اسماعیل دہلوی نے اپنے گراہ کن خیالات کے اثبات میں
مرقومہ بالا آیات کو پیش کیا ہے۔ ع۔ بہ میں تقاویت را از کجاست تابہ کجا، دعویٰ و
دلیل میں مطلق کوئی ہم آہنگی اور مطابقت موجود نہیں، دعویٰ کچھ دلیل کچھ۔ ایسے
میں نتیجہ سوائے گراہی کے اور کیا ہاتھ آئے گا۔

اسی طرح دعویٰ اور دلیل میں استحیب کا دروس اتما شاصفی ۱۹ پر ملاحظہ فرمائیے۔

﴿وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَنْ أَصْلَلَ مِئَنْ يَذْغُوا مِنْ ذُوْنَ اللَّهِ مَنْ لَا
يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ﴾

(ب ۲۶ سورہ احقاف)

اسماعیل صاحب ترجمہ فرماتے ہیں۔

”اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے (یعنی سورہ احقاف میں) اور کون زیادہ گراہ ہو گا
اس شخص سے کہ پکارتا ہے ورنے اللہ سے ان لوگوں کو کہنے قبول کریں
گے اس کی بات قیامت کے دن تک اور وہ اس کے پکارنے سے
غافل ہیں۔“

اس کے بعد (ف) دے کر اسماعیل دہلوی لکھتے ہیں۔

”یعنی شرک کرنے والے بڑے احمق ہیں کہ اللہ سے قادر و علیم کو
 چھوڑ کر اور وہ کو پکارتے ہیں کہ اول تو ان کا پکارنا سنتے ہی نہیں اور
 دوسرا پچھہ قدرت نہیں رکھتے اگر کوئی قیامت تک ان کو پکارے تو
 وہ پچھے نہیں کر سکتے، اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ جو بعض لوگ اگلے
 بزرگوں کو ذور ذور سے پکارتے ہیں اور اتنا ہی کہتے ہیں یا حضرت تم
 اللہ کی جناب میں دعاء کرو کہ وہ اپنی قدرت سے ہماری حاجت روا
 کرے اور پھر یوں صحیح ہیں کہ تم نے پچھہ شرک نہیں کیا اس واسطے
 کہ ان سے حاجت نہیں مانگی بلکہ دعاء کروائی ہے سو یہ بات غلط
 ہے اس واسطے کہ گواں مانگنے کی راہ سے شرک ثابت نہیں ہوتا لیکن
 پکارنے کی راہ سے ثابت ہو جاتا ہے کہ ان کو ایسا بھجو کہ ذور سے
 اور زندگی سے برابر سن لیتے ہیں بھی ان کو اس طرح سے پکارا اور
 حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ جو اللہ کے درے
 ہیں یعنی جعلوق سو وہ ان پکارنے والوں کی پکارنے سے غافل ہیں۔“

آیت بالا کی غلط تشریح و توضیح سے قطع نظر خود اس کے دلفظوں کے ترجمے
 میں مصنف کی فکر وہم نے سخت ٹھوکر کھائی ہے۔ مفسرین سلف سے لیکر آج تک کسی
 کی کتاب سے اس ترجمے کی تائید و توثیق نہیں ہوتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں
 سنت و وہابیت میں وسیع خلیج پیدا ہو جاتی ہے۔ بہر کیف وہ دو الفاظ ”ممن
 یدعوا“ اور ”من دون اللہ“ ہیں۔ اسماعیل نے یہ دعا کا ترجمہ ”پکارتا ہے“ کیا
 ہے۔ حالانکہ قرآن پاک میں اس جگہ اور عام طور سے ہر جگہ یہ دعا کا ترجمہ
 یعبد و اکیا گیا ہے اور یہ دون یعبد ون کے معنی میں آئے ہیں جس کا بالترتیب ترجمہ
 ہو گا۔ ”عبادت کرتا ہے پوچھتا ہے۔“ یا ”عبادت کریں اور پوچھیں۔“

پھر من دون اللہ کا ترجمہ اسمیں دبلوی نے ”ملوک“ کیا ہے جبکہ تمام کتب معتبرہ اور مستند قفایسر میں اس کا ترجمہ اضام و اوثان کیا گیا ہے اگر اسمیں نے ملوق کی بجائے بت مراد لیا ہوتا تو یقیناً شرک امور عالمہ کی صفت میں داخل نہیں ہوتا اور یہ دعوا کا ترجمہ ”پکارتا ہے“ ہی کرتے تو بھی شرک کے شرارے ان کی آنکھوں میں اس قدر چکا چوند پیدا نہیں کرتے۔ اور آیت کا صحیح ترجمہ ”اور کون زیادہ گمراہ ہو گا اس شخص سے جو پوچتا ہے بتوں کو اور بت ان کی اس عبادت سے غافل ہیں اور بت قیامت تک ان کی اس پرستش کا جواب نہیں دے سکتے، کر کے قرآن مجید میں تحریف معنوی سے یہاں تجھ جائے۔

یہ میرا دعویٰ مغض نہیں بلکہ اس کے بعد کی آیتیں شاہدِ عدل ہیں کہ آیت زیر بحث میں دعا بہ معنی عبادت ہے۔ چنانچہ آیات بالا سے متصل ہی یہ آیت ہے۔

﴿وَإِذَا حُشِّرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَغَذَاءٌ وَكَانُوا يَعْبَدُونَهُمْ كَافِرِينَ﴾
پوری آیت کا ترجمہ یہ ہوا کہ۔ ”اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو ایسوں کو پوچھے جو قیامت تک نہ سئے اور انہیں ان کے پوچھے جانے کی خبر تک نہیں اور جب لوگوں کا حشر ہو گا تو بت اپنے پرستاروں کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت و پوچھا کے منکر ہوں گے۔“

دیکھئے آیت کے شروع میں یہ دعا ہے اور آیت کے آخر میں عبادت ہے۔ گویا عبادت سے یہ دعوا کی تفسیر فرمادی گئی۔ اس صحیح مطلب کی توثیق مزید کے طور پر جالیں کی یہ عبارت ملاحظہ فرمائیں۔

”وَمِنْ اسْتِفْهَامَ بِمَعْنَى النَّفْيِ إِذْ لَا هُدَىٰ أَصْلَىٰ مَنْ يَدْعُوا“

يَعْدُ مِنْ دُونَ اللَّهِ أَيْ غَيْرَهُ مِنْ لَا يُسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ
 القيمة وهم الاصنام لا يجيرون عابديهم الى شئ ليس
 لونه ابدا وهم عن دعائهم عبادتهم غفلون لأنهم جماد
 لا يعقلون واذا حشر الناس كانوا اي الاصنام لهم
 لعابديهم اعداء كانوا بعبادتهم بعابديهم كفرين
 جاحدين ”

ویکھتے یہاں ”یدعوا“ کا ترجمہ ”یعبد“ ”من دون الله“ سے مراد
 اللہ کے سوائیں ”اصنام“ اور ”دعاء“ کی تفسیر عبادت کی گئی ہے۔
 سورہ احناف ہی میں اس آیت سے کچھ پہلے ارشادربانی ہے۔ تفسیر جلالین
 کے حوالے سے ملاحظہ ہو۔

”قُلْ أَرَأَيْتُمْ أَخْبَرُونِي مَا تَدْعُونَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَيْ
 الْأَصْنَامِ مَفْعُولٌ أُولُو أَرْوَاحِنِي أَخْبَرُونِي تَأكِيدًا مَا ذَا خَلَقُوا
 مَفْعُولٌ ثَانِي مِنَ الْأَرْضِ بِبَيَانِ أَمْ لَهُمْ شُرُكٌ مُشَارِكَةً فِي
 السَّمَوَاتِ مَعَ اللَّهِ أَمْ بِمَعْنَى هَمْزَةٍ انْكَارٌ اِيَّتُونِي بِكِتابٍ
 مَنْزَلٌ مِنْ قَبْلِ هَذَا الْقُرْآنَ أَوْ اِثْرَهُ بِقِيَهٖ مِنْ عِلْمٍ يُوَثِّرُ عَنْ
 الْأَوْلَيْنَ بِصَحَّةِ دُعَائِكُمْ فِي الْأَصْنَامِ إِنَّهَا تَقْرُبُ إِلَى اللَّهِ
 أَنْ كَتَمْ صَدَقَتِينِ فِي دُعَائِيْكُمْ“

یہاں بھی دیکھتے یادگارون کی تفسیر تعبدون اور من دون الله کی تفسیر اصنام
 سے کی گئی ہے اگر اسماعیل نے یہی راہ صواب اختیار کیا ہوتا تو ہرگز دنیا کے وہاں بست
 میں شرک کی اتنی گرم بازاری نہ ہوتی اور نہ تو خود تقویۃ الایمان کی تصنیف کی
 حاجت ہوتی۔

واقعیہ ہے کہ اللہ کے ماسوٰخلائق میں کسی کو معبد سمجھ کر پوجا جائے یا اس سے عقیدت و نیازمندی کا اظہار کیا جائے یقیناً و شرک ہو گا اور اس شرک میں زمین، آسمان، جن، فرشتہ، ذی روح، غیر ذی روح، دریا، پہاڑ، درخت، چاند، سورج، مردہ، زندہ ولی، نبی سب برابر ہیں۔ لیکن اللہ کے کسی بندہ مقبول انبیاء و اولیاء سے اس عقیدت کے ساتھ کہ یہ حضرات اللہ کی بخشی ہوئی طاقت و قدرت سے بہرہ در ہیں۔ استعانت کرنا، اپنی حاجتیں پیش کرنا، ان کے نام سے عرفی منت ماننا، ان کی دہائی دینا، انہیں پکارنا اور ان کی تعظیم و تکریم کرنا ہرگز ہرگز شرک نہیں بلکہ فی نفسہ بالکل جائز و محسن ہیں۔ ہاں ان میں سے کسی کو خدا سمجھ کر اپنا شفیع و وکیل اور کار ساز حقیقی مانا یقیناً شرک ہیں اور قرآن پاک میں جابجا اس مشرکانہ ذہنیت کی نذمت کی گئی ہے اور بت پرستوں کے اسی مزعومہ شفیع اور ولی کا انکار کیا گیا ہے لیکن انصاف شرط ہے یادِ دنیا کے کسی مسلمان نے کسی بھی پیر و پیغمبر کو معبد سمجھ کر اپنی مشکل گھڑیوں میں پکارا ہے۔ جب حقیقت حال یہ نہیں تو پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ مصنف تقویۃ الایمان کیوں اس قدر شرک کے آزار میں بٹلا ہیں۔

بہر حال تفسیر قرآن کے سلسلے میں مفسرین ایک اصول یہ بیان کرتے ہیں کہ بعض آیتوں بعض آیتوں کی تفسیر ہوتی ہیں، یہی حال مانع فیہ کا ہے قرآن حکیم نے کسی جگہ ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ کہا ہے تو کہیں ارشاد فرمایا ہے ﴿فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ اے غیر و هو الاصنام لشکم فیه ولكن اَعْبُدُ الَّذِينَ يَتَوَفَّكُمْ بِقَبْضٍ ارواح حکم (سورہ یونس بحولہ جالین) اسی مقام پر تھوڑی دور کے بعد ارشاد خداوندی ہے۔

”وَلَا تَدْعُ تَبْعِدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يُفْعَكَ إِنْ أَعْبَدْتَهُ، وَلَا يَضُرُّكَ إِنْ لَمْ
تَعْبُدْهُ“ (جلالین)

غور فرمائیے اسی سورہ میں ایک جگہ تبعدون من دون الله فرمایا گیا ہے اور یہیں ذرا ہٹ کر ولا تدع من دون الله فرمایا گیا ہے گویا تدع ، تبعد کے معنی میں ہے اور تدعون تبعدون کے ہم معنی ہے اس ساق نظم قرآنی کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ کہنا نامناسب نہیں کہ بالعموم تدعون تبعدون کے متراff ہے ہاں کچھ ایسے مقامات ضرور ہیں جہاں تدع و تدعون ”پکارنے کے لغوی معنی میں مستعمل ہوئے ہیں اسی طرح غالب واکثر موقع پر من دون الله اقسام و اوثان کے معنی میں آئے ہیں لیکن بعض مقامات پر من دون الله اپنے عام لغوی معنی میں مستعمل ہوا ہے جس کے تعین و تشخیص کی ضمانت قاسیر معتبرہ ہیں انہیں کی روشنی میں چند ایسے مقامات کی نشاندہی کی جاتی ہے جس سے یہ حقیقت واضح تر ہو جائے گی۔

حبيب نجرا پنی قوم کو جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

﴿وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ☆ إِنْ تَعْجَدْ مِنْ دُونَهِ الْهَمَةُ
أَنْ يُرِدُّنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقَدُونَ﴾

(سورہ یسین شریف پ ۲۳۶)

”اور مجھے کیا ہے کہاں کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اس کی طرف تمہیں پلٹنا ہے کیا اللہ کے سوا اور خدا انہر اوس لیعنی بتوں کو مجبود بناؤں کہ اگر حرم میرا کچھ براچا ہے تو ان بتوں کی سفارش میرے کچھ کام نہ آئے اور نہ بت مجھے بچا سکیں۔

اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ نے ان بنت پرستوں اور مشرکوں کا رد فرمایا ہے جو بتوں کو اپنا معبود نجات دہنہ اور سفارشی صحیح تھے پھر اتفاف یہ کہ یہ بنت بھی خود ان بنت پرستوں کے ہاتھوں کے تراشیدہ ہیں جو بالکل جامد ولا یعقل ہیں جو خود عاجز و مجبور ہو وہ دوسروں کو کیا نفع پہنچا سکتا ہے۔

یہ آیت اور اس قبیل کی دیگر آیتیں جو بتوں اور بنت پرستوں کے رد میں نازل ہوئی ہیں ان کا مسلمانوں کے خالص مومانا نہ عقائد سے کیا رشتہ! مگر تقویۃ الایمان کے ناعاقبت اندیش مصنف نے ان تمام آیات کو مسلمانوں پر چھپا کر کے شرک کا پرچم دنیا نے وہابیت میں لہرا دیا ہے اور آج اسی کے سامنے میں ان کی پوری ذریت معنوی روایت دواں ہے۔ بھلا سوچنے کی بات ہے کہ انہیاء، اولیاء شہداء و صالحین جنہیں خدا نے قادر و قیوم نے بیٹھار انعامات و اکرامات سے نوازے ہے اور جنہیں روحانی تصرفات سے متصف فرمایا ہے۔ بھی نہیں ان بندگان مقرب کو اللہ نے اپنی نشانیاں اور اسلام کی صداقت کی دلیلیں قرار دی ہیں۔ ان سب بزرگوں کو بتوں کی صفت میں لا کھڑا کرنا اور ان کی نیاز مندوں کو بت پرستوں اور مشرکوں کے زمرہ میں داخل کرنا کتنی صریح بد ویانتی اور عکیں ضلالت ہے۔ مولوی اسماعیل دہلوی اور ان کے پیش روا آئندہ کفر و ضلالت نے انہیاء مسلمین اور اولیاء و مشائخین کے دامان تقدس کو جس طرح تاریک راہ پر گامزن نظر آ رہے ہیں۔ ہے آج بھی ان کے کچھ مقلدین اسی تیرہ و تاریک راہ پر گامزن نظر آ رہے ہیں۔ مولا نے کریم ہر مسلمان کو ان کے مکروہ سے محفوظ رکھے۔

﴿ وَاتَّخِذُو مِنْ ذُؤْنَ اللَّهِ الَّهُ لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُوْنَ لَا يَسْتَطِيغُوْنَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّخْضُرُوْنَ ﴾
(سورہ یسین شریف ص ۲۳ رجوع ۳)

اس آیت پاک کا مطلب خیز ترجمہ یہ ہے کہ ”اور انہوں نے اللہ کے سوا اور خدا نہ ہرائے یعنی بتوں کو پوچھنے لگے کہ شاید ان کی مدد ہو اور مصیبت کے وقت کام آئیں اور عذاب سے بچائیں اور ایسا ممکن نہیں وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے کیونکہ بت، جہاد، بے جان اور عاجز ہیں اور ان کے سب لشکر گرفقار حاضر آئیں گے یعنی کافروں کے ساتھ ان کے بت بھی گرفقار کر کے حاضر کئے جائیں گے اور سب جہنم میں داخل ہوں گے بت بھی اور ان کے پچاری بھی۔

﴿ أَخْسِرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْزَوا جَهَنَّمُ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ☆ مِنْ ذُوْنِ اللَّهِ فَاهْدُؤُهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴾ (سورہ الصفت پ ۲۳ رکوع ۱)

یہاں ارشادِ رباني یہ ہے کہ ہائکوں ظالموں اور ان کے جزوؤں کو (”ظالموں“ سے مراد ”کافر“ ہیں اور ان کے ”جوڑوں“ سے مراد ان کے شیطان ہیں جو دنیا میں ان کے جلیں و قریں رہتے تھے ہر ایک کافر اپنے شیاطین کے ساتھ ایک ہی زنجیر میں جکڑ دیا جائے گا) اور جو کچھ وہ پوچھتے تھے اللہ کے سواب توں کو ان سب کو راہِ دوزخ کی طرف ہاغو۔

یہاں بھی بتوں کی معبودیت کے اعتقاد کا اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا ہے۔ اس آیت کو مسلمانوں کے بزرگوں کے ساتھ نیاز مندانہ طرز فکر سے کوئی نسبت نہیں۔

﴿ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ ☆ أَتَذَعَّنُ بَعْلًا وَتَذَرُّوْنَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ☆ اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ☆ ﴾ (سورہ الصفت پ ۲۳ رکوع ۳)

اور جب حضرت الیاس نے اپنی قوم سے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں اور تمہیں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں کہ بعل بت کو پوچھتے ہو (بعل ان کے بت کا نام تھا جو

سو نے کا تھا اس کی لمبائی میں گز تھی چار منٹ تھے اس کی بہت تعظیم کرتے تھے جس مقام پر وہ تھا اس جگہ کا نام بک تھا سی لئے بعلبک مرکب ہوا یہ بلا دشام میں ہے) اور چھوڑتے ہو سب سے اچھا پیدا کرنے والے کو جو تمہارے اگلے آبا و اجداد کا رب ہے۔

﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ ذُوْنَهُ أُولَيَاءَ مَا نَعْدُهُمْ إِلَّا لِيُقْرِبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفِيٰ﴾
(سورہ الزمر ب ۲۳ رکوع)

اور جنہوں نے اس کے سوا اور والی بنائے یعنی معبد مٹھرا لئے (مراد ان لوگوں سے بت پرست ہیں یہ تو انہیں یعنی بتوں کو صرف اتنی بات کے لئے پوچھتے ہیں یہ میں اللہ کے نزدیک کر دیں۔

اس آیت کریمہ کو صاحب تقویۃ الایمان نے بھی نقل کیا ہے اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ آیت کھلے طور پر بت پرستوں کے عقیدے کے روکے لئے اتری ہے زبردستی مسلمانوں پر منطبق کر دیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کافروں کے اس جھوٹے عذر کا رد کیا ہے کہ ہم تو غیر خدا کی پرستش اس لئے کرتے ہیں کہ یہ بت جو میرے اولیاء ہیں وہ مجھے اللہ کے نزدیک کر دیں گے حالانکہ اللہ سے نفرت حاصل کرنے کے لئے کسی اور کو خدا بناتا اس کا پوجتا بالکل لغوا و شرارت کی باتیں ہیں۔

﴿قُلِ اللَّهُ أَعْبُدُ مُحْلِصًا لَهُ، دِينِي فَاعْبُدُو مَا يُشْتَهِمُ مِنْ ذُوْنَهُ﴾
(سورہ زمر ، ۲۳)

تم فرماؤ میں اللہ تھی کو پوجتا ہوں خالص اس کا بندہ ہو کر تو تم اس کے سوابنے چاہو پوجو۔

اس آیت مقدسہ میں اللہ عزوجل عبادت کا اختصاص صرف اپنی ذاتِ کریم کے لئے فرمائہ ہے اس لئے اپنے مومن بندوں سے ارشاد فرماتا ہے اعلان کر دو میں صرف خدا کی عبادت کرتا ہوں اور کفار کو بطور تہذیب و توبیخ کہہ دو کہ تم اللہ کے سوا جسے چاہو پوجو، اس کا انجام تم کو قیامت کے دن معلوم ہو جائے گا۔ یہاں اعلان عام ہے اللہ کے سوانحی، ولی، پیغمبر، فرشتے، درخت، پتھر، مردے زندے، دریا، پہاڑ جس کی بھی پوجا کی جائے گی اور اس کو مستحق عبادت سمجھا جائے گا اور اس کو واجب الوجود اور مستحق عبادت کا اعتقاد کسی کے لئے نہ ہو بلکہ صرف اللہ ہی کی دلی ہوئی طاقت سے بہرہ و رسمجھ کر اللہ کے مقرب بندوں سے استعانت کی جائے تو یہ بالکل جائز اور خالص دائرہ توحید کے اندر ہے اور اس اعتقاد کو شرک سے کوئی نسبت و لگاؤ نہ کبھی تھا اور نہ کبھی ہو گا۔

مختصر یہ کہ بلا دلیل شرعی کسی گناہ کی نسبت کسی مسلمان کی طرف کرنا شریعت میں حرام ہے چہ جائیکہ مسلمانوں کے سر غیر اللہ کی پرستش کا الزام ڈال کر مشرک قرار دینا اشد گناہ اور سنگین جرم ہے۔ امام الوبابیہ فی الہند مولوی اسماعیل دہلوی اور ان کے حواریں صحیح قیامت تک ثابت نہیں کر سکتے کہ مسلمان اللہ کے سوا کسی بزرگ و برتر ہستی کے بارے میں مشرکانہ عقائد کے حامل ہیں انہیں مستحق عبادت اور واجب الوجود سمجھتے ہیں۔ کتب عقائد میں شرک کی یہی تعریف کی گئی ہے کہ کسی انسان کے مشرک ہونے کی دو ہی صورتیں ہیں۔ غیر خدا کو لائق عبادت جانتا خواہ اس کی عبادت کرے یا نہ کرے دوسرے کسی کو خدا کی ذات یا صفات میں شریک سمجھتا، اور جب مسلمانوں کا اعتقاد کسی کے بارے میں یہ نہیں ہے تو پھر اس کے ہر کام پر کفر و شرک کا فتویٰ صادر کرنا اسی کا کام ہو گا۔ جو مسلمانوں کو کافر و مشرک

بنانے کا شوقیں ہو۔

مصنف تقویۃ الایمان نے اپنے خیالات فاسدہ کی تائید میں جن آئیوں کو مستدلہ مان کر غلط تعبیر و توضیح کی تھی ان کا تفصیلی جائزہ سطور بالا میں پیش کر دیا گیا ہے جو کچھ طویل ہو گئے ہیں کچھ ان حدیثوں پر بھی اظہار خیال ضروری تھا جن کو اسماعیل دہلوی نے غلط طور پر شرک کے معنی میں مستعمل کیا ہے۔ مثلاً۔ فصل اشراک فی العلم و اشراک فی العبادۃ وغیرہ ان فضلوں میں بار بار ایک ہی خیال کی تکرار کی گئی ہے۔ خوف طوالت عناء گیرنہ ہوتا تو ثابت کر دیا جاتا کہ ان کے دعوے اور ان منقولہ حدیثوں میں کوئی نسبت نہیں مصنف نے یہاں بھی استنباط نتائج میں سخت ٹھوکر کھائی ہے۔ ان شاء اللہ آئندہ حسب موضع اس کی دوسری قسط پیش کی جائے گی۔

وما علینا الا البلاغ

﴿إِنَّا لَا تُرِّخُ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا وَهُبْ لَنَا مِنْ لُدُنْكَ رَحْمَةٌ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ ﴾

والسلام على من التبع الهدى

(مولانا سید الزمان صاحب مظفر بوری)



﴿امکان کذب کا فتنہ﴾

جموٹ ایک ایسا عیب ہے جس سے سمجھی لوگ انفرت کرتے ہیں یہاں تک کہ خود جھوٹ آدمی سمجھی جھوٹ کو براہی جانتا ہے چنانچہ اگر بھری محفل میں اس کا جھوٹا ہونا ظاہر کر دیا جائے تو وہ چڑھے گا جھنجلائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جھوٹ بولنا بڑا چھپورا کام ہے لیکن محترم قارئین کو یہ جان کر خست حیرت ہو گی کہ وہاں نہ ہب نے سبُوْخ قُدُّوس رَبُّ الْعِزَّة جَلَّ شَانَه کے حق میں جھوٹ بولنا جائز قرار دیا ہے۔

امکان کذب الہی کا فتنہ سب سے پہلے ملائے دہلوی اتعلیل نے ایک اعتراض کے جواب میں کھڑا کیا، واقعہ یوں ہے کہ قدیم زمانے سے مسلمانوں کا یہ اعتقاد چلا آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سرکارِ مصطفیٰ خاتم الانبیاء ﷺ کو بے مثل پیدا فرمایا ہے حضور کا مثل ہونا محال ہے۔ دہلوی اتعلیل دہلوی نے اس اعتقاد کی مخالفت کرتے ہوئے یہ بیان عقیدہ پیدا کیا کہ پیدا ہو سکتے ہیں اس پر اس زمانے کے علمائے اسلام نے اعتراض کیا کہ حضور کا مثل کیونکر ممکن ہے جب کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے حق میں فرمادیا۔

﴿وَلَكُنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّنَ﴾

یعنی پیارے مصطفیٰ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔

تو اب حضور کا مثل بزرگ ممکن نہیں۔

تو پسح اس مقام کی یہ ہے کہ ختم نبوت کا وصف شرکت قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا جس کا معنی یہ ہے کہ آخری نبی صرف ایک ہی شخص ہو سکتا ہے

کسی دوسرے کا آخری نبی ہونا عقلًا محال بالذات ہے اب رہی یہ بات کہ وہ ایک شخص کون ہے جس کو ختم نبوت کا تاج پہنایا گیا تو اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے خبر دی کہ وہ ایک شخص پیارے محبِ علیہ السلام ہے جنہیں آخری نبی پہنایا گیا تو خود رب العزة جل جلالہ نے حضور کو خاتم النبیین کہہ کر خبر دے دی کہ میرے مصطفیٰ کامش ممکن نہیں بلکہ محال بالذات ہے۔ سابق علمائے اسلام نے یہی اعتراض مولوی اسماعیل دہلوی پر کیا کہ تم جو حضور کا مثل ممکن بتاتے ہو تو اس سے خبر الہی کا جھوٹا ہونا لازم آ رہا ہے لیکن چونکہ خبر الہی کا جھوٹا ہونا بالاتفاق محال ہے ہرگز ممکن نہیں اس لئے سرکار مصطفیٰ علیہ السلام کا مثل بھی ہرگز ممکن نہیں، اس اعتراض کے جواب میں ملا اسماعیل دہلوی نے امکان کذب الہی کا فتنہ کھڑا کیا اور مسلمانوں میں یہ کفری عقیدہ پھیلایا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ، کا جھوٹ بولنا ممکن ہے محال نہیں ہے۔

(نعوذ بالله تعالیٰ من ذلك)

آیت کریمہ ﴿ وَلِكُنْ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ﴾ کے بارے میں ملا دہلوی نے یہ جواب دیا۔

بعد اخبار ممکن ست کا ایشان را فراموش گردانیدہ شود پس قول با مکان
وجود مثل اصلان مجری کلندیب نصے از نصوص نگردد۔

(یکروزی بحوالہ سجن المسیح ص ۶۷)

یعنی اللہ تعالیٰ نے جو آیت کریمہ میں حضور کے خاتم الانبیاء ہونے کی خبر دی ہے تو اس خبر دینے کے بعد ممکن ہے کہ یہ آیت لوگوں کو بھلا دی جائے لہذا حضور کا مثل پائے جانے کو ممکن کہنا اس سے کسی آیت قرآن کو جھٹانا لازم نہیں آتا۔

ملائے دہلوی کے جواب کا معنی یہ ہے کہ جب سرکار مصطفیٰ ﷺ کا مثل پیدا ہوگا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ خاتم النبین والی آیت کریمہ لوگوں کے دل سے بھلا دے گا اور جب آیت کریمہ کسی کو یاد ہی نہ رہ جائے گی تو خبر الہی کو کون جھٹلائے گا۔ حاصل جواب یہ ہے کہ امام وہابیہ مولوی اسماعیل کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی خبر جھوٹا ہونا درست ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہاں اس بات میں حرج ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کے کذب پر آگاہ ہو جائیں اس حرج سے بچنے کے لئے اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتوں کو بندوں کے دل سے بھلا دے گا معاذ اللہ رب العالمین یہ ہے باطل کفری عقیدہ وہابیوں کا۔

مسلمان کہلانے کا تقاضا تو یہ تھا کہ مولوی اسماعیل دہلوی سرکار مصطفیٰ ﷺ کی افضلیت پر حملہ نہ کرتے اور اس بات پر ایمان لاتے کہ ختم نبوت کے وصف میں سرکار کا مثل نظریہ حال بالذات ہے لیکن وہ اگر شیطان کے بہکانے سے بہک گئے تھے تو علمائے اسلام کے ٹوکنے پر تو ان کو سنبھل ہی جانا چاہئے تھا مگر برا ہو پندرہ علم کا جس نے ان کو ایک دوسرے کفری عقیدہ کی طرف دھکیل دیا۔ یعنی امکان نظریہ کے اعتقاد باطل نے ان کو امکان کذب الہی کا معتقد بنایا چنانچہ انہوں نے خاص مسئلہ امکان کذب کے ثبوت میں ایک کتاب مکروہی لکھ کر امت میں ایک فتنہ عظیم کھڑا کر دیا، اس کتاب کے دلائل کا حال یہ ہے کہ جس طرح ایک جھوٹی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لئے دسویں جھوٹ گڑھنا پڑتا ہے ٹھیک اسی طرح اللہ رب العزة کا کذب ثابت کرنے کے لئے ان کو ایسی ایسی دلیلیں گڑھنی پڑیں جو سیکھروں کفریات کا پڑا رہیں۔ جس کو اس کا مشاہدہ کرنا ہو وہ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس تصنیف سجیں السیوح ص ۳۲ تا ص ۲۹ کا

مطالعہ کرے۔

بہت سے سادہ لوح حضرات کا گمان ہے کہ سنت اور وہابیت کے درمیان صرف چند فروعی امور میں اختلاف ہے لیکن یہ گمان شدید غلط ہے کیونکہ سنت وہابیت کا اختلاف فروعی امور میں ہونے کے ساتھ ساتھ بنیادی مسائل میں بھی ہے یہاں تک کہ خود ایمان باللہ کے مسئلہ میں ہمارا اور وہابیوں کا شدید بنیادی اختلاف ہے چنانچہ ہم اللہ تعالیٰ کے حق میں یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اس کا صدق از لا اوابد اواجب ہے لہذا اس کا کذب ممکن نہیں بلکہ محال بالذات اور وہابی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کذب ممکن ہے لہذا صدق واجب نہیں، اور یہ بالکل ظاہر بات ہے کہ وجوب صدق کا عقیدہ اور امکان کذب کا عقیدہ ان دونوں میں قطعی بنیادی اختلاف ہے۔ اس لئے ثابت ہو گیا کہ ایمان باللہ کے مسئلہ میں ہمارا اور وہابیوں کا تنگین بنیادی اختلاف ہے۔

یوں تو جس مسلمان کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) پر ایمان ہے اس کا فطری طور پر یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزة جل جلالہ، کا جھوٹا ہونا ہرگز ہرگز ممکن نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے از لا صادق رہا اور ہے اور ابد تک صادق رہے گا۔ تو کذب کے امکان کی جڑ تو نہیں سے کٹ گئی لیکن چونکہ وہابیوں نے اسلامی عقیدہ کے نام سے مسلمانوں میں یہ فتنہ پھیلا رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹا تو نہیں مگر اس کا جھوٹا ہونا ممکن ہے اس لئے ہم سادہ لوح مسلمانوں کے اطمینان کی خاطر عقائد اسلامیہ کی قدیم کتابوں سے چند حوالے ذیل میں تحریر کرتے ہیں

شرح مقاصد میں ہے۔

”الکذب محال باجماع العلماء لان الکذب نقص باتفاق العقلاء وهو
علی الله تعالیٰ محال“
(بحوالہ سیحن السووح ص ۱۰)

یعنی اللہ تعالیٰ کا کذب باجماع علماء محال ہے اس لئے کہ وہ باتفاق عقلاء
عیب ہے اور عیب اللہ تعالیٰ پر محال ہے۔
☆ شرح عقائد نعمتی میں ہے۔

”کذب کلام الله تعالیٰ محال“
(بحوالہ سیحن السووح ص ۱۰)
یعنی کلام الہی کا جھوٹا ہونا ممکن نہیں۔

☆ طوایع الانوار میں ہے۔

”الکذب نقص والنقص علی الله تعالیٰ محال“

(بحوالہ سیحن السووح ص ۱۰)

یعنی جھوٹ عیب ہے اور عیب اللہ تعالیٰ پر محال ہے۔
☆ مواقف کی بحث کلام میں ہے۔

”انہ تعالیٰ یمتنع علیه الکذب اتفاقا اما عند المعتزلہ فلا ان الکذب
قبیح وهو سبحانہ تعالیٰ لا یفعل القبیح واما عندنا فلانہ نقص والنقص
علی الله تعالیٰ محال اجماعاً“
(سبحان السووح ص ۱۰)

یعنی اہل سنت اور معتزلہ سب کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جھوٹ ممکن نہیں
محال ہے معتزلہ تو اس لئے محال کہتے ہیں کہ جھوٹ برائے اور اللہ تعالیٰ برافعل نہیں
کرتا اور ہم اہل سنت کے نزدیک اس دلیل سے ناممکن ہے کہ جھوٹ عیب ہے اور
ہر عیب اللہ تعالیٰ پر بالا جماعت محال ہے۔

☆ امام محقق علی الاطلاق کمال الدین محمد علیہ الرحمہ مسایرہ میں فرماتے ہیں۔

”یستحیل علیه تعالیٰ سمات النقص کالجهل والکذب“

(سخن السوح ص ۱۱)

یعنی چنی نشانیاں عیب کی ہیں جیسے جبل و کذب وہ سب اللہ تعالیٰ پر محال ہیں۔

☆ علامہ کمال الدین محمد بن ابی شریف مسامرہ میں فرماتے ہیں۔

”لاخلاف بین الاشعریة وغيرهم فی ان کل ما کان وصف نقص

فالباری تعالیٰ عنہ منزہ و هو محال علیہ تعالیٰ والکذب وصف نقص“

(سخن السوح ص ۱۱)

یعنی اشاعرہ اور غیر اشاعرہ کسی کو اس میں اختلاف نہیں کہ جو کچھ صفت عیب

ہے باری تعالیٰ اس سے پاک ہے اور وہ اللہ تعالیٰ پر ممکن نہیں اور کذب صفت

عیب ہے۔

☆ کنز الفوائد میں ہے۔

”قدس تعالیٰ شانہ عن الکذب شرعاً و عقلاً اذ هو قبح يدرک العقل

QBH من غیر توقف على شرع فيكون معحال في حقه تعالیٰ عقلاً و

شرعاً كما حرقه ابن الہمام وغيره“ (سخن السوح ص ۱۲)

یعنی بحکم شرع و بحکم عقل ہر طرح اللہ تعالیٰ کذب سے پاک مانا گیا ہے اس

لئے کہ کذب فتنج عقلی ہے کہ عقل خود بھی اس کے فتح کو مانتی ہے بغیر اس کے کہ اس

کا پہچاننا شرع پر موقوف ہو تو جھوٹ بولنا اللہ تعالیٰ کے حق میں عقلاء و شرعاً ہر طرح

محال ہے جیسے کہ امام ابن الہمام وغیرہ نے اس مسئلہ کی تحقیق افادہ فرمائی۔

☆ علامہ جلال دوائی شرح عقائد میں لکھتے ہیں۔

”الکذب علیه تعالیٰ محال لا تشمله القدرة“ (سخن السوح)

یعنی اللہ تعالیٰ کا جھوٹا ہونا محال ہے قدرت الہی میں داخل نہیں۔

☆ شرع عقائد جلالی میں ہے۔

"الکذب نقص والنقص عليه محال فلا يكون من الممكناط ولا تشمله القدرة كسائر وجوه النقص عليه تعالى كالجهل والعجز"

(سخن السوح ص ۱۲)

تجھوت عیب ہے اور عیب اللہ تعالیٰ پر محال تو اللہ تعالیٰ کا جھوٹ ممکن نہیں نہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اسے شامل جیسے تمام اسباب عیب مثل جبل و بجز الہی کے سب محال میں اور صلاحیت قدرت سے خارج۔

ہم اختصار کی خاطرات نئے ہی حوالوں پر بس کرتے ہیں جس کو مزید بائیس نصوص آئندہ اور تیس دلیل قاہر دیکھنے کا شوق ہو وہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصنیف سلجن السیوح کا مطالعہ کرے، وہاں پر اپنی عقیدہ امکان کذب کی حمایت میں جن مغالط آمیز دلائل سے کام لیتے ہیں ذیل میں ان کا بطلان پیش کیا جا رہا ہے۔

☆ امکان کذب کے ثبوت میں عام وہابی دیوبندی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ یعنی بیشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور چونکہ جھوٹ بھی ایک چیز ہے لہذا وہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے اور جب جھوٹ بولنے پر قادر ہے تو اس کے لئے جھوٹ بولنا ممکن ہوا۔

جواب: جب وہابیوں کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا جھوٹ بولنا ممکن ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا پہلا جھوٹ بھی کلام یعنی ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ہو تو پھر اس کلام کو دلیل میں پیش کرنا کیونکہ صحیح ہو گا۔ دوسرا فولادی حقیقی جواب یہ ہے کہ

کذب الہی عیوب ہے اور ہر عیوب اللہ تعالیٰ کے لئے محال بالذات ہے لہذا کذب الہی محال بالذات ہے اور کوئی محال بالذات ممکن نہیں ثابت ہوا کہ کذب الہی ممکن نہیں پھر ذات باری تعالیٰ کو جھوٹ پر قادر کہنا یہ وہاں پول کا سخت ترین مغالطہ ہے کیونکہ کذب الہی محال بالذات ہے اور کوئی محال بالذات زیر قدرت نہیں لہذا کذب الہی زیر قدرت نہیں تو پھر کذب الہی کو زیر قدرت بتا کر امکان کذب کو ثابت کرنا وجہل و فریب نہیں تو اور کیا ہے۔

جاننا چاہئے کہ مفہوم کی تین قسم ہے۔ واجب، ممکن، محال۔

واجب: وہ مفہوم ہے جس کا وجود ضروری ہو جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات ممکن: وہ مفہوم ہے جس کا نہ وجود ضروری ہو نہ عدم مثلاً عالم اور عالم کی چیزیں۔ محال: وہ مفہوم ہے جس کا عدم ضروری ہو جیسے اللہ تعالیٰ کا کذب، جہل، بعزم، اور جیسے دوسرا خدا ہوتا۔

واضح ہو کہ زیر قدرت الہی صرف ممکنات ہیں واجب اور محال زیر قدرت نہیں۔

شرح مقاصد میں ہے۔

"لاشی من الواجب والممتنع بمقدور" (سحن السوح ص ۷)

واجب اور محال ہرگز زیر قدرت نہیں۔

شرح موافق میں ہے۔

"علمه تعالیٰ یعنی المفہومات کلہا الممکنة والواجبة والممتنعة فهو اعم من القدرة لأنها تختص بالممکنات دون الواجبات والممتنعات" (سحن السوح ص ۷)

یعنی علم الہی ممکن، واجب اور محال سب مفہوم کو شامل ہے تو وہ قدرت الہی سے عام

ہے کیونکہ قدرت الہی صرف ممکنات ہی سے متعلق ہے واجبات اور محالات سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہے۔

حوالہ جات مذکورہ بالا سے واضح ہو گیا کہ ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ میں کل شی سے مراد کل ممکن ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر ممکن پر قادر ہے اور جب اللہ تعالیٰ کا جھوٹ بولنا محال ہے تو وہ زیر قدرت نہیں اور جب وہ زیر قدرت نہیں تو ہرگز ہرگز ممکن نہیں، اب ہم اس مقام پر وہابیوں سے ان کے اس مغالطہ آمیز استدلال کے پیش نظر ایک سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے یا نہیں کہ شیطان کو وہابیوں کا خدا بناوے اگر کہو کہ اللہ تعالیٰ قادر نہیں تو تم ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ کا انکار کر کے کھلم کھلا کافر ہو گئے اور اگر کہو کہ شیطان، قدرت الہی سے وہابیوں کا خدا ہو سکتا ہے تو تم وحدانیت کا انکار کر کے کھلے عام مرتد ہو گئے۔ بولو! ہے کوئی وہابیوں میں دم خم والا جو وہابی مذہب کو برقرار رکھتے ہوئے اس سوال کا جواب دے سکے۔

☆ وہابی کہتے ہیں کہ انسان کو جھوٹ بولنے پر قدرت ہے تو اگر اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر نہ ہو تو قدرت انسانی، قدرت ربائی سے بڑھ جائے گی اور یہ محال ہے کہ قدرت انسانی، قدرت ربائی سے بڑھ جائے۔ لہذا ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے لئے جھوٹ بولنا ممکن ہے۔

جواب : اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے۔ ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ یعنی تم اور جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ ہی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ اہل سنت کا ایمان ہے کہ انسان اور اس کے تمام اعمال، اقوال، احوال، اوصاف سب اللہ عزوجل کے پیدا کئے ہوئے ہیں انسان کو صرف کسب پر ایک گون اختیار ملا ہے

لیکن اس کے سارے کام مولیٰ عزوجل ہی کی بچی قدرت سے واقع ہوتے ہیں۔ آدمی کی کیا طاقت کہ بے ارادہ الہی کے پلک مار سکے، انسان کا صدق و کذب، کفر و ایمان، طاعت و عصيان جو کچھ ہے سب کو اسی قادر مطلق جل جلالہ، نے پیدا کیا ہے تو جب انسان کا جھوٹ بولنا، کفر کرنا، فرق کرنا، بندگی کرنا سب اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت سے واقع ہوتا ہے تو پھر قدرت ربائی سے قدرت انسانی کیونکہ بڑھ سکتی ہے اور ہی یہ بات کہ اگر کذب الہی پر خدا تعالیٰ قادر نہ ہوگا تو قدرت ربائی گھٹ جائے گی تو ایسا سوچنا صرف بد دماغ وہابی کا کام ہو سکتا ہے اس لئے کہ کذب الہی محال اور غیر ممکن ہے اور کوئی محال زیر قدرت نہیں اور کذب الہی جب زیر قدرت نہیں تو قدرت گھٹنے کی کیا بات ہے؟

اس مقام پر پھر ہم وہابیوں سے ایک سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص کہتا ہے کہ بہت سے انسان اس بات پر قادر ہیں کہ وہ پتھر کی مورتی بنا کر اس کو اپنا معبود قرار دیں اور صبح شام اس کی پوچھ کریں تو اگر خدا، پتھر کی مورتی کو اپنا معبود قرار دیکر صبح و شام اس کی پوچھ پر قادر نہ ہو تو قدرت انسانی، قدرت ربائی سے بڑھ جائے گی اور چونکہ قدرت انسانی کا قدرت ربائی سے بڑھ جانا محال ہے لہذا ثابت ہوا کہ خدا کا پتھر کی مورتی کو اپنا معبود قرار دینا ممکن ہے۔ بولو! ہے کوئی وہابیوں میں ہمت والا جو وہابی مذہب کو باقی رکھتے ہوئے اس ممکن کو ختم کر دے۔

☆ وہابی کہتے ہیں کہ مشکلین کے نزدیک یہ قاعدہ کلیہ مسلم ہے کہ کل ما ہو مقدر للعبد مقدر للہ یعنی ہر وہ کام جو بندہ اپنے لئے کر سکتا ہے خدا بھی اپنے لئے کر سکتا ہے تو جب آدمی جھوٹ بول سکتا ہے تو خدا بھی جھوٹ بول سکتا ہے کیونکہ اگر خدا جھوٹ نہ بول سکے تو ایک کام ایسا نکلا کہ آدمی تو کر سکتا ہے اور خدا

نہیں کر سکتا اور یہ ظاہر بات ہے کہ خدا کی قدرت بے انہا ہے لہذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کام کو آدمی کر سکے اس لئے ثابت ہوا کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے اس کا جھوٹا ممکن ہے۔

جواب : معاذ اللہ رب العلمین سبحان اللہ عما یصفون بیشک قاعدة کلیہ حق ہے لیکن وہابی اس کے جو معنی بیان کرتے ہیں وہ صریح غلط ہونے کے ساتھ کھلا کفر بھی ہے قاعدة کلیہ کا صحیح معنی یہ ہے کہ بندہ جس چیز کے کسب پر قادر ہے اللہ تعالیٰ اس کے پیدا کرنے پر قادر ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ بندہ کا ہر کام اللہ تعالیٰ کے خلق و ایجاد ہی سے واقع ہوتا ہے محترم فارسین بھی ملاحظہ فرمائیں کہ قاعدة کلیہ کو امکان کذب سے کیا تعلق ہے؟ لیکن جب وہابیوں کے نزدیک یہی طے ہے کہ ہر وہ کام جو بندہ اپنے لئے کر سکتا ہے خدا بھی اپنے لئے کر سکتا ہے تو ان کے مذهب پر لازم آتا ہے کہ

(الف) انسان قادر ہے کہ اپنے خدا کی تسبیح کرے تو ضرور ہے کہ وہابیہ کا خدا بھی قادر ہو کر اپنے خدا کی تسبیح کرے ورنہ ایک کام ایسا نکلا کہ بندہ تو کر سکے اور خدا نہ کر سکے۔

(ب) آدمی قادر ہے کہ اپنی ماں کی تواضع و خدمت کیلئے تکوں پر اپنی آنکھیں ملے اپنے باپ کی تعظیم کیلئے اس کے جوتے اپنے سر پر رکھ کر چلے تو ضرور ہے کہ وہابیہ کا خدا بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسی تعظیم و تواضع پر قادر ہو ورنہ ایک کام ایسا نکلا کہ بندہ تو کر سکے اور خدا نہ کر سکے۔

(ج) آدمی قادر ہے کہ پرایا مال چراچھپا کر اپنے قبضہ میں کر لے تو ضرور ہے کہ وہابیہ کا خدا بھی دوسرے کی مملوک چیز چرا لینے پر قادر ہو ورنہ ایک کام ایسا نکلا کہ

آدمی تو کر سکے اور خدا نہ کر سکے۔

(۲) آدمی قادر ہے کہ اپنے خدا کی نافرمانی کرے تو ضرور ہے کہ وہابیہ کا خدا بھی اپنے خدا کی نافرمانی پر قادر ہو ورنہ ایک کام ایسا نکلا کہ آدمی تو کر سکے اور خدا نہ کر سکے، اب وہابی یا تو اقرار کریں کہ خدا کے لئے دوسرا خدا ہوتا، اور خدا کے ماں باپ ہونا ممکن ہے ورنہ عقیدہ امکان کذب الہی سے توبہ کریں۔

☆ ملارشید احمد گنگوہی نے براہین قاطعہ ص ۳ میں لکھا ہے کہ ”امکان کذب کا مسئلہ تواب جدید کسی نے نہیں نکالا بلکہ قدماء میں اختلاف ہوا ہے کہ خلف و عید آیا جائز ہے یا نہیں؟ رد المحتار میں ہے۔

”هل يجوز الخلف في الوعيد فظاهر ما في المواقف والمقاصد ان الاشاعرة قائلون بجوازه“

پس اس پر طعن کرنا پہلے مشائیخ پر طعن کرنا ہے اور اس پر تعجب کرنا محض علمی اور امکان کذب خلف و عید کی فرع ہے۔“

جواب: محترم قارئین! پہلے آپ ملارشید کی مراد سمجھنے کی کوشش کریں، واقعہ یوں ہے کہ ضلع سہارپور کے حضرت مولانا عبدالسیع رامپوری نے امکان کذب کے خلاف اپنے صدمہ کا اظہار کرتے ہوئے انوار ساطعہ میں لکھا تھا کہ ”کوئی جناب باری عز اسمہ کو امکان کذب کا دھبا لگاتا ہے“ اس کے جواب میں گنگوہی جی فرماتے ہیں کہ خدائے تعالیٰ کو بالا مکان جھوٹا کہنا یہ تو کوئی نبی بات نہیں اگے زمانے کے بعض علمائے اسلام بھی تو خدا کے لئے جھوٹ بولنا ممکن بتائے گئے ہیں دیکھو اشاعرة اہل سنت خلف و عید کے قائل ہیں اور امکان کذب خلف و عید کی یہ

قسم ہے لہذا امکان کذب پر اعتراض کرنا اگلے زمانے کے علمائے دین پر اعتراض کرنا ہے۔ افسوس اور ہزار افسوس کہ گنگوہی جیسا وہابیوں کا شیخ ربانی جب اتنی تگین افتراضی اور بہتان طرزی کر سکتا ہے تو چھوٹے چھوٹے وہابی ملاوں کا کیا حال ہوگا۔ یہ حقیقت ہے کہ باطل عقائد کا طرفدار خود انداھا ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی اپنے جیسا اندھا سمجھتا ہے میشک اہل سنت کے بعض علماء خلف وعید کے ضرور قائل ہیں مگر اس کے ساتھ وہی علماء امکان کذب الہی کے عقیدہ کی سخت مخالفت کرتے ہیں پھر ان کو امکان کذب کا قائل بتانا کتنا سفید جھوٹ اور کس قدر تگین بہتان ہے۔

جس موافق میں ہے۔ لا بعد الخلف فی الوعید نقصاً یعنی خلف وعید عیب نہیں شمار کیا جاتا۔ اسی موافق میں ہے۔ انه تعالیٰ یمتع علیہ الكذب اتفاقاً یعنی باری تعالیٰ کا کذب بالاتفاق محال ہے۔ جس شرح طوالع میں ہے۔ الخلف فی الوعید حسن یعنی خلف وعید (مزامعاف کر دینا) ایک اچھی بات ہے۔ اسی شرح طوالع میں ہے۔ الكذب على الله تعالى محال ۲ یعنی اللہ تعالیٰ کا کذب محال ہے۔ جس علامہ جلال دوائی نے شرح عقائد جلالی میں لکھا ہے۔

”ذهب بعض العلماء الى ان الخلف في الوعيد جائز على الله تعالى لافي الوعد وبهذا وردت السنة“

یعنی بعض علماء کامنہ ہب یہ ہے کہ وعید میں خلف اللہ تعالیٰ پر جائز ہے نہ وعدہ میں اور یہی مضمون حدیث میں آیا وہی علامہ جلال تحریر کرتے ہیں۔

”الکذب علیہ تعالیٰ محال لا تشمله القدرة“
اللہ تعالیٰ کا کذب محال ہے قدرتِ الہی میں داخل نہیں ۱۱

محترم فارسین! لاحظہ فرمائیں مذکورہ بالاحوالوں نے خوب واضح کر دیا کہ ملا گنگوہی کا اتهام غلط ہے اور خلف وعید کے قائل علماء کا دامن، عقیدہ امکان کذب کی نجاست سے پاک و صاف ہے۔

☆ علماء و بابیہ کہتے ہیں کہ اگر جھوٹ پر خدا کی قدرت نہ مانی جائے تو خدا کا عجز لازم آئے گا۔ اور وہ عجز سے پاک ہے لہذا جھوٹ بولنا اس کے لئے ممکن ہوا۔
جواب: اللہ تعالیٰ کے حق میں جھوٹ محال ہے اور محال پر قدرت نہ ہونے سے عجز لازم نہیں آتا سیدنا علامہ عبدالغنی نابلسی اپنی کتاب مطالب وفيہ میں ابن حزم فاسد العزم کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

”ان العجز إنما يكون لو كان المقصود جاء من ناحية القدرة أما اذا كان لعدم قبول المستحيل تعلق القدرة فلا يتوهم عاقل ان هذا عجز“
(سخن السروح ص ۳۸)

یعنی عجز توجیب ہو کہ قصور قدرت کی طرف سے آئے اور جب وجہ یہ ہے کہ محال خود ہی تعلق قدرت کی قابلیت نہیں رکھتا تو اس سے کسی عاقل کو عجز کا وہم نہ گذرے گا۔

اس مقام پر پھر ہم وہابیوں سے ایک سوال کرتے ہیں۔ اگر شیطان کی پوچھ کرنے پر وہابیہ کے خدا کی قدرت نہ مانی جائے تو اس کا عجز لازم آئے گا اور وہ عجز سے پاک ہے لہذا شیطان کی پوچھ کرنا تمہارے خدا کے لئے ممکن ہوا۔

[۱] اس میں راز یہ ہے کہ صدق و کذب بغیر کو صفت ہے اور وہ برا ذمیل خبر نہیں از قبل انشاء ہے۔ (امجدی)

اب وہابی یا شیطان کو اپنے خدا کا معبود نہیں یا اپنے خدا کا عاجز ہونا تسلیم کریں۔

بحمدہ تعالیٰ ثم بعون رسولہ علیہ الکریم والثنا ہماری ان چند سطروں سے خوب ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں وجوب صدق کا عقیدہ رکھنے والے صادق اور امکان کذب کا اعتقاد رکھنے والے کاذب ہیں۔

”وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی اکرم خلقہ واعلم خلقہ و اول خلقہ و افضل خلقہ و خاتم انبیائے وسید اصفیائے محمد والہ وصحبہ وابہ و العوٹ الاعظم الجیلانی البغدادی و شہید محبتہ المجدد الاعظم البریلوی اجمعین وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین“

(مولانا بدر الدین صاحب گنور کنہپوری)



اسلاف کرام اور جذبہ احترام رسول

دنیا میں جتنی قومیں ہیں اگر وہ کسی دین و مذہب اور کسی آئین و اصول کی پابندیں تو یقیناً انہوں نے اپنے دین و مذہب لانے والے اور آئین و اصول کے باñی کو عام انسانی مقام سے اونچا مقام دیا ہے اور اسی کی عظمت و برتری کے اظہار کے لئے اپنے دینی رہنماؤں، مذہبی پیشواؤں اور قوی ریفارمروں کی اپنے اصول و انداز اور رسم و رواج کے مطابق بے پناہ تعظیم و توقیر کی، ان کے احترام، ادب کو اپنا شعار بنایا، فروتنی اور خاکساری کے جتنے جذبات تھے سب اپنے مقتداء کے قدموں پر قربان کر دیئے۔ اسی لئے بلا خوف تردید یہ کہا جاسکتا ہے کہ ہر قوم نے اپنے رہنماء اور رہبر کی تعظیم و توقیر کو حاصل ایمان اور مدار اعتماد سمجھا ہے اور اسی احترام و ادب کو اپنے سے باعث نجات خیال کیا ہے اور یہ بات ہے کہ ان کا یہ خیال واقعہ کے مطابق نہ ہو، ایسا کوئی شخص آپ کو نہ ملے گا جو اپنے کو کسی مذہب کا مانتے والا اور اس کا پابند بتائے اور پھر اس مذہب کے لانے والے یا بنانے والے کو برا بھی کہتا جائے۔ البتہ کچھ لوگ ایسے ضرور ملیں گے جنہوں نے اپنے رہنماؤں کی کمزوریوں اور خامیوں پر خیر و صلاح نیکی اور بھلائی کا لیبل چسپا کرنے کی کوشش کی ہے ان کے گناہوں اور جرم کو ان کا فضل و مکال ثابت کرنے کی سعی لا حاصل کی ہے کیونکہ کسی دینی رہنماء کسی قومی مصلح اور کسی مذہبی پیشواؤ کی دینی و مذہبی حیثیت اسی وقت تک قائم رہ سکتی ہے جب تک اس کے ماننے والوں میں اس کا بے پناہ جذبہ احترام کا فرمایا ہو۔ اس کی عظمت و برتری کا سکھ ان کے دلوں پر نہ مٹنے کی حد تک جنم چکا ہو۔ ذرا آپ مختلف مذاہب کے پیروکاروں پر

ایک گھری نظر ڈالیں تو آپ کو ان کا پورا نہ بھی سرمایہ ان کے بزرگوں کے چند فرضی کرامات، کچھ مافوق الفطرت کاموں کی بہتات، کچھ محیر العقول قصے اور کہانیاں ہی نظر آئیں گی انہیں چند کمزور بینیاروں پر ان کے ایمان و اعتقاد کی پوری عمارت کھڑی ہوتی نظر آئے گی مگر باس ہمہ وجہ وہ اپنے پیشوائی جس طرح تعظیم و توقیر کرتے ہیں اور جس طرح ان کے احترام و ادب کا مظاہرہ کرتے ہیں کسی پر مخفی نہیں، شاید ہی کوئی بد قسمت انسان ہو جو اپنے مذہبی رہنمایوں قابل تعظیم، سزاوار عزت، اور لاکن حرمت نہ یقین کرتا ہو، اپنے مصلحین، اور پیشوایاں دین پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کا بلند آنگ نظر کس مذہب کے پیروکار نہیں لگاتے لیکن یہ زبانی دعوے مشاہدہ اور تجربہ عمل و کردار کی دنیا میں خس و خاشاک سے زیادہ کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ آئیے ہم ان زبانی دعویداروں سے پرے دعوے سے پہلے دلیل کے سامان فراہم ہوں۔ جنہوں نے اپنے رہبر و رہنمای کی تعظیم و تکریم اور اس کا ادب و احترام صرف زبان کی حد تک نہ کیا ہو۔ بلکہ عملی طور پر یہ ثابت مبرہن کر دیا ہو کہ ہمارا معاملہ دوسرا مذہب کے پرستاروں سے بالکل جدا گانہ ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ ”کبریت احر“ سے زیادہ قیمتی کون لوگ ہیں۔ یہی وہ فرزندان اسلام ہیں جن پر اسلام کو بجا طور پر ہمیشہ فخر رہے گا کیا یہ آفتاب سے زیادہ واضح اور روشن حقیقت نہیں کہ ہمارے اسلاف کرام نے جس انداز میں اپنے رہبر اور اپنے محبوب ﷺ کی تعظیم و توقیر کی ہے نہ کوئی قوم اپنے رہبر کی ولیسی تعظیم و تکریم کر سکتی تھی دنیا تک کر سکتے گی۔ شمع رسالت کے پروانوں کا احترام و ادب اور بارگاہ رسول میں ان کی تعظیم و توقیر کا اگر آپ جائزہ لینا چاہیں تو کسی مخلص دوست کی نہیں بلکہ وہمن کی گواہی کا اعتبار کیجئے۔ دوست کے لئے دوست

کی گواہی تو یوں کہہ کر بھی روکی جاسکتی ہے کہ عقیدت و محبت کی فراوانی میں مبالغہ آمیزی سے کام لیا گیا ہے لیکن اس گواہ کے بارے میں آپ کیا کہہ سکیں گے جس کے دل میں مشہود کے لئے ذرا سا بھی جذب عقیدت و محبت نہ ہو بلکہ مشہود کی عداوت و دشمنی ہی اس کی زندگی کا نصب لعین ہو۔ یقیناً ایسے شاہد کی شہادت ناقابل انکار شہادت ہوگی اور ایسی تھوس حقیقت ہوگی جس میں کذب دروغ کا کوئی ہلاکا سا بھی شائیہ نہ ہوگا۔ اسلام کا ابتدائی دور ہے۔ رحمت دو جہاں ﷺ نے مکہ سے بھرت فرمائی کر قدم میہمت لزوم سے سرفراز فرمایا۔ کفار مکہ نے عروہ بن مسعود جیسے جہاندیدہ اور آزمودہ کارکو خدمت نبوی میں بھیجا تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کی قوت کا اندازہ اور ان کی اجتماعی شوکت کا نظارہ کر سکیں۔ عروہ نے بارگاہ نبوی میں پہنچ کر اپنی کھلی آنکھوں سے غلامانِ مصطفیٰ علیہ السلام کا جو ادب و احترام اور جس جاں شاریٰ اور پروانہ واری کا منظر دیکھا اس لئے انہیں عالم حیرت میں ڈال دیا، اپنی قوم میں واپس آ کر عروہ نے جور پورٹ پیش کی ہے یقین جانیے اتنی نادر، انوکھی اور حقیقت آمیز رپورٹ شایدی کسی دشمن نے اپنے دشمن کے لئے کبھی پیش نہ کی ہوگی، عروہ کہتے ہیں اے مکہ والو! میں نے بہت کرو فروا لے شاہنشاہوں کو دیکھا، قیصر و کسریٰ کی پر عظمت و پر جلال بارگاہ میں دیکھیں مگر احترام و ادب کا جو جلوہ زیبا ﷺ کی بارگاہ میں نظر آیا وہ کہیں دیکھنے میں نہ آیا۔ محمد ﷺ اور اصحاب محمد ﷺ کا معاملہ ہی کچھ اور ہے ان دونوں میں حاکم و مخلوم آقا غلام سے بڑھ کر شمع اور پروانے کا رشتہ ہے گل و بلبل کا رشتہ ہے جسم و روح کا تعلق ہے زندگی اور سانس کا رابط ہے۔ کیا یہ رشتے ایک دوسرے سے کبھی جدا ہو سکتے ہیں۔ کیا کوئی طاقت ان مضبوط و پاندار شتوں کو کاثر سکتی ہے۔ محمد ﷺ پر اصحاب

محمد ﷺ کی وارثی کا جو منظر میں نے دیکھا ہے وہ حدیان سے باہر ہے میں نے دیکھا
 ”الله لَا يَتُوَضَّأُ إِلَّا ابْتَدَرُوا وَضْوَءُهُ وَكَادُوا يَقْتَلُونَ عَلَيْهِ وَلَا يَصْقِ
 بِصَاقًا وَلَا تَنْخُمْ نَخَامَةً إِلَّا تَلْقَوْهَا بِإِكْفَهِمْ فَذَلِكُوْبَابَهَا وَجْهُهُمْ
 وَاجْسَادُهُمْ وَلَا تَسْقُطُ مِنْهُ شَعْرٌ إِلَّا بَتَدَرُوهَا وَمَا يَحْدُونَ إِلَيْهِ النَّظَرُ
 تَعْظِيْمًا لَهُ“
 (الشَّافِعِيُّ الْمَقْاضِيِّ عِيَاضُ ج ۲ ص ۳۱)

یعنی جب وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے مانے والے ان کے غسلہ پر ایسے
 گرتے ہیں جیسے پروانے شمع پر جب وہ تھوکتے ہیں یا انک صاف کرتے ہیں تو یہ
 رطوبتیں زمین پر نہیں گرنے پاتیں بلکہ ہاتھوں میں پہنچ کر کسی کے چہرے اور نظر کی
 زیب وزینت بن جاتی ہیں۔ اور کیا مجال ہے کہ ان کا ایک بال زمین پر گرجائے،
 تعظیم و احترام کی بنا پر ان کی طرف تیر نظروں سے دیکھتے تک نہیں۔

احترام و ادب کا یہ جذبہ کیا دوسرا مذاہب اپنے کسی ایک ہی فرد میں
 دکھانے کی جرأت کر سکیں گے۔ جس نے اپنے رہبر کے اعضاء کے دھوون کو
 آب حیات سے زیادہ حیات بخش و جانفراس سمجھا اس کے بدن کے پسینے کو مشک و
 غیر سے زیادہ خوبصورت یقین کیا ہو جس نے اپنے محبوب کے آئینہ رخسار پر تیز
 نگاہوں کی ہلکی تھیں بھی گوارہ نہ کی ہو۔ یہ فخر تو صرف غلامانِ مصطفیٰ علیہ السلام کو
 حاصل ہے جنہوں نے اپنے نبی کے تلوؤں سے لگ جانے والے پانی کو کوڑ و سبیل
 سے زیادہ متبرک سمجھا اور ان کے مبارک بال کو بھی کوئین کا عظیم سرمایہ یقین کیا، حتیٰ
 کہ جسم پاک کے فضلات مبارکہ کو بھی نعمت غیر متربقبہ سمجھ کر استعمال کیا اور ان سے
 فیوض و برکات حاصل کئے بات آہی گئی ہے تو اس سلسلے میں چند واقعات ملاحظہ
 فرماتے چلیں۔

☆ ایک مرتبہ سرکار نے اپنی خادمہ حضرت ام ایمن سے فرمایا پیارے میں پیشاب ہے اسے پھینک آؤ وہ پیارے کو وہاں سے اٹھا لے گئیں اور پھینکنے کے بعد پیشاب کو پلی لیا، واپس آنے پر فرمایا پیشاب کیا ہوا؟ عرض کیا پیاس لگی تھی اس لئے پلی لیا۔ آپ نے یہ نہ فرمایا کہ ہمارا پیشاب ناپاک ہوتا ہے ناپاک چیز کو کیوں پیا جاؤ منہ کو پاک کرو، آئندہ خبردار ایسا نہ کرنا، بلکہ مسکرائے اور فرمایا کہ۔

”أَصَّا وَاللَّهُ لَا يَسْجُنُكَ بَطْنُكَ أَبْدًا“

قسم خدا کی تیرے پیش میں کبھی درود نہ ہوگا۔

چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ تازیست انہیں پیش کے دروکی شکایت نہ ہوئی۔

(سرت حلیہ ج ۲ ص ۵۱۵)

☆ حضرت سلمی ام رافع کہتی ہیں کہ حضور پر نور علیہ السلام نے غسل فرمایا تو میں نے آپ کے غسل شریف کا پانی پلیا اور آپ کو اطلاع دی۔ آپ نے ارشاد فرمایا۔

”إذْهَبِي فَقَدْ حَرَمَ اللَّهُ بِذَلِكَ عَلَى النَّارِ“

جاء اللہ تعالیٰ نے تیرے بدن پر آتش دوزخ حرام کر دی۔

(عینی ج ۱ ص ۷۷۸، خصائص کبریٰ ج ۱ ص ۲۲۵)

☆ حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ احمد میں حضور کے جسد پاک سے نکلے ہوئے خون کو پلیا، جب حضور کو اطلاع ہوئی تو فرمایا۔

”مِنْ سَرَّةٍ أَنْ يَنْتَظِرَ الَّتِي مِنْ لَا تَمْسِهِ النَّارَ فَلِيَنْتَظِرْ إِلَيْهِ الْمَالِكُ بْنُ سَنَانٍ“
جو کسی ایسے کو دیکھنا چاہے جسے نار جہنم نہیں جلا سکتی وہ مالک بن سنان کو دیکھ لے۔

(سرت حلیہ ج ۲ ص ۵۱۵)

ان چند واقعات سے ثابت ہوا کہ سرکار علیہ السلام کے فضلات شریفہ (مشائیں و برآ ذخون وغیرہ) امت کے لئے طیب و طاہر اور ان کا استعمال امتی کے لئے

باعث برکت آزادی جہنم کا سبب، دواع و فع بلیات و مصائب ہے۔

درستارج اص ۲۲۲ میں ہے۔

”صحیح بعض ائمہ الشافعیہ طهارة بولہ ﷺ وسائل فضلاہ و بہ قال ابو حنیفہ کما نقلہ فی المواهب اللدنیة عن شرح البخاری المعینی وقال الحافظ بن حجر تظافرت الاولیہ علی ذالک وعد الائمه من خصائصہ ﷺ“

یعنی سرکار علیہ السلام کے بول مبارک بلکہ تمام فضلات شریفہ کی طہارت کی صحیح بعض آئمہ شافعیہ نے کی، اور یہی امام عظیم کا بھی قول ہے جیسا کہ یعنی کے حوالہ سے مواہب لدنیہ میں نقل کیا گیا ہے اور حضرت علامہ ابن حجر نے ارشاد فرمایا کہ ولائل اس پر قوی و کثیر ہیں نیز آئمہ دین نے اسے خصوصیات نبویہ میں شمار کیا ہے۔

البته یہ سوال آپ کے ذہن کے پردوں پر ضرور ابھرے گا کہ اگر یہ چیزیں طیب و ظاہر ہیں تو پھر خود حضور علیہ السلام نے ان اشیاء کے ظاہر ہونے پر وضو غسل تعمیم وغیرہ کیوں کیا؟

اس کا سیدھا اور صاف جواب یہ ہے کہ یہ چیزیں سرکار علیہ السلام کے علو مرتبت اور رفتت درجت کے سبب خود حضور کے حق میں بخس و ناپاک ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو ہم کھاتے ہیں وہ گندگی اور نجاست بن جاتی ہے اور حضور علیہ السلام چونکہ نور ہیں اس لئے آپ جو تناول فرماتے ہیں وہ نور بن جاتا ہے۔ اکابرین ملت اور بزرگانِ دین اس حقیقت کو خوب آپھی طرح سمجھتے تھے کہ نور کے قرب میں رہنے اور بیٹنے والی چیز خود بھی نور ہو جاتی ہے۔ بنابریں یہ حضرات دل میں آرزو رکھتے اور تمبا کرتے کہ کاش ہمیں بھی حضور علیہ السلام کے فضلات

شریف مل جائیں اور ہماری بھی قسم سورجاتے۔

چنانچہ حضرت عبدالوہاب شعرانی اپنی کتاب "الیواقیت والجواهر" کے ج ۲۲ میں تحریر فرماتے ہیں۔

"قال شیخ الاسلام السراج البلقینی والله لو وجدت شيئاً من بول النبی ﷺ
و غائبہ لا کلتہ و شربتہ"

یعنی شیخ الاسلام سراج بلقینی نے فرمایا تھا بخدا اگر مجھے حضور علیہ السلام کے بول و برآزمبارک مل جائیں تو میں انہیں ضرور کھاؤں اور پیوں۔

ان احادیث و اقوال سے جہاں یہ ثابت ہوا کہ حضور علیہ السلام کے فضلات مبارکہ طیب و ظاہر، باعث برکت فلاح دارین کے ضامن، وہیں یہ بات بھی کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ تعظیم و تکریم احترام و ادب کا وہ طریقہ جس سے شارع نے منع نہ فرمایا قطعاً یقیناً جائز ہے خواہ اس کے کرنے کا حکم بھی صراحت سے نہ ملتا ہو۔
تحوڑی دیر کے لئے آپ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے مذکورہ بالا افعال پر نظر ڈالیں اور غور فرمائیں کہ کیا حضور علیہ السلام نے کبھی کسی صحابی سے یہ فرمایا ہو کہ میرا غسلہ زمین پر گرنے میں اس کی بے ادبی ہے۔ لہذا اس کی تعظیم کرو اور گرنے سے بچاؤ، یا جسم پاک کے دیگر فضلات و رطوبات کے بارے میں کبھی یہ فرمایا ہو کہ انہیں ہاتھوں میں لے لینا چہرے پر مل لینا، اور استعمال کر لینا ایسا کبھی نہ فرمایا مگر پھر بھی صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اظہار تعظیم و توقیر اور حصول برکت کے لئے یہ سب کچھ کیا۔ لیکن نہ تو خود حضور علیہ السلام نے ان افعال کو حرام و منوع فرمایا اور نہ حضرات صحابہ معاذ اللہ مر تکب حرام کہلانے علاوہ براہیں یہ سب افعال

تعظیم فضائل صحابہ میں شمار کئے گئے معلوم ہوا کہ شریعت و شارع کا کسی شی کی صراحتاً حرمت و حلت نہ بتانا بھی دلیل جواز ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اظہار تعظیم کے وہی طریقے منوع اور ناجائز ہوں گے جن سے صراحتاً شارع علیہ السلام نے منع فرمادیا مثلاً وجدہ تعظیمی اس کے سوا اور دوسرے افعال جو اظہار تعظیم کے لئے کئے جائیں جن سے نہ شارع نے کبھی منع اور نہ کرنے ہی کا حکم دیا۔ وہ افعال بلا شبہ جائز ہوں گے بلکہ کرنے والے لاائق اجر و ثواب ہیں۔ آئیے دیکھئے کہ صحابہ کرام اور معتمدین ملت نے ہر اس شی کی تعظیم و توقیر کی ہے یا نہیں جس کو حضور علیہ السلام سے ادنیٰ سی بھی نسبت حاصل ہو گئی حالانکہ ان کی تعظیم کرنے کا حکم کہیں صراحتاً موجود نہیں۔

☆ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

”ولا وضعت يميني على فرجي منذ بايعت رسول الله ﷺ“

(تاریخ الحلفاء ص ۱۱۳)

میں نے اپنے داہنے ہاتھ کو اپنی شرمگاہ پر اس وقت سے نہ رکھا جب سے اس ہاتھ کو بیعت کے لئے حضور کے ہاتھ میں دیا۔

سبحان اللہ! اذ راجدہ بے ایمانی کی جلوہ گری تو دیکھئے کہ سیدنا ذوالنورین رضی اللہ عنہ اس ہاتھ کو قابل تعظیم و تکریم سمجھتے ہیں جو ہاتھ ایک مرتبہ دست پاک مصطفیٰ ﷺ سے لگ گیا ہے۔

☆ حضرت سیدنا ابو محمد وردہ رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کے کچھ بال اتنے لبے تھے کہ جب کھلتے تو زمین پر آ جاتے۔ لوگوں نے عرض کیا آپ یہ بال اتردا کیوں نہیں دیتے تو آپ نے فرمایا ان بالوں کو اپنے سر سے کس طرح جدا کر دوں

جن کو مصطفیٰ ﷺ نے چھوا ہے۔ پوچھنے پر واقعہ بیان فرمایا کہ عالم طفویلت میں تھا مصطفیٰ جانِ رحمت ﷺ کا گذر بچوں کے پاس ہوا۔ میں بھی انہیں بچوں میں کھیل رہا تھا۔ مصطفیٰ علیہ السلام بر بنائے رحمت و شفقت اپنا دست مبارک میرے سر پر پھیر دیا تھا اسی لئے والدہ محترمہ نے وہ بال ہمارے سر سے جدا نہ کرائے۔

☆ حضرت احمد بن فضویہ بڑے ماہر تیر انداز اور مشہور غازیان اسلام میں ہیں فرماتے ہیں۔

”ما مسْتَ الْقُوْسَ بِيَدِي بِغَيْرِ وَضْوِيْ مِنْذَ بَلَغْنِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخْذَ الْقُوْسَ بِيَدِهِ“

میں نے یہ کمان بے وضو نہ چھوا جب سے مجھے خبر ملی کہ حضور علیہ السلام نے اسے اپنے مبارک ہاتھوں سے چھوا ہے۔

☆ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما جوابِ ایام سنت رسول میں شہرہ آفاق ہیں ان کا حال صاحب شفائق فرماتے ہیں۔

”روئی بن عمر واصعابدہ‘ علی مقدّع النبی ﷺ من المنبر ثم وضعها علی وجهه“

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو بارہا دیکھا گیا آپ منبر رسول کے اس خاص مقام پر جہاں مصطفیٰ علیہ السلام بیٹھا کرتے تھے اپنا ہاتھ رکھ کر اسے چوم رہے ہیں۔

☆ حضرت عبد اللہ بن روحہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے ہمراہ رکاب میں، حضور قبیلہ انصار میں کسی غرض سے تشریف لائے ہیں سواری میں گدھا پیش خدمت ہے۔ القاً سے گدھے نے پیشتاب کر دیا عبد اللہ بن ابی منافق جو اس مجلس میں تھا و مال سے اپنی ناک بند کر لیتا اور کہتا ہے اسے جلد ہٹاؤ اس کی بدبو

سے ہمیں سخت تکلیف پہنچی۔

حضرت عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، نے انسان کر فرمایا۔

”والله ان بول حمارہ لاطیب من مسکک“


(مدارک شریف ج ۳ ص ۱۶۹)

خدا کی قسم سرکار جس گدھے کو اپنی سواری میں قبول فرمائیں اس گدھے کا پیشتاب
تیرے مشک و غبرے سے زیادہ خوشبودار ہے۔

سبحان اللہ! حضرت عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو اس سواری کی تو ہیں بھی
گوارہ نہ ہوئی جسے مصطفیٰ علیہ السلام سے بہت دور کی نسبت ہے اور واقعی تقاضا
ایمان یہی ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ عالیٰ سے نسبت رکھنے والی شیٰ کو سرمایہ
کو نہیں سمجھا جائے۔

آخر میں دعا ہے کہ مولیٰ تعالیٰ مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ کے ان
نیازمندوں پر حرم و کرم کے پھول بر سائے جن سے آج بھی روئے ایمان پرتا زگی
اور نکھار ہے عشق مصطفیٰ علیہ السلام کے متوا لے آج بھی انہیں یاد کر کے اپنے قلب و
جلگرو ضیا بارا اور پر فور بنا تے ہیں۔

(مولانا عنایت احمد صاحب نعیمی گونڈوی)



قبور پر عمارت بنانا، چراغ جلانا، پھول اور چادر ڈالنا

اویائے کرام مشائخ عظام کی قبروں کے آس پاس عمارت بنانا یا قبر تعمیر کرنا جائز ہے۔ اس کا مقصد صاحب قبر کو سایہ کرنا نہیں ہے بلکہ ان حضرات کی عظمت ظاہر کرنا اور زائرین کو آرام پہنچانا ہے جو وہاں فیوض و برکات حاصل کرنے کی خاطر حاضر ہو کرتا وہ قرآن کریم اور فاتحہ پڑھتے ہیں۔
عینی شرح بخاری میں ہے۔

”وہی اشارۃ الى ان ضرب الفسطاط لغرض صحيح کا الستر من
الشمس مثلاً لللاحیاء للاظلال المیت جاز“
یہ اشارہ ہے کہ قبر پر صحیح غرض کے لئے خیر لگانا جائز ہے جیسے کہ زندوں کو دھوپ سے بچانے کے لئے نہ کہ میت کو سایہ کرنے کے لئے۔
حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو ان کی بیوی نے ان کی قبر پر ایک سال تک قبہ بنائے رکھا۔ الفاظ یہ ہیں۔

”ضربت امراته‘ القبة علی قبرہ سنۃ“ (مشکوہ)

اور قریسر روح البیان جلد ۳ پارہ ۰۱ میں زیر آیت ﴿إِنَّمَا يَعْمَرُ مَسْجِدَ اللَّهِ﴾ ہے۔
”فبناء القباب على قبور العلماء والآولياء والصلحاء أمر جائز اذا
كانقصد بذلك التعظيم في اعين العامة حتى لا يحتقر واصاحب
هذا القبر“

یعنی علماء اولیاء صلحاء کی قبروں پر عمارت بنانا جائز کام ہے جبکہ اس سے مقصود لوگوں کی نگاہوں میں عظمت پیدا کرنا ہوتا کہ لوگ اس قبروں اے کو حقیر نہ جائیں۔

ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرقاۃ شرح مکلوۃ میں فرماتے ہیں۔

”قد اباح السلف البناء علی قبور المشائخ والعلماء المشهورین

لیزورهم الناس ویستريحوا بالجلوس“

یعنی علماء متقدیں نے مشہور مشائخ اور علماء کی قبروں پر عمارت بنانا جائز فرمایا ہے تاکہ ان کی لوگ زیارت کریں اور وہاں بیٹھ کر آرام پائیں۔

شامی میں ہے۔

”وقيل لا يكره البناء اذا كان الميت من المشائخ والعلماء والسادات“
کہا گیا ہے۔ اگر میت مشائخ اور علماء اور سادات کرام میں سے ہو تو اس کی قبر پر عمارت بنانا مکروہ نہیں ہے۔

اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔

”نهی رسول الله ﷺ ان یبحصص القبور وَ أَنْ ینبیِّ عَلَیْهِ“

حضور ﷺ نے منع فرمایا کہ قبروں کو پختہ کیا جائے اور اس پر عمارت بنائی جائے۔
اس سے معلوم ہوا کہ قبروں کو پختہ کرنا اور اس پر عمارت بنانا ممنوع ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں ممانعت قبر کے ان درونی حصہ کو پختہ کرنے سے ہے کیونکہ یہ بے فائدہ ہے لیکن اولیائے کرام کی قبروں کو پختہ کرنے سے ہے کیونکہ سرکار دو عالم ﷺ نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے سرہانے ایک پتھر نصب فرمایا اور حضرت خارجہ اسی کے متعلق فرماتے ہیں کہ۔

”ان اشدنا و ثبته الذى يشب قبر عثمان بن مظعون حتى يجاوزه“

ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں جوان تھے اور ہم میں بڑا کوڈ نے والا وہ تھا جو عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو پھلانگ جاتا۔

اس سے معلوم ہوا کہ صرف سرہانے قبر سے الگ وہ پتھر نصب نہیں تھا بلکہ قبر سے متعلق ہو کر تھا مگر اس روایت میں صرف سرہانے کی طرف نصب کرنے کا ذکر ہے اب رہا قبر پر عمارت بنانا منوع تو یا تو اس کا تعلق تمام لوگوں کی قبروں سے ہے اور یا خاص قبر پر عمارت بنانا اس طرح کہ دیوار یا ستون قبر پر ہو کیونکہ جس چیز سے زندہ کو تکلیف ہوتی ہے اس سے صاحب قبر کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔
علماء کرام فرماتے ہیں۔

”المیت یتاذی بما یتاذی بدالحی“ (رد المحتار)

جس بات سے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے مردے بھی اس سے تکلیف پاتے ہیں۔
فیث القدری میں ہے۔

”الاتفاق على ان حرمة المسلم ميتا لحرمه حيَا“

علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ مسلمان پر میت کی عزت و حرمت اس کی زندگی ہی کی طرح ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں۔

”كسر عظم المیت واذاه کسره حيَا“ (امام احمد ابو داؤد ابن ماجہ)

مردے کی ہڈی توڑنا اور اسے ایذ پہنچانا ایسا ہے جیسے زندہ کی ہڈی توڑنا۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں۔

”لَأَن يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمِيرَةٍ مَتْحُرِّقَةٍ ثِيَابَهُ مَتَخْلُصٌ إِلَى جَرْدٍ“

”خیر له من ان یجلس علی قبر“ (مسلم ابو داؤد ونسانی ابن ماجہ)

بے شک آدمی کو انگارہ پر بیٹھا رہنا یہاں تک کہ وہ اس کے کپڑے جلا

کر جلد تک پہنچ جائے اس کے لئے بہتر ہے اس سے کہ قبر پر بیٹھے۔

عام مسلمانوں کی قبروں پر بلا ضرورت چراغ جلانا ناجائز ہے اور اگر ضرورت ہو تو جائز ہے اور ضرورت کی صورتیں یہ ہیں کہ کسی قبر کی جگہ مسجد ہو یا قبر راستہ پر ہو یا وہاں کوئی بیٹھا ہو، البتہ مزارات اولیاء پر بغیر ان ضرورتوں کے ان کے اظہار عظمت کے لئے چراغ جلانا جائز ہے۔
حدائقہ ندیہ شرح طریقہ محمد یہ میں ہے۔

”اخراج الشموع الى القبور بدعة واتلاف مال كذا في البزاية وهذا كله اذا احلا عن فائدة واما اذا كان موضع القبور مسجدا او على طريق او كان هنا اك احد جالسا او كان قبر ولی من لا ولیاء او عالم من المحققين تعظيمها لروحة اعلاما للناس انه ولی ليتبرکوا ويدعوا الله تعالى عند فيستجاب لهم فهو“

جاائز قبروں پر چراغ لے جانا بدعۃ اور مال ضائع کرتا ہے اسی طرح بزازیہ میں ہے یہ حکم اس وقت ہے جبکہ بے فائدہ ہو لیں اگر کسی قبر کی جگہ مسجد ہو یا کہ قبر راستہ پر ہو یا وہاں کوئی بیٹھا ہو یا کسی ولی یا محقق عالم کی قبر ہو تو ان کی روح کی تعظیم کرنے اور لوگوں کو بتانے کے لئے یہ ولی کی قبر ہے تاکہ لوگ اس سے برکت حاصل کریں اور وہاں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو چراغ جلانا جائز ہے۔

اور تفسیر روح البیان میں ہے۔

”وكذا يقاد القناديل والشروع عند قبور الاولياء والصلحاء والاجلال للابولياء فالمقصد فيها مقصد حسن ونذر الزيت والشمع الاولياء يوقد عند قبورهم تعظيمها لهم ومحبته فيهم جائز لا يبغى النهي عنه“

اس طرح اولیاء صالحین کی قبروں کے پاس قدمیں اور موم بیان جلانا ان کی

عظمت کے لئے چونکہ اس کا مقصد صحیح ہے اس لئے جائز ہے اور اولیاء اللہ کے لئے تسلی اور موم حق کی نذر مانتا تاکہ ان کی عزت کے اظہار کے لئے ان کی قبروں کے پاس جلائی جائیں جائز ہے اس سے روکانہ جائے۔

ہر مومن کی قبر پر پھول ڈالنا جائز ہے چاہے اولیاء مشائخ ہوں یا گنہگار، ترپھول میں ایک قسم کی زندگی ہوتی ہے اس لئے وہ تسبیح کرتا ہے جس سے میت کو ثواب ہوتا ہی یا اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے۔ اس کی اصل مخلوٰۃ شریف کی وہ حدیث ہے جواب بن عباس رضی اللہ عنہ سے مردی ہے۔ انہوں نے کہا۔

”مَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِقَرِيرِينَ فَقَالَ إِنَّهُمَا لِيَعْذِبَانِ وَمَا يَعْذِبَانِ فِي كَبِيرِ أَمَا حَدَّهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَرُ مِنَ الْبُولِ وَفِي رِوَايَةِ الْمُسْلِمِ لَا لِيَنْزِهَ مِنَ الْبُولِ إِمَّا الْآخِرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ اخْدَ جَرِيدَةً رَطِبَةً فَشَقَّهَا بِنَصْفَيْنِ ثُمَّ غَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةٍ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ صُنِعْتِ هَذَا فَقَالَ لِعَلِهِ أَنْ بَخْفَفْ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَا“

حضرت ﷺ و قبروں پر گزرے پس فرمایا کہ یہ دونوں عذاب کئے جاتے ہیں اور کسی بڑے امر میں عذاب نہیں کئے جاتے ہیں (یعنی ان کے عذاب کا سبب کوئی بڑا گناہ نہ تھا) ان میں کا ایک پیشاب سے چھپتا نہ تھا (یعنی پیشاب کرتے وقت پر وہ کالحاظ نہ کرتا تھا، مسلم کی روایت میں ہے کہ پیشاب سے بچتا نہ تھا اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا۔ پھر سرکار دواعی ﷺ نے خرمائی ایک ترشاخ لے کر اس کے دو حصے کئے پھر ہر قبر میں ایک حصہ کو جمادیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ یا آپ نے کس لئے کیا، فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کے عذاب میں تخفیف ہوگی جب تک کہ یہ دونوں حصے شاخ خرمائی کے تر رہیں۔

افعہ اللہ عات میں شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی حدیث کے ماتحت فرماتے ہیں۔ وہ مک کند جماعت بے این حدیث دراند اختن سبزہ و گل و ریحان بر قبور اس حدیث سے ایک جماعت ولیل پکڑتی ہے قبروں پر سبزہ پھول اور ریحان ڈالنے کے جواز میں بیہاں چند باتیں مخالفین پیش کرتے ہیں جن سے ان کا مقصد اس عمل سے منع کرنا ہے۔ مگر کوئی بات ان کی پائیدار نہیں ہے، ہر بات کا جواب دیا گیا ہے۔

پہلی بات یہ ہے کہ ترشاخ جمانے سے عذاب میں تخفیف ہونا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ محض دعویٰ بلا ولیل ہے اصول فقہ میں اس بات کی تصریح ہے کہ حضور ﷺ کے افعال شریفہ کا ادنیٰ درجہ مبارح ہوتا ہے۔ جبکہ شرعی دلیلوں میں سے کوئی ولیل خصوصیت پر قائم نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ تخفیف عذاب آپ کی دعا سے ہوئی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث پاک میں ترشاخ کی قید ہے اگر تخفیف دعا سے ہوئی تو یہ قید بے فائدہ ہوگی اور اس فرمان سے کہ عذاب میں تخفیف ہوگی جب تک کہ یہ تر ہے معلوم ہوا کہ ترشاخ سے تخفیف ہوئی۔

شامی میں ہے۔

”وتعلیه بالتحفیف عنها ما لم یبأ ای یخفف عنها ببرکة تسبيحهما اذ هو اکمل من تسبيح اليابس لما في الاخضر نوع حیاة“
عذاب کی کمی کی علت ان کا خشک نہ ہونا ہے یعنی ان کی تسبیح کی برکت سے عذاب میں کمی ہوئی کیونکہ ترشاخ کی تسبیح خشک کی تسبیح سے زیادہ کامل ہے کیونکہ اس میں ایک قسم کی زندگی ہے۔

اور شامی میں ہے۔

”وَمِنَ الْحَدِيثِ نَدْبٌ وَضُعْ ذَلِكَ لِلإِتَابَعِ وَيَقَاسُ عَلَيْهِ مَا اعْتَدَ فِي زَمَانِنَا مِنْ وَضْعِ اغْصَانِ الْآسِ وَنَحْوِهِ وَصَرَحَ بِذَلِكَ أَيْضًا جَمَاعَةُ مِنْ شَافِعِيهِ وَهَذَا أَوْلَى مَا قَالَهُ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ مِنْ أَنْ تَخْفِيفَ عَنِ الْقَبْرِينَ إِنَّمَا حَصَلَ بِرَبْكَةِ يَدِهِ عَلَيْهِ أَوْ دُعَائَهُ لَهُمَا فَلَا يَقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَقَدْ ذُكِرَ الْبَخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ أَنَّ بَرِيدَةَ ابْنَ الْحَصِيبِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَوْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا يَعْلَمُ فِي قَبْرِهِ جَرِيدَتَانَ“

یعنی ترشا خیں قبر پر رکھنے یا ذائقے کا مستحب ہونا حدیث سے ثابت ہے اور اسی پر قیاس کیا جائے جو ہمارے زمانہ میں آس وغیرہ کی شاخصیں ذائقے کی عادت ہو گئی ہے شافعیوں کی ایک جماعت نے بھی اس کی تصریح کی ہے اور یہ مالکیوں کے اس قول سے اولیٰ ہے کہ تخفیف دونوں قبروں میں بسبب برکت دست مبارک حضور ﷺ کے ہوئی یا آپ کی دعا سے ان دونوں کے لئے پس پر قیاس نہ کیا جائے گا۔ اور بخاری نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے کہ بریدہ رضی اللہ عنہ نے وصیت کی کہ ان کی قبر میں کھجور کی دو شاخصیں رکھدی جائیں۔

تمیری بات یہ ہے کہ اگر تخفیف عذاب کے لئے تو نیکوں کی قبروں پر نہ ذائقہ چاہئے جیسا کہ مولوی اشرف علی نے اصلاح الرسم میں لکھا ہے کہ پھول وغیرہ فاسقوں اور فاقروں کی قبروں وغیرہ سے تخفیف کی جائے، اس کا جواب یہ ہے کہ جو اعمال گہنگاروں کے دفعہ عذاب کے لئے ہیں وہ نیکوں کے بلندی درجات کے باعث ہیں اور حضرت بریدہ کی وصیت اور شامی کی عبارت سے معلوم ہوا کہ صرف گہنگاروں کے لئے نہیں ہے۔

اور عالمگیری میں ہے۔

”ووضع الورود والریاحین علی القبور حسن“

قبروں پر پھول اور خوشبو کھنا اچھا ہے۔

اولیاء کرام کی قبروں پر چادر و الناجائز ہے اس لئے کہ اس سے عام زیارت
کرنے والوں کی نگاہ میں صاحب قبر کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔

شامی میں ہے۔

”قال فی فتاوی الحجۃ و تکرہ السستور علی القبور ولكن نحن نقول الان
اذا قصد به التعظیم فی عيون العامة حتى لا تتحقرروا صاحب القبر بل جلب
الخشوع والآداب للغافلین الزائرين فهو جائز لأن الاعمال بالبيات“

یعنی فتاویٰ حجہ میں ہے کہ قبروں پر پردے کر رہے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ آج کل اگر
اس سے عوام کی نگاہ میں تعظیم مقصود ہوتا کہ وہ صاحب قبر کی حرارت نہ کریں بلکہ
غافلوں کو اس سے ادب اور خشوع حاصل ہو تو جائز ہے کیونکہ عمل نیت سے ہے۔
اور تفسیر روح البیان پارہ ۱۰ اسورہ توبہ میں ہے۔

”فبناء القباب علی قبور العلماء والولیاء والصلحاء ووضع الستور
والعمائم والشیاب علی فبورهم امر جائز اذا كانقصد بذلك
التعظیم فی اعین العامة حتى لا تتحقرروا صاحب هذا القبر علماء“

اور صاحبین کی قبروں پر عمارت بنانا اور ان پر غلاف اور عمایہ اور کپڑے چڑھاتا
جائے جبکہ اس سے مقصود یہ ہو کہ عوام کی نگاہ میں ان کی عزت ہو اور لوگ ان کو
حقیر نہ جائیں۔

والله تعالیٰ اعلم

(مولانا زین العابدین صاحب ثالذی)

دیوبندیوں کا اپنے حق میں مسلمات سے گریز

سُنِ دنیا کی عظیم اکثریت انبیاء و اولیاء کے حق میں یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے فضل و کرم سے انہیں ایسی مخصوص قوتیں عطا فرمائی ہیں جن کے ذریعہ ثبیٰ باتوں کا علم دل کے خطرات اور چھپے ہوئے حالات ان پر مکشف ہو جاتے ہیں۔

یونہی قادر مطلق نے کائنات میں انہیں تصرف کا بھی اختیار عطا فرمایا ہے اس خداداد قوت و اختیار سے عالم میں تصرف فرماتے ہیں۔ اہل سنت کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ سمع و بصیر نے انبیاء و اولیاء کو ایسی قوت ساعت بخشی ہے جس سے وہ دُور و نزدیک کی پکار کو سُن لیتے ہیں، فریادوں کی فریاد کو پہنچتے ہیں، حاجت مندوں کی حاجت روائی فرماتے ہیں۔

علامے دیوبند کا عقیدہ اس کے بالکل برعکس ہے ان کا کہنا ہے کہ علم غیر خاصہ خداوندی ہے لہذا کسی مخلوق کے لئے (خواہ انبیاء ہوں یا اولیاء) کسی تاویل سے (خواہ عطا ہی کیوں نہ ہو) علم غیر ثابت کرنا خلاف فصوص قطعیہ اور صریح شرک ہے یونہی کسی مخلوق کو عالم میں متصرف مانا یا دُور سے پکارنا اور یہ سمجھنا کہ ان کو میری پکار کی خبر ہو گئی کھلا ہوا کفر و شرک ہے پکارنے والا اور ابو جہل دونوں شرک میں برابر ہے۔ عقل و انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ علامے دیوبند کا یہ مسلک اگر قرآن و حدیث پر مبنی ہے تو انہیں ہر حال میں ہر شخص کے لئے کفر و شرک ہی قرار دینا چاہیے۔ قاتلوں اپنے اور بیگانے کی رعایت نہیں بر تاتموار کی زد میں جو کوئی

آئے گا بل امتیاز دوست دشمن کٹ جائے گا۔

مگر جب آپ علمائے دیوبندی کی تاریخ کی ورق گردانی کریں گے تو آپ کو نہ صرف حیرت ہو گی بلکہ آپ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ توحید پرستی کا ڈھونگ رچانے والوں نے توحید کی آڑ میں کیسے کیے صنم خانے آباد کر رکھے ہیں۔ جن چیزوں کو انبیاء و اولیاء کے حق میں شرک تھہرا تے ہیں بعینہ وہی چیزوں اپنے گھر کے بزرگوں کے لئے عین ایمان اسلام سمجھتے ہیں، جماعت کا ایک فرد جس چیز کو کفر و شرک کہتا ہے دوسرا فرد اسی کو ایمان و اسلام تھہرا تا ہے۔

اس مضمون میں ان ہی کی معتبر کتابوں سے دو متفاہ اقوال جمع کئے گئے ہیں پہلے قول میں منفی پہلو اور دوسرے قول میں اثبتی پہلو پیش کیا ہے۔ قارئین کرام سے گذارش ہے کہ غیر جانبدار ہو گر پڑھیں اور انصاف کریں۔ ہمیں یقین ہے کہ شک و ارتیاب اور تذبذب کی تاریکیوں میں بھکلنے والے یقین و اطمینان کا اجالا محسوس کریں گے۔

مقصود ہے گذارش احوال واقعی اپنا بیان حسن طبیعت نہیں مجھے

اس مضمون میں علم غیب، نداءے یا رسول اللہ اور حفظ الایمان کا سرسری تنقیدی جائزہ لیا گیا ہے۔ اور ہر ایک کے ثبت و منفی پہلو سے علمائے دیوبندی کی تضاد بیانی اور اپنے مسلمات سے گریز ثابت کیا گیا ہے۔

علم غیب کا منفی پہلو:

☆ اللہ صاحب نے پیغمبر صلم (صلی اللہ علیہ وسلم) کو فرمایا کہ لوگوں سے یوں کہہ دیویں کہ غیب کی بات سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا نہ فرشتہ نہ آدمی نہ جن نہ کوئی

چیز، یعنی غیب کی بات کو جان لینا کسی کے اختیار میں نہیں۔

(تفویہ الایمان مصنفہ مولوی محمد اسماعیل دھلوی ص ۲۲)

☆ جو شخص اللہ جل شانہ، کے سوا علم غیب کسی دوسرے کو ثابت کرے وہ پیشک کافر ہے۔ اس کی امامت اور اس سے میل جوں محبت و مؤودت سب حرام ہے۔
(فتاویٰ رشیدیہ ج ۲ ص ۱۰)

اور یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ (حضرت ﷺ) کو علم غیب تھا صریح شرک ہے۔

(فتاویٰ رشیدیہ کامل میوب ص ۹۶)

☆ علم غیب خاصہ حق تعالیٰ کا ہے اس لفظ کو کسی تاویل (خواہ عطائی ہی کیوں نہ ہو) سے دوسرے پر اطلاق کرنا ابہام شرک سے خالی نہیں۔
(فتاویٰ رشیدیہ جلد ۳ ص ۳۲ مصنفہ مولوی رشید احمد گنگوہی)

☆ کسی بزرگ یا پیر کے ساتھ یہ عقیدہ رکھنا کہ ہمارے سب حال کی اس کو ہر وقت خبر رہتی ہے (کفر و شرک ہے)۔
(بہشتی زیور جلد ۱ ص ۷ مصنفہ مولوی اشرف علی تہانوی)

☆ رسول اور امۃ رسول اس حدیث مشترک ہیں کہ دونوں کو علم غیب نہیں ہے
(فاران کا توحید نمبر ۱۱۳ از قاری طب صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند بحوالہ زلزلہ)

☆ کتاب و سنت کو سامنے رکھ کر علم کی تقسیم یوں نہ ہوگی کہ اللہ کا علم ذاتی اور رسولوں کے علم عطائی، یعنی نوعی فرق کے ساتھ دونوں کا برابر ہے۔ گویا ایک حقیقی خدا دوسرا مجازی خدا۔
(توحید نمبر ص ۱۲۱ از قاری محمد طب صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند بحوالہ زلزلہ)

مذکورہ بالاعبارتوں سے اچھی طرح واضح ہو گیا کہ غیر خدا کے لئے غیب ثابت کرنا خواہ عطائی ہی کیوں نہ ہو کفر ہے شرک ہے کتاب و سنت کے منافی ہے اگر یہ امر واقعہ ہے اور علمائے دیوبند کے مسلمات میں سے ہے تو میں عرض کروں گا

کوہ پوری دیدہ دلیری کے ساتھ کفر و شرک کا فتوی لگانے کے لئے تیار ہو جائیں
علم غیب کا اثباتی پہلو:

علم غیب کا اثباتی پہلو پیش کرنے سے پہلے چند منٹ کے لئے اپنے
قارئین کا الحجہ، فکر یہ چاہتا ہوں، مذکورہ بالا حوالہ جات پڑھنے کے بعد ایک خالی
الذہن آدمی کیا یہ کہنے پر مجبور نہ ہو گا کہ غیر خدا کے لئے علم غیب ماننا کفر ہے
شرک ہے۔ توحید پرستی کے منافی ہے۔ اگر جواب اثبات میں ہے تو میں آپ
کی دیانت کو آواز دیتا ہوں۔ آپ اس کے بارے میں کیا رائے قائم کریں
گے۔ جو غیر خدا کے لئے علم غیب ثابت کرے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے۔ یہ کہ
کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ جو علم غیب انبیاء و اولیاء کے لئے کفر و شرک
ٹھہرایا گیا ہے علمائے دیوبند وہی علم غیب اپنے بزرگوں کے حق میں عین
الایمان و اسلام سمجھ رہے ہیں۔ اب آپ اپنے دھڑکتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ
کر اصل واقعہ ملاحظہ فرمائیے۔

قاری طیب صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند بیان کرتے ہیں کہ جس زمانے
میں دارالعلوم دیوبند کے مہتمم مولوی رفیع الدین صاحب تھے بعض مدرسین کے
درمیان کچھ نزاع چھڑ گئی۔ جھگڑے کی نوبت یہاں تک پہنچی کہ مدرسہ صدر مدرس
(دیوبندیوں کے شیخ الہند) مولوی محمود الحسن دیوبندی بھی اس ہنگامے میں شریک
ہو گئے اور اختلافات بڑھتے چلے گئے۔ اب اس کے بعد کا واقعہ قاری صاحب ہی
کی زبانی سنئے لکھتے ہیں۔

اسی دوران میں ایک دن علی الصباح بعد نماز فجر مولانا رفیع الدین

صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا محمود الحسن صاحب کو اپنے جگہ میں بلایا (جو دارالعلوم دیوبند میں ہے) مولانا حاضر ہوئے اور بندھجر کے کواڑ کو کھول کر اندر داخل ہوئے موسم سخت سردی کا تھا مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلے یہ میرا روئی کا لبادہ دیکھ لو، مولانا نے لبادہ دیکھا تو تر تھا اور خوب بھیگ رہا تھا فرمایا کہ واقعہ یہ ہے کہ ابھی ابھی مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جسد عشری (ظاہری جسم) کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے تھے جس سے میں ایک دم پسند ہو گیا اور میرا لبادہ تربت ہو گیا۔ اور یہ فرمایا کہ محمود حسن کو کہہ دو کہ وہ اس جھٹکے میں نہ پڑے، بس میں نے یہ کہنے کے لئے بلایا ہے۔ مولانا محمود حسن صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میں آپ کے ہاتھ تو بہ کرتا ہوں کہ اس کے بعد میں اس قصہ میں پچھہ نہیں بولوں گا۔

(ادواح للہ ص ۲۲۲)

اے عدل و انصاف کے حامیو! خدارا سوچو تو سہی جو علم غیب انبیاء و اولیاء کے لئے شرک تھا وہ علم غیب نانوتوی کے لئے عین ایمان کس طرح بن گیا۔ آواز دو انصاف کو انصاف کہاں ہے؟

قاری طیب صاحب اگر آپ اجازت دیں تو ذہن کے چند ابھرے ہوئے سوالات آپ کے سامنے پیش کروں۔ امید ہے کہ آپ خود یا اپنے معتمد وکلاء کے ذریعہ سے اپنے دستخط سے اطمینان بخش جواب مرحمت فرمائیں گے۔

☆ جس وقت آپ نے اپنے جد کریم کا واقعہ نقل فرمایا اس وقت آپ کے ذہن میں یہ باتیں نہ تھیں۔

رسول اور امتحان رسول اس حد تک مشترک ہیں کہ دونوں کو علم غیب نہیں ہے

(فاران کاتا توحید، نمبر ۱۳۲۔ بحوالہ زلزلہ)

کتاب و سنت کو سامنے رکھ کر علم کی تقسیم یوں نہ ہو گی کہ اللہ کا علم ذاتی اور رسولوں کے علم عطا تی یعنی نوعی فرق کے ساتھ دونوں کا برابر ہے گویا ایک حقیقی خدا

(توحید نمبر ۱۲۱ بحوالہ زلزلہ)

دوسرے مجازی خدا۔

☆
اگر تھیں تو آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے۔ کہ جب رسول کو علم غیب نہیں تو آپ کے دادا جان کو کہاں سے علم غیب حاصل ہو گیا کہ انہیں مدرسہ دیوبند کے جھگڑے اور صدر مدرسہ کی شرکت کا علم ہو گیا۔ اور جد عصری کے ساتھ مدرسہ دیوبند میں تشریف لے آئے اور خواب میں نہیں عالم بیداری میں تنبیہ فرمائے اور اپس تشریف لے گئے۔

☆
کیا آپ کے جد محترم کا مقام مقام نبوت سے آگے ہے؟ اگر ہے تو کس درجہ پر؟

☆
کیا آپ جواب دینے کی زحمت گوارا فرمائیں گے کہ آپ کے جد مکرم حقیقی خدا ہیں یا مجازی خدا۔

☆
اگر اجازت ہو تو یہ بھی عرض کروں کہ آپ کے نزدیک قاعدہ اور قانون کا اختلاف نہیں ہے بلکہ موقع محل کا اختلاف ہے۔ اگر ہم یہی علم غیب انجیاء والیاء کے لئے مانیں تو شرک ہو جائے اور آپ اپنے جد کریم کے لئے ثابت کریں تو عین اسلام بن جائے۔

☆
جواب نہ دینے کی صورت میں کیا آپ اپنے مسلمات سے گرینہ نہیں کر رہے ہیں؟

ندائے یار رسول اللہ

ندائے یار رسول اللہ کا منفی پہلو:

☆ اللہ تعالیٰ نے کسی کو عالم میں تصرف کرنے کی قدرت نہیں دی اور کوئی کسی کی حمایت نہیں کر سکتا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ پیغمبر خدا کے وقت میں کافر بھی بتوں کو اللہ کے برابر نہیں جانتے تھے بلکہ اسی کی مخلوق اور اسی کا بندہ سمجھتے تھے اور ان کو اس کے مقابل کی طاقت ثابت نہیں کرتے تھے مگر یہی پکارنا اور غنیم ماننی اور نذر و نیاز کرنی اور ان کو اپنا وکیل اور سفارشی سمجھنا بھی ان کا کفر و شرک تھا سوجو کوئی کسی سے یہ معاملہ کرے گو کہ اس کو اللہ کا بندہ اور مخلوق ہی سمجھے سو ابوجہل اور وہ شرک میں برادر ہے۔

(تفویہ الیمان ص ۶)

☆ جب انبیاء علیہم السلام کو بھی علم غیب نہیں ہوتا تو یار رسول اللہ کہنا بھی ناجائز ہو گا۔ (فتاویٰ رشیدیہ عن امصنفہ مولوی رشید احمد گنگوہی)

☆ کسی کو دور سے پکارنا اور یہ سمجھنا کہ اس کو خر ہو گئی (کفر و شرک ہے)۔
(بہشتی زبور جلد ۱ ص ۷۷)

ندائے یار رسول اللہ کا اثباتی پہلو:

اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ خدائے ذوالجلال نے انبیاء و اولیاء کو ایسی قوت سماعت بخشی ہے جس سے وہ ذور و نزدیک کی پکار کو سن لیتے ہیں اور ان کی مدد فرماتے ہیں۔ لیکن دیوبندی مکتبہ، فکر کے نزدیک غیر خدا کو پکارنا، ان کو اپنا حمایتی سمجھنا، ان سے مدد مانگنا کفر و شرک ہے۔

اگر علماء دیوبند اس اصول کو تسلیم کرتے ہیں تو انہیں پوری جرأت کے ساتھ

اپنے اور بیگانے کا فرق کے بغیر کفر و شرک کا فتویٰ صادر کر دینا چاہئے جنہوں نے
غیر خدا کو پکارا ہے اور مدد مانگی ہے۔

مدد کر اے کرمِ احمدی کے تیرے سوا
نہیں ہے قاسم بیکس کا کوئی حامی کار

(قصائد قاسی)

اس شعر میں مولوی قاسم نانوتی بانی دارالعلوم دیوبند نے حضور سرور
کائنات علیہ السلام کو نہ صرف پکارا ہے بلکہ مدد بھی مانگی ہے۔

جہازِ امت کا حق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں
تم اب چاہے ڈوباؤ یا تراو یا رسول اللہ
اس شعر میں حاجی احمد الدلّ صاحب نے سرکار دواعالم علیہ السلام کو پکارا ہے۔

و شکری سمجھے میرے نبی سخنگش میں تم ہی ہو میرے ولی
جز تمہارے ہے کہاں میری پناہ فوجِ کلفت مجھ پر آ غالب ہوئی
ابن عبد اللہ زمانہ ہے خلاف اے میرے مولیٰ خبر سمجھے میری

(شیعی الطیب ترجمہ شیعی الحبیب، مصنفوہ مولوی اشرف علی تہانوی ص ۱۳۵)

ان اشعار میں مولوی اشرف علی تھانوی نے جہاں سرکار دواعالم علیہ السلام کو پکارا
ہے وہیں مدد بھی مانگی ہے۔

نانوتی صاحب کا یہ کہنا کہ یا رسول اللہ تیرے سوا قاسم کا کوئی حامی نہیں یا
تھانوی صاحب کا کہنا کہ جز تمہارے میری پناہ کہاں ہے کیا یہ لازم نہیں آتا کہ وہ
توحید کو چھوڑ کر مشرکانہ بول رہے ہیں۔

الحق ما شهدت به الاعداء مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری
علمائے دیوبند سے چند سوالات:

☆ اگر تقویۃ الایمان، بہشتی زیور، فتاویٰ رشیدیہ کا فتویٰ صحیح ہے تو حاجی امداد اللہ صاحب، مولوی قاسم نانوتوی، مولوی اشرف علی تھانوی غیر خدا کے پکارنے اور ان سے مدد مانگنے کے جرم میں کافرو شرک ہوئے یا نہیں اور اگر نہیں مسلمان ٹھہراتے ہیں تو ان کتابوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔

☆ ان حضرات نے سرکار دو عالم ﷺ کو خدا سمجھ کر پکارا اور مدد مانگی ہے یا خدا کا بندہ اور اس کی مخلوق سمجھ کر، اگر جواب ثانی میں ہے جب بھی آپ حضرات کے لئے تقویۃ الایمان نے کسی تاویل کی گنجائش نہیں چھوڑی ہے۔ تقریب ذہن کے لئے ایک بار پھر سے خاص خاص عبارت کا سرسری جائز ہے لیں۔

اللہ تعالیٰ نے عالم میں کسی کو تصرف کرنے کی قدرت نہیں دی اور کوئی کسی کی حمایت نہیں کر سکتا۔ یہی پکارنا اور مفہیں ماننی اور نذر و نیاز کرنی ان کا کفر و شرک تھا، سوجو کوئی کسی سے یہ معاملہ کرے گو کہ اس کو اللہ کا بندہ اور مخلوق ہی سمجھے سو ابوجہل اور وہ شرک میں برابر ہے۔

☆ تقویۃ الایمان کے فتوے کو تسلیم کرنے کے بعد آپ میں یہ ہمت و جرأت ہے کہ صاف لفظوں میں یہ اعلان کر دیں کہ حاجی امداد اللہ صاحب، مولوی قاسم نانوتوی، مولوی اشرف علی تھانوی اور ابو جہل دونوں شرک میں برابر ہیں۔

☆ کیا آپ حضرات کا سکوت یا بجا تاویل اس بات کی غمازی نہیں کر رہا ہے کہ آپ اپنے مسلمات سے گریز کر رہے ہیں۔

حفظ الایمان کا سرسری تنقیدی جائزہ:

دیوبندی مکتبہ فکر کے مذہبی پیشووا مولوی اشرف علی تھانوی سے کسی نے سوال کیا کہ زید علم غیب کی دوستیں کرتا ہے۔ ذاتی، عطاٹی، ذاتی علم غیب تو صرف اللہ ہی کے لئے ہے۔ رہا عطاٹی اس معنی سے رسول ﷺ عالم الغیب تھے، زید کا کہنا درست ہے یا نہیں، جس کے جواب میں موصوف نے ایک کتاب بنام حفظ الایمان لکھی جس میں سرور کائنات ﷺ کے علم پاک کو جانوروں اور چوپاؤں سے تشبیہ دے کر حضور کی شان ارفع و اعلیٰ میں کھلے بندوں تو ہین کی۔ کتاب کی اصل عبارت پڑھیئے۔

آپ کی (حضور ﷺ) ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے اس غیب سے مراد کل غیب ہے یا بعض غیب اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کیا تخصیص ہے ایسا علم غیب تو ہر زید و عمر (ہر عالی انسان) بلکہ ہر صی (بچہ) و مجنون (پاگل) بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کو بھی حاصل ہے۔

اس عبارت پر علمائے عرب و عجم کا گرفت یہ ہے کہ اس میں لفظ ایسا کے ذریعہ رسول اکرم ﷺ کے علم پاک کو جانوروں اور چوپاؤں سے تشبیہ دے کر حضور کی شان ارفع و اعلیٰ میں تو ہین کی گئی ہے اور تو ہین رسول کا مرتكب بالاتفاق کافر ہے اس گرفت کو اٹھانے کے لئے مصنف سے لے کر ان کے معتمد وکلاء تک نے طرح طرح کی تاویلات پیش کی ہیں۔ ہم یہاں صرف دو تاویل نقل کرتے ہیں۔ پڑھیئے اور ان کی تضاد بیانی کا دلکش نظارہ ملاحظہ فرمائیے۔

پہلی تاویل: مولوی اشرف علی تھانوی کے معتمد خلیفہ مولوی مرتضیٰ حسن در بھنگوی نے عبارت مذکورہ کی تاویل یوں کی ہے کہ اس عبارت میں لفظ ایسا تشیہ کے معنی میں نہیں ہے بلکہ اتنا اور اس قدر کے معنی میں ہے اگر تشیہ کے معنی میں ہوتا تو البتہ عکسِ فرک و موجہ نکل سکتی تھی۔ اصل عبارت یوں ہے۔

واضح ہو کہ ایسا کا لفظ فقط مانند اور مثل ہی کے معنی میں مستعمل نہیں ہوتا بلکہ اس کے معنی اس قدر اور اتنے کے بھی آتے ہیں جو اس جگہ متعین ہیں۔

(توضیح البيان ص ۸ بحوالہ جام نور کلکٹہ اکتوبر نومبر ص ۶۸)

دوسری تاویل: دیوبندیوں کے شیخ الاسلام مولوی حسین احمد صاحب نے زیر بحث عبارت کی تاویل میں کہا ہے کہ عبارت میں لفظ ایسا کے بجائے لفظ اتنا ہوتا تو اس وقت البتہ یہ احتمال ہوتا کہ حضور ﷺ کے علم شریف کے جانوروں کے علم کے برابر کر دیا

اصل عبارت ملاحظہ فرمائیے۔

جناب یہ تو ملاحظہ کیجئے کہ حضرت مولانا (تھانوی) عبارت میں لفظ ایسا فرمایا ہے یہ لفظ اتنا ہوتا تو اس وقت یہ احتمال ہوتا کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے علم کو اور جیزوں کے علم کے برابر کر دیا یہ حاضر جہالت نہیں تو اور کیا ہے۔

(شہاب ثاقب ص ۱۰۲)

حنفی ایمان کی زیر بحث عبارت کی تاویل میں مولوی حسین احمد کہتے ہیں کہ یہاں لفظ ایسا تشیہ کے لئے ہے اگر یہاں بجائے لفظ ایسا کے لفظ اتنا ہوتا تو البتہ یہ احتمال ہو سکتا تھا کہ حضور علیہ السلام کے علم پاک کو جانوروں کے علم


کے برابر کر دیا۔

جب کہ مولوی مرتضی حسن در بھگوی کہتے ہیں کہ اس عبارت میں لفظ ایسا ”اتنا“ کے معنی میں ہے اگر تشبیہ کے معنی میں ہوتا تو البتہ مکفیر کی وجہ نکل سکتی تھی۔ اس بجا تاویل پر چند سوالات پیدا ہوتے ہیں۔

اگر مولوی حسین احمد کی تاویل تسلیم کر لی جائے تو مولوی مرتضی حسن کے نزدیک تھانوی صاحب کی مکفیر درست ہے۔ اور اگر مولوی مرتضی حسن کی تاویل صحیح مانی جائے تو مولوی حسین احمد کے نزدیک یہ لازم آتا ہے کہ تھانوی صاحب نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے علم پاک کو جانوروں کے علم کے برادر کر دیا اور چونکہ تھانوی صاحب نے اپنے دونوں وکیلوں میں سے کسی کی تردید نہیں کی لہذا دونوں تاویلیں اپنی جگہ صحیح اور دونوں ایک دوسرے کی تاویل پر تھانوی صاحب کے کفر پر تتفق ہیں۔

کیا فرماتے ہیں علمائے دیوبند اپنے گھر کی تضاد بیانی اور اپنے مسلمات سے گریز کے بارے میں؟

(مولانا عبدالحليم صاحب اشرفی رضوی مظفر بھوری)



﴿اسلام میں تصوف﴾

تصوف کو اسلام میں باضابطہ ایک تحریک کی صورت تو بعد میں دی گئی لیکن یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ تصوف کا وجود آغاز اسلام سے ہی تھا اور ایک فن کی حیثیت سے اس کی تحریک کا سلسلہ بھی جاری رہا۔

تصوف کے لغوی اصل ”صفا“ ہے جس سے اس کی اصطلاحی تعریف کا تعین آسان ہو جاتا ہے۔ اہل فن نے تصوف کی تعریف میں مختلف اقوال پیش کئے ہیں۔
ایک مشہور قول ہے۔

”التصوف قيام القلب مع الله“

یعنی دل کو غیر اللہ سے منقطع کر کے صرف اللہ سے جوڑنا تصوف ہے۔
علمائے تصوف نے اس مضمون میں حضرت محمد بن حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ایک قول نقل کیا ہے جو تصوف کی حقیقت اور اس کی روح کی بہترین وضاحت ہے وہ قول یہ ہے۔

”التصوف خلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في التصوف“
یعنی تصوف نیک خوبی کا نام ہے اور جو شخص جتنا زیادہ خوش خلق ہوگا اتنا ہی اچھا وہ صوفی بھی ہوگا۔

خوش خلقی یہاں ایک وسیع مفہوم رکھتی ہے یہ خلق کے ساتھ بھی ہونی چاہئے اور مخلوق کے ساتھ بھی خدا کے ساتھ اخلاق برتنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اس کی

قضا پر ارضی رہے اس کے برتنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو حقوق عائد ہوتے ہیں انہیں خدا کی رضا جوئی اور خوشنودی کیلئے ادا کرے۔

تصوف ”صفا“:

اس کے مقابل کدر کدورت ہے یعنی معاملات اور اخلاق دونوں میں حد درجہ کی پاکیزگی پیدا کرنا طبیعت سے میل اور کھوٹ کا بالکل زائل کر دینا حق تعالیٰ کی عبدیت کا مخلصانہ وصف پیدا کرنا تصوف کی حقیقت اور اس کی روح ہے چنانچہ اسی پاکیزگی کی بنیاد پر اہل تصوف نے صوفیہ کے علیحدہ علیحدہ تین درجے مقرر کئے ہیں۔

(۱) صوفی (۲) متضوف (۳) مستضوف

حضرت خواجہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے صوفی کے اوصاف کے ضمن میں فرمایا۔

”الصوفی اذا نطق بان نطقه‘ عن الحقائق وان سكت، لصافت عنه الجوارح بقطع العلاقة“

حقیقی صوفی وہ ہے کہ جب بولے تو اس کی زبان پر حق جاری ہو اور جب خاموش ہو تو اس کے جسم کا ایک ایک روکلا زبان حال سے شہادت دے کہ اس کے اندر دنیا کی کوئی ہوس موجود نہیں ہے۔

متضوف کی تعریف حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے رسالتہ غذیۃ الطالبین میں یہ فرمائی کہ متضوف مبتدی ہوتا ہے اور صوفی ملتمنی وہ صوفی بننے کی کوشش میں مصروف رہتا ہے۔

اور تیسرا طبقہ متصوفین کا ہے جس کے متعلق ایک قول ہے۔

”المستصوف عند الصوفیہ کالذباب و عند غیرہم کالذباب“

یعنی صوفیہ کے نزدیک وہ لوگ جو خود کو بے تکلف صوفی ظاہر کرتے ہیں مکھی کی طرح حقیر ہیں۔

اس لئے کہ ان کے اعمال میں ریا اور دنیا کی ہوس ہوتی ہے اور یہ طبقہ عوام کے لئے بھیڑیوں جیسا ہے اس لحاظ سے کہ یہ لوگ اپنی ریا کاری سے سادہ عوام کے اخلاق و عقیدت مندی کا استھان کرتے ہیں، اور غالباً اسی طبقہ کی ریا کاریوں کی بنیاد پر ایک گروہ ایسا بھی پیدا ہوا جو سرے سے تصوف ہی کا منکر ہو گیا۔ حضرت شیخ علی ہجوری رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کا اثبات اور منکرِ تصوف کا ابطال فرماتے ہوئے اپنے رسالہ کشف الحجب میں حضرت ابو الحسن شمنہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل فرمایا ہے۔

”التصوف اليوم اسم لاحقيقة وقد كان حقيقة“

فی زمانه تصوف تو صرف ایک نام ہے (لیکن زمانہ صحابہ اور سلف میں) یہ ایک حقیقت تھا۔

اس قول کے بعد حضرت ہجوری علیہ الرحمہ نے منکرِ تصوف سے خطاب فرماتے ہوئے کہ ہم لوگ تصوف سے اس کی موجودہ صورت دیکھ کر بدگمان ہو حالانکہ اس صورت حال سے ہم خود بیزار ہیں۔ لیکن اگر تصوف کی حقیقت اور اس کے معنی سے انکار کرتے ہو تو سمجھ لو کہ تم شریعت کے منکر ہو بلکہ یہ آنحضرت ﷺ کے فضائل حیده اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے اوصاف جملہ کا انکار ہے اس لئے

کہ حقیقت تصوف سے انکار کے بعد پورا دین ریا کاری بن جاتا ہے دین کی اصل روح اور اس کی جان تو خدا اور اس کے رسول کی بھی اطاعت ہے اور یہی تصوف کی بھی روح ہے اس لئے اس کا قطعی مکر دین کا منظر ہے۔

تصوف کسی خاص وضع قطع یا علم کا نام نہیں ہے بلکہ وہ تو ایک وصف اور اخلاق کا نام ہے۔ حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔
 ”لِیسَ التَّصوُفُ رِسْوَمًا وَلَا عِلْمًا وَلَكِنَّهُ الْاَخْلَاقُ“

البتہ اگر صوفی اور تصوف کی لغوی اصل ”صوف“ ان کو سمجھا جائے تو اس اعتبار سے صوفی کے لئے مخصوص وضع قطع اور مونے کپڑے پہننا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرات صوفیہ کا عام طریق لباس گدڑی پہننا ہے اور ان کے نزدیک ایسا کرنا سنت ہے اس لئے کہ روایات میں ملتا ہے۔

”كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَلْبِسُ الصَّوْفَ“
 یعنی نبی ﷺ صوف اون کا بنا ہوا لباس پہنتے تھے۔

اور حضور نے یہ بھی فرمایا ہے۔

”عَلَيْكُمْ بِلِبْسِ الصَّوْفِ تَجَدُونَ حَلاوَةَ الْإِيمَانِ فِي قُلُوبِكُمْ“
 اون کا لباس اختیار کرو اس سے تم اپنے دلوں میں ایمان کی مٹھاں پاؤ گے۔


حضرات صوفیہ کا یہ مسلک آنحضرت ﷺ کے ان ارشادات کے علاوہ اس ارشاد کے بھی مطابق ہے کہ آپ نے فرمایا۔

”مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ“

جو شخص کسی گروہ کی مشابہت اختیار کرتا ہے اسی گروہ کا فرد شمار ہوتا ہے۔

چونکہ زیادہ تر اہل اللہ پھٹے حالوں اور چیزیوں ہی میں ملبوس رہتا پسند فرماتے ہیں اس لئے صوفی کا بھی ہی حال میں رہنا خدا کی قربت کا سبب ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم اپنے ظاہر کو اہل اللہ کے موافق آراستہ رکھتے ہیں تاکہ باطن بھی ان کے جیسا ہو جائے۔ حضرت شیخ جویری نے اس سلسلہ میں فرمایا ہے لباس کے بارے میں کسی تکلف سے کام نہ لیا جائے۔ اگر قابلی تو وہی پہن لی گدڑی میسر آئی تو اس کو پہن لیا اور کچھ نہ ملا تو اسی طرح وقت گزار لیا، کسی چیز کو عادت نہ بنائے۔ کیونکہ جب کوئی چیز عادت بن جاتی ہے تو اس سے محبت ہو جاتی ہے اور یہ محبت طبیعت میں داخل ہو کر جا ب بن جاتی ہے۔

اہل طریقت کا ایک گروہ جو ملامت کو پسند کرنے کی وجہ سے اہل ملامت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ان کا نظریہ یہ ہے کہ نفس کی اصلاح و تربیت کے لئے یہ طریقہ مفید ہے یہ حضرات شریعت کی خلاف ورزی کے بغیر ایسے کام کرتے ہیں جن سے دیکھنے والے ان کو ملامت کریں اور ایڈ اویں اور ان کا یہ عمل ان کے نزدیک مقبول بارگاہ ہونے کی علامت ہے اس لئے کہ کسی کے ساتھ کوئی برائی کئے بغیر ملامت کا برداشت کرنا نفس کشی کی بہترین صورت ہے۔



تقلید شخصی کی شرعی حیثیت

تقلید کا مادہ قلا دہ ہے قلا دہ کے معنی پڑے کے ہیں۔ باب تفعیل میں جا کر اس کے معنی گلے میں پڑھانا نے کے ہو گئے۔ اصطلاح شرع میں تقلید کے معنی علماء نے یہ لکھے ہیں۔

”تسليم قول الغير بلا دليل“

دوسری کی بات بلا دلیل مان لیتا۔

اسی کو علامہ سہودی نے عقد الفرید میں یوں بیان فرمایا۔

”التقليد قبول القول بأن يعتقد من غير معرفة دليل“

کسی کی بات دلیل جانے بغیر اس طرح مان لینا کہ اس پر اعتقاد جنم جائے۔

اگر دلیل کے ذریعہ کسی بات کے حق کا اعتقاد ہو تو یہ تقلید نہیں، بل ا دلیل محض قاتل کے ساتھ حسنطن کی بناء پر اس کی کبھی ہوئی بات پر اعتقاد جنم جائے کہ چونکہ یہ شخص اعلیٰ درجے کا دیندار صادق امین علوم و فنون کا ماہر فائق ہے۔ اس لئے جو بات کہتا ہے وہ حق ہے۔ یہی تقلید ہے معمولات شرعیہ سے قطع نظر کرتے ہوئے جب ہم روزمرہ کے حالات اور اپنی طرز زندگی پر نظر کرتے ہیں تو صاف نظر آتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر لمحہ میں تقلید کے بندھنوں میں جگڑے ہوئے ہیں۔ اس میں عوام و خواص شہری دیہاتی ہر طبقہ کے لوگ مساوی حصہ دار ہیں۔

آپ غور کریں ایک بچہ ہوش سنجا لتے ہی اپنے ماں باپ اپنے مردی کی تقلید کے سہارے پروان چڑھتا ہے ایک بیمار اپنے معاٹ کی تقلید کر کے ہی شفایا ب ہوتا ہے۔ ایک مستغیث کسی قانون داں وکیل کی تقلید کر کے ہی اپنا حق

پاتا ہے۔ راستے سے نا بلدا ایک راہ رو کسی راستہ بتانے والے کی تقلید کر کے ہی منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ ایک ناخواندہ اپنے معلم کی تقلید ہی سے صاحب علم و فضل بنتا ہے صنعت و حرفت سے عاری کسی ماہر فرن استاد کی تقلید کر کے ہی صنعت کا رہوتا ہے۔ وہ روزہ مرہ کی باتیں ہیں کہ ان سے نہ تو انکار کی کوئی گنجائش ہے اور نہ محبت و تھیص کی ایک بنگالی کا بچہ اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے کہ وہ مجھلی بحث کھاتے ہیں تو وہ کوئی دلیل طلب کئے بغیر خود مجھلی بحث کھانے لگتا ہے۔ دھوتی باندھنے لگتا ہے۔ بنگالی بولنے لگتا ہے یوں ہی پنجابی کا بچہ اپنے والدین کی عادت و خصلت دیکھ کر روٹی گوشت کھانے لگتا ہے شلوار قمیض پہننے لگتا ہے پکڑی باندھنے لگتا ہے پنجابی بولنے لگتا ہے۔ یہی تقلید ہے۔ کتب میں ایک بچہ گیا معلم نے بچے کو ایک حرف انگل رکھ کر بتایا کہ یہ ”الف“ ہے بچے نے بلا دلیل مان لیا کہ یہ الف ہے دوسرے حرف پر انگل رکھ کر معلم نے بچے سے کہا۔ ”با“ بچہ بلا بحث و تھیص اسے مان گیا کہ یہ ”با“ ہے کبھی کسی بچے نے اپنے استاد سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ کیوں پہلے والے حرف کو ”الف“ کہتے ہیں اور دوسرے کو ”با“ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اگر بچہ اس کیوں اور کیوں کر کے چکر میں پھنسا تو اصل تعلیم سے بھی محروم رہ جائے گا ایک مستغیث وکیل کے یہاں جاتا ہے اپنا مدعی عایان کرتا ہے وکیل اسے مشورہ دیتا ہے کہ وہ تعزیرات ہند کی فلاں دفعہ کے ماتحت دعویٰ کرے۔ مستغیث بلا چوں و چہ اوہی کرتا ہے۔ اسی کا نام تقلید ہے۔ ایک مریض معانج کے یہاں گیا۔ اس نے مرض کی تحقیق کر کے اس کے لئے ایک نسخہ لکھا۔ دنیا کا کوئی مریض حکیم و ڈاکٹر سے یہ بحث نہیں کرتا کہ میری یہماری کا نسخہ یہی کیوں ہے یہ دو ایسے کس طرح میرا مرض ڈور کریں گی۔ جو مریض اس بحث میں پڑا وہ اچھا ہو چکا؟ آپ ایک

مسافت طے کر رہے ہیں۔ ایک چورا ہے پہنچ کر حیرت زدہ ہو کر کھڑے ہو گئے کہ اب دائیں جائیں یا سیدھے آگے چلا چلوں، اچانک کوئی مقامی آدمی آگیا آپ اس سے سوال کرتے ہیں کہ فلاں جگہ کون سار است جائے گا۔ وہ جدھر بتاتا ہے آپ اس کی تقلید کرتے ہوئے بلا دلیل اسی راستے پر چل کھڑے ہوتے ہیں۔ اب آپ حضرات غور کریں اگر ہم تقلید کو اپنے تمدن سے نکال دیں تو ہماری معیشت کی گاڑی ایک انج آگے نہیں چل سکے گی۔ ہم اپنی زندگی کے گوش میں تقلید کے محتاج ہیں اور یہ احتیاج قوم کے ہر فرد کو عام ہے جس طرح ایک جاہل یہاں میں ڈاکڑ کا، قانونی ضرورت میں وکیل کا راستہ معلوم نہ ہونے کی صورت میں رہنما کی تقلید کا محتاج ہے اسی طرح ایک عالم بھی اور جس طرح ایک دیہاتی خوردونوش بول چال تعلیم و تربیت میں اپنے ماں باپ استاد کا مقلد ہے اسی طرح ایک شہری بھی۔

اب اگر تقلید کو ہم اپنے تمدن سے نکال دیں تو ہماری زندگی مظلوم ہو کر رہ جائے گی۔ غور کریں۔ اگر یہاں معانیج کے نہ کو استعمال کرنے سے پہلے نہ کے رہو سمجھنے کے لئے بحث شروع کروے شرح اسباب و علامات قرابا دین و معالجات نفسی کے اسباق پڑھنے لگے تو وہ اچھا تو کیا ہو گا البتہ جلد ہی دوسرے عالم کا سفر کر دے گا یونہی ایک مستغیث، وکیل سے قانون کی ل، م سمجھے بغیر دعویٰ نہ کرے تو اس کا حق مل چکا، جب تک وہ ایل بی کے نصاب پڑھنے کے لائق ہو گا دعویٰ کی میعاد بھی ختم ہو جائے گی۔ اسی لئے ہر متمدن انسان کا اس پر اجماع ہے کہ جس فن کا انسان ماہر نہ ہو اس میں کسی ماہر فن کی تقلید کرے۔ اسی لئے ہر فرد بشر کسی نہ کسی دوسرے فرد بشر کی کسی نہ کسی معاملہ میں تقلید کرتا ہوا دیکھا جاتا ہے۔

اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ تقلید ہماری زندگی کے معمولات جزو لایفک ہے اور بغیر تقلید کے زندگی بس رکنا ناممکن ہے۔ جس طرح ہم اپنی زندگی کے معمولات میں تقلید سے مستغنی نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح وینی معاملات میں بھی تقلید سے مفر نہیں۔ اس لئے امت کا اس پر اجماع ہے کہ تقلید فرض ہے اس کی فرضیت اور وجوب ایسا قطعی ہے کہ منکرین تقلید کے پیشوائے اعظم میان مذیر حسین صاحب کو بھی معیار میں یہ لکھتا پڑا۔

”سو جو کوئی اہل ایسے ذکر کا ہو گا عموماً خواہ کوئی ہو اس کا اتباع وقت لاعلمی واجب ہو گا۔“ اس لئے کسی بھی دیندار یا مدعی دینداری کی یہ یہت نہیں کہ وہ تقلید کی فرضیت سے انکار کر سکے معاملہ یہ ہے کہ اگر تقلید کو فرض قرار دیں تو پھر دین پر عمل حجذر اور شدید حجذر ہو جائے گا۔

اس کا بیان یہ ہے کہ ہم کو اللہ عزوجل اور رسول ﷺ نے اپنی اطاعت اور اتباع کا حکم دیا ہے اور اتباع و اطاعت موقوف ہے قرآن و احادیث کے حصول پر نہ صرف حصول بلکہ یہ بھی جانے پر کہ ان میں کون ناخ ہے کون منسون ہے، کون خاص ہے کون عام ہے، کون ظاہر ہے اور کون غنی، کون نص ہے کون مشکل، کون مفسر ہے کون جمل کون محکم ہے کون متشابہ، وغیرہ وغیرہ سینکڑوں باتیں ایسی ہیں کہ جب تک انسان ان سب پر کامل عبور حاصل کر کے قرآن و احادیث سے سائل کے استنباط و استخراج پر کامل وستگاہ نہ رکھے قرآن و حدیث پر عمل کرنا ناممکن ہے۔ چند مثالیں ملاحظہ کریں۔

سورہ بقرہ کے تیسوسیں روئے میں ہے۔

﴿ وَالَّذِينَ يُتَوْفَّونَ مِنْكُمْ وَيَلْدُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصُنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾

اور جو تم میں مریں اور یہاں چھوڑ جائیں تو یہ اپنے آپ کو چار مہینے وس دن روکے رکھیں۔
(کنز الایمان)

اس کے بعد اسی سورہ کے اکتسیوں رکوع میں ہے۔

﴿ وَالَّذِينَ يُتَوْفَّونَ مِنْكُمْ وَيَلْدُرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِإِذَا وَجَهُمْ مَنَاعًا إِلَى الْخَوْلِ غَيْرَ اخْرَاجٍ ﴾

اور جو تم میں مریں اور یہاں چھوڑ جائیں تو ان کے لئے وصیت کر جائیں کہ ان کو سال بھر کا نان و فقہ دیا جائے اور گھر سے نہ نکلا جائے۔

ایک ہی سورہ ایک ہی پارہ میں محصلہ ایک ہی مسئلہ کے بارے میں دو مختلف احکام ایسے مذکور ہیں کہ ان دونوں کو پڑھ کر آدمی چکرا جائے کہ وہ عمل کس پر کرے۔ پہلی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود کی عدت چار مہینے وس دن ہیں اور دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود کی عدت ایک سال ہے۔ عربی زبان کا ماہر سے ماہر پروفیسر عربی زبان پر کتنا ہی عبور رکھتا ہو۔ کس آیت پر عمل کرنا چاہئے بتا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور آگے بڑھیئے ان دونوں آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ یہود خواہ وہ حاملہ ہو یا غیر حاملہ اس کی عدت چار مہینے وس دن یا ایک سال ہے۔ مگر سورہ طلاق میں حاملہ عورتوں کی عدت کے بارے میں فرمایا گیا۔

﴿ وَأُولَئِكُ الْأَخْمَالِ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضْعَفُنَ حَمْلَهُنَّ ﴾
اور حاملہ عورتوں کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنا حمل جن لیں۔

ایک نقطہ پر آ کر سورہ بقرہ اور سورہ طلاق کی آیتوں میں شدید تعارض ہے۔

ایک شخص مرا اس کی بیوی حاملہ ہے تو اس کی عدت کیا ہوگی چار مہینے دس دن یا ایک سال یا وضع حمل اور سنتے چلے اسی سورہ بقرہ کے بائیسویں روکوں میں ہے۔

﴿كُتَبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا وَالْوَصِيَّةُ لِلَّوَادِيْنِ وَالآقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ﴾
تم پر فرض کیا گیا کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے اگر وہ کچھ مال چھوڑے تو وہ ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کے لئے وصیت کرے پر ہیز گاروں پر واجب ہے۔

لفظ اقربین عام ہے اولاد بھائی بہن دادا دادی وغیرہ سب کو شامل ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ شریعت نے کسی کا کوئی حصہ مقرر نہیں فرمایا ہے یہ مورث کے صواب دید پر ہے جس کے لئے جتنا چاہے وصیت کر جائے اس کی وصیت کے مطابق رشتہ داروں حتیٰ کہ ماں باپ کو بھی حصہ ملے گا مگر سورہ نساء کا دوسرے کوئی تلاوت کریں۔ اس میں ماں باپ، بیٹی، بیٹا، پوتی پوتا وغیرہ کے شرعی سہام کی تعین تفصیل کے ساتھ کی گئی ہے۔ عربی زبان کا کوئی کتنا ہی ماہر کیوں نہ ہو محض زبان دانی سے وہ اس گھنی کو ہرگز ہرگز نہیں سمجھا سکتا۔

یہ چند مثالیں میں نے قرآن مجید سے تقریب فہم کے لئے پیش کر دیں ہیں اگر استقصا کیا جائے تو ایک دفتر تیار ہو جائے۔ احادیث میں اس قسم کے اشکالات کی کوئی لکھتی نہیں، اب اگر تلقید کو درمیان سے نکال دیا جائے تو فرض عین کہ ہر مسلمان کو ان تمام تفصیلات کو جانے جن سے اس قسم کے اشکالات حل ہو سکتیں۔ اب اگر ہر مسلمان کو ان تمام تفصیلات کے جانے کا مکلف کیا جائے تو

اولًا یہ ممکن نہیں کہ ہر شخص ان تمام علوم کو حاصل کر سکے جو مجتہدین کے لئے ضروری لازم ہیں۔ ثانیاً، اگر بالفرض یہ تمام علوم حاصل بھی ہو جائیں تو تفہیقہ فی الدین جو خالص خدا داد اور وحی صلاحیت ہے سب کو بلکہ اکثر کوہاں نصیب حضرت امام بخاری جیسے امام فتن و ماہر حدیث نے اسی وحی فضل خداوندی تفہیقہ فی الدین کی وجہ سے ایسے عجیب و غریب فتویٰ دیئے کہ حیرت ہوتی ہے۔ مثلاً مشہور ہے کہ امام بخاری نے یہ فتویٰ دیا کہ اگر ایک لڑکا اور ایک لڑکی کسی بکری کا دودھ مدت رضاعت میں پی لیں تو حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ بخاری کو اٹھا کر دیکھئے آپ اگلست بدندہ رہ جائیں گے ایک جگہ ہے کہ پانی نجاست پڑنے سے اس وقت تک ناپاک نہیں ہو گا جب تک پانی میں نجاست کارنگ یا بو، مزہ نہ آجائے، دوسرا جگہ ہے کہ اگر کتنا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو برتن ناپاک ہے ایسا کہ اسے سات مرتبہ دھوو۔

اب آپ غور کریں ایک برتن میں پانی ہے اس میں کتنے منہ ڈال دیا پانی کا نہ رنگ بدلانا نہ بونہ مزہ توازن کہ پانی پاک رہے اور برتن بہر حال ناپاک، امام بخاری کے حفظ اتقان، تقویٰ پر ہیزگاری روایت حدیث میں احتیاط کے کمال سے انکار نہیں مگر تفہیقہ فی الدین ایک الگ نعمت ہے جو ہر حافظ صاحب کو نہیں ملتی، اسی لئے تو ایک جلیل القدر محدث نے فرمایا ہے۔ الحدیث مصلحت اللائقہ اور حضرت امام اعمش قدس سرہ نے بڑی صفائی اور دیانتداری کے ساتھ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تفہیقہ فی الدین کا اعتراف کرتے ہوئے خود حضرت امام صاحب سے فرمایا۔

نحن الصيادلة واتم الاطباء ہم دوافروش ہیں اور تم لوگ طبیب ہو
ثالثاً: چلے تفہم فی الدین بھی حاصل ہو گیا اور وہ تمام علوم و فنون جو لوازم اجتہاد
ہیں حاصل ہو جائیں تو دینداری اور للہیت کا آج کتنا فقدان ہے اسے کون نہیں
جانتا حال یہ ہے کہ بہت سے ابوحنیفہ دور ایں اور نعمان زمان بنے والوں نے جوش
عدوات دوفور محبت و افراط عقیدت کی بنیاد پر اپنے نوک قلم سے کیا کیا گل کھلائے،
اس کی تھوڑی سی سیر کرتے چلیں۔

☆ سارے دیوبندیوں وغیر مقلدین نے، اسماعیل کی "الیضاح الحق" کی
عبارت پر اسے کافر گراہ ہونے کا فتویٰ دیا۔ مگر جب معلوم ہوا کہ یہ تو ہمارے
طاائفہ کے امام کی عبارت ہے تو سب کو سانپ سوچ گیا۔

☆ ابھی چند دن کی بات ہے کہ مفتی دیوبند مہدی حسن نے جناب قاری
طیب صاحب کی ایک عبارت پر فتویٰ دیا کہ اس میں الحاد ہے۔ مگر جب معلوم ہوا
کہ یہ تو ہمارے؟ قا کی عبارت ہے تو فتویٰ بدلتا گیا۔

☆ قاسم نانو توی صاحب کے اسی شعر

جو چھو بھی دے سگ کوچہ ترا جو اس کی نعش

یقین ہے خلد میں اپنیں کا بنائیں مزار

پر پوری برا دری نے وہ فتوے دیئے کہ مزہ آ گیا، مگر جب معلوم ہوا کہ یہ
ہمارے پیر مخاں کا شعر ہے تو تاویل کے نام پر شاہنامہ کا ہفتھواں کا باب کھول دیا گیا

☆ گنگوہی کو بکرے کے نہیے بہت پسند تھے اور ان کو بہت مفید بھی اس
لئے فتویٰ دے رکھا تھا کہ یہ حلال ہیں، یہ فتویٰ ان کے مجموعہ فتاویٰ کے ایک
ایڈیشن میں موجود بھی ہے۔ مگر جب پوری دنیا نے ٹھوٹھوکیا، دوسراے ایڈیشنوں

سے اسے غائب کر کے فتاویٰ رشید یہ کوہی خصی کر دیا۔

ایسی صورت میں امت کے عام افراد کو تقیید کئے بغیر چارہ نہیں اس لئے کہ اگر تقیید تو بدھت سیہ و حرام قرار دے دیا جائے تو پھر قرآن و حدیث پر عمل کرنا سوائے معدودے چند حضرات کے امت کے اکثر بلکہ پورے افراد کو محال ہو جائے پھر لازم یہ کہ پوری امت کو قرآن و حدیث پر عمل کا مکلف کرنا وسعت سے زیادہ تکلیف دینا ہوا جو نص قرآنی ﴿لَا يكْلِفُ اللَّهُ نفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ کے صرخ منافی ہے لا جرم امت کے دو گروہ ہوئے ایک مجتہدین دوسرے غیر مجتہدین غیر مجتہدین کو حکم دیا گیا کہ وہ دینی معاملات میں مجتہدین کی طرف رجوع کریں اور ان کا اتباع کریں۔ ارشاد ہے۔

﴿فَإِنْ شَأْتُمْ أَهْلَ الْدِيْنِ إِنَّكُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾
اہل علم سے پوچھو جبکہ تم میں علم نہیں۔

اور حدیث شریف میں فرمایا۔

اس آیت کے مخاطب غیر اہل علم ہیں اور اہل ذکر سے مراد اہل علم، اور سوال سے مقصود اہل علم کے ارشاد پر اتباع کا لازم ہونا ہے۔ اس قدر پر کسی کو اختلاف نہیں، بلکہ اب تو بعد المیاد اللتی یہ بھی طے ہو گیا کہ اہل ذکر سے خاص مجتہدین مراد ہیں۔ بس جبکہ یہ نص قرآنی سے ثابت ہے کہ غیر اہل ذکر پر اہل ذکر کا اتباع واجب ہے اور فیقین اس پر متفق کہ اہل ذکر سے مجتہدین مراد ہیں تو ثابت ہو گیا کہ غیر مجتہد پر مجتہد کی اتباع واجب ہے یہی تقیید ہے۔

اس لئے اگر مجتہد کی اتباع دلیل کے بعد ہو گی تو مجتہد کی اتباع نہ ہوئی بلکہ

اپنی تحقیق پر عمل ہوا۔ اس نے مجتہد کی اتباع تقلید میں محصر ہے اس قدر پر اتفاق کے بعد وہ اصل اختلاف جس نے کروڑوں گھروں میں آگ لگا رکھی ہے جس پر تمام امت کے ناجی یا ناری ہونے کا فیصلہ موقوف ہے وہ تقلید شخصی ہے۔

امت کا اس پر اجماع ہے کہ اب ہر شخص کو خواہ عالم ہو خواہ غیر عالم واجب ہے کہ وہ ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی جملہ امور فقه میں تقلید کرے۔

صرف چند مددودے نفر جن کے دامن انبیاء کرام و اولیاء عظام کی اہانت سے بھی داغدار ہیں جس کی بناء پر وہ امت اجابت سے یقیناً خارج ہیں تقلید شخصی کو حرام بدعت بلکہ شرک حتیٰ کہ۔ ﴿وَلَا يَتَخَذُوا بَعْضَنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونَ اللَّهِ﴾ کا مصدقاق تھہرائے ہیں۔

علامہ سید احمد طحطاوی حاشیہ در مختار میں فرماتے ہیں۔

”فَعَلِيهِمْ يَا مَعْشِرَ الْمُؤْمِنِينَ بِاتِّبَاعِ الْفَرَقَةِ النَّاجِيَةِ الْمُسَمَّأَةِ بِاهْلِ السَّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ فَإِنْ نَصْرَةَ اللَّهِ تَعَالَى وَحْفَظَةُ وَتَوْفِيقَهُ فِي مَوْافِقَتِهِمْ وَخَذْلُهُمْ سُخْطَتِهِ وَمَقْتَهُ فِي مُخَالَقَتِهِمْ وَهَذِهِ الطَّائِفَةُ النَّاجِيَةُ قَدْ اجْتَمَعَتِ الْيَوْمُ فِي الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ هُمُ الْحَنَفِيُونَ وَالْمَالِكِيُونَ وَالشَّافِعِيُونَ وَالْحَنْبَلِيُونَ وَمَنْ كَانَ خَارِجًا مِنْ هَذِهِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْبَدْعَةِ وَالنَّارِ“

اے مومنو! تم پر فرقہ ناجیہ اہل سنت والجماعت کی اتباع لازم ہے، اس نے کہ اللہ تعالیٰ کی مد و اور حفظ و توفیق ان کی موافقت میں ہے اور اس کی ناراضی اور عذاب ان کی مخالفت میں ہے اور فرقہ ناجیہ نے آج اس پر اجماع کر لیا۔ اس وہ صرف مذاہب اربعہ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی ہیں جو ان چاروں سے خارج ہو گا وہ

بدعتی جہنمی ہے۔

مکرین تقلید کے امام آئندہ شاہ ولی اللہ صاحب عقد الجید میں لکھتے ہیں۔

”اعلم ان فی الأخذ بهذه المذاهب الأربع مصلحة عظيمة وفي
الاعتراض عنها كلها مفسدة كبيرة ونحن بين ذلك بوجوه“

مذاہب اربعہ کے اختیار کرنے میں عظیم مصلحت ہے اور ان سے اعتراض
کرنے میں بھاری فساد ہے، ان کو چند طریقے سے بیان کرتے ہیں۔

”احدها ان الامة قد اجتمعت على ان يعتمدوا على السلف في معرفة
الشريعة فالتابعون اعتمدوا في ذلك على الصحابة وتبع التابعين
اعتمدوا على التابعين وهكذا في كل طبقة اعتمد العلماء على من قبل
هم والعقل يدل على حسن ذلك لأن الشريعة لا يدين إلا بالقل
والاستبطاط والنقل لا يستقيم الا بان يأخذ كل طبقة عنمن قبلها
بالاتصال ولا بد في الاستبطاط من ان يعرف مذاہب المتقدمين لثلا
يخرج من اقوالهم في خرق الاجماع ويبنی عليها ويستعين في ذلك
بمن سبق لان جميع الصناعات كالصرف والطب والشعر والحدادة
والتجارة والصياغة لم تسر لاحد الابناء ملزمة اهلها وغير ذلك نادر
بعيد لم يقع وان كان جائزًا في العقل واذا تعین الاعتماد على اقواليل
السلف فلا بد من ان يكون اقوالهم اللئي يعتمد عليها مردیه بالاسناد
الصحيح او مدونة في كتب مشهورة وان يكون مخدومة يتبعين
الراجح من المرجوع من محتملاتها وتخصيص عمومها في بعض
المواضع وبجمع المختلف منها وتبين علل احكامها والا لم يصح
الاعتماد عليها وليس مذهب في هذا الازمة المتأخره بهذه الصفة“

الفہ الاممہ المذاہب الاربعہ ”

اول یہ کہ امت نے اجماع کر لیا ہے کہ شریعت کی معرفت میں سلف پر اعتماد کیا جائے تا بعین نے اس معاملہ میں صحابہ پر اعتماد کیا اور تبع تا بعین اسی طرح ہر طبقہ میں علماء نے اپنے پہلے والوں پر اعتماد کیا اس کی اچھائی پر عقل دلالت کرتی ہے۔ اس لئے کہ شریعت نقل اور استنباط کے بغیر نہیں پہچانی جاسکتی، اور نقل نہیں درست ہوگی مگر اسی طرح کہ ہر طبقہ اپنے پہلے والوں سے متصل حاصل کرے اور استنباط کے لئے یہ ضروری ہے کہ متفقین کے مذاہب کو جانا جائے تا کہ ان اقوال سے باہر نہ جائیں کہ حد اجماع ہو جائے اور تا کہ انہی اقوال کو بنیاد بنا یا جائے اور انگلوں سے اس میں مدد لی جائے اس لئے کہ تمام صفتیں مثلًا ستاری اور طب اور شعر اور لوہاری اور تجارت اور رنگ ریزی کسی کو بھی میسر نہیں ہوئی۔ مگر اس کے ماہرین کے ساتھ کام کرنے سے اور بغیر اس کے بہت نادر جو واقع نہیں اگرچہ عقلًا جائز ہے اور جب یہ متعین ہو گیا کہ (شریعت کی معرفت) میں سلف کے اقوال پر ہی اعتماد ہے تو ضروری ہے کہ ان کے وہ اقوال جن پر اعتماد ہو، اسناد صحیح کے ساتھ مروی ہوں یا مشہور کتابوں میں مدون ہو، اور یہ کہ مثبت ہوں کہ ان متحملات میں راجح، مرجوع سے ظاہر ہو اور عام کی تخصیص مذکور ہو متصاد اقوال میں تطبیق ہوا حکام کی علیمیں بیان کی گئی ہوں ورنہ ان پر اعتماد صحیح نہیں اور اس چھٹے زمانہ میں کوئی مذہب اس صفت کے ساتھ موصوف نہیں سوانیے ان چار مذاہب کے مذکورہ بالاعبار توں سے مندرجہ ذیل فوائد حاصل ہوتے۔

☆ فرقہ تاجیہ صرف اہل سنت و جماعت ہے ان کے علاوہ دوسرے تمام فرقے خواہ وہ اپنانام کچھ رکھیں جہنمی اور بدعتی ہیں۔

اس اپر اجماع ہے کہ تقلید شخصی واجب ہے۔
 تقلید شخصی میں عظیم مصلحت ہے اور اس کے ترک میں فساد بکیر ہے۔
 شریعت کی معرفت نقل اور استنباط پر موقوف ہے اور یہ دونوں سلف کے
 اقوال جانے پر موقوف ہے۔

سلف میں صرف آئمہ اربعہ کے اقوال اسناد صحیح کے ساتھ مروی ہیں اور
 صرف انہیں کے مذاہب متعلق ہیں۔

سلف میں آئمہ اربعہ کے علاوہ دوسرے مجتہدین کے اقوال نہ تو اسناد صحیح
 کے ساتھ مروی ہیں نہ کتب مشہور میں جامعیت کے ساتھ مدون ہیں کہ
 ان پر اعتماد صحیح ہوا اور نہ متعلق ہیں۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ مجتہدین میں سے صرف آئمہ اربعہ ہی کے
 مذاہب لاائق اعتماد خواہ کسی عصر کا ہو جلت شرعی ہے۔ اس لئے حضور ﷺ نے
 ارشاد فرمایا۔

”لَا تَجْتَمِعُ أَمْتَى عَلَى الضَّلَالِ“ میری امت گرامی پر جمع نہ ہو گی
 نیز قرآن میں فرمایا گیا۔

﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبَعُ غَيْرَ مَسِيلِ
 الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهُ مَا تَوَلَّٰ وَنُصْلِيهُ جَهَنَّمُ وَسَاءَ ثَمَّ مَصِيرًا﴾ (ب ۵ د کجوع ۱۷)
 اور جو رسول ﷺ کا خلاف کرے اس کے بعد کا راستہ اس پر ظاہر ہو چکا اور
 مسلمانوں کے راستے سے اس الگ راستے چلے ہم اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں
 گے اور اسے دوزخ میں داخل کر دیں گے اور یہ کیا ہی بڑی جگہ پلانے کی ہے۔

لہذا اس میں بیک و شبہ نہ رہا کہ اس عصر میں واجب ہے کہ آئمہ اربعہ میں کسی

ایک امام کی تقلید کی جائے ان کے علاوہ دوسرے آئمہ کی تقلید منوع ہے۔ اس لئے کہ ان کے مذاہب اتنے اختیاط اور جامعیت کے ساتھ آج موجود نہیں کہ ان کا اتباع کیا جاسکے۔ رہ گئی ایک صورت یہ کہ آئمہ اربعہ میں کسی معین کی تقلید نہ کی جائے بلکہ بعض مسائل میں ایک کی بعض میں دوسرے کی اس میں کیا حرج ہے۔

پہلا حرج یہی ہے کہ یہ خرق اجماع ہے اجماع اس پر ہے کہ جو جس امام کا مقلد ہو جملہ امور میں اس کی تقلید کرے۔ بعض مسائل میں ایک کی بعض مسائل میں دوسرے کی یہ ناجائز ہے اور گناہ ہے۔

دوسرایہ کہ یہ حقیقت میں امام کی تقلید نہ ہوئی اپنے نفس کی تقلید ہوئی، اس لئے کہ دوسرے امام کی تقلید ایک امام سے عدول کر کے دوسرے امام کی طرف رجوع کی بُنیاد کیا ہوگی؟ اپنی پسند کے کچھ مسائل میں امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کا اجتہاد پسند آیا تو اسے اختیار کیا اور بعض دوسرے مسائل میں دوسرے امام کا اجتہاد پسند آیا تو اسے اختیار کر لیا، یہی تو ہوائے نفس کی پیروی ہے یہ اعراض و توجہ دلیل کی قوت وضعف کی بناء پر ہے تو یہ تسلیم قول بلا دلیل نہ ہوا بادلیں ہوا پھر تقلید نہ رہی اور کالم تقلید میں ہے۔

تیسرا حرج یہ ہے کہ یہ نص قرآنی سے حرام ہے کہ کبھی ایک طریقہ اختیار کیا جائے کبھی اس کے بر عکس دوسرا، ہم کو حکم ملا ہے کہ ہم ایک ہی راستے کو اختیار کریں، اور اسی کی پیروی کریں چند راستے کا اتباع نہ کریں، فرمایا گیا۔

﴿وَلَا تَبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقُ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾
چند راستوں پر مت چلو ورنہ اس کے راستے سے ہٹ جاؤ گے۔

یہ توہر شخص جانتا ہے کہ اگر کہیں چند راستے گئے ہوں تو منزل پر وہی پہنچ گا جو ان میں کسی ایک کو اختیار کرے اور جو کبھی ایک راستہ پر کبھی دوسرے پر پھر تیرے پر پھر چوتھے پر پھر پہلے پر دوسرے پر علیحدہ القياس چلتا رہے گا، وہ راستہ ناپتا ہی رہ جائے گا منزل تک ہرگز نہیں پہنچے گا۔

اس لئے آج واجب ہے کہ جو حنفی ہے وہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کی اور جو شافعی ہے وہ حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ کی اور جو مالکی ہے وہ حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ کی اور جو حنبلی ہے وہ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کی جملہ فقیہی مسائل میں تقلید کرے، امت کے کسی فرد کو ان کے علاوہ کسی مجتہد کی تقلید جائز نہیں، اور علمین کے کچھ مسائل میں ایک کی اور کچھ مسائل میں دوسرے کی یہ بھی حرام و گناہ ہے یہ اتباع شریعت نہیں اتباع حشوی و فس ہے۔

علماء احتراف کی تقلید پر ایک بہت مشہور و معروف اعتراض امیر ترسی آنجمانی صاحب کا یہ ہے کہ تقلید کی تعریف ہے تسلیم قول الغیر بلا دلیل اور علمائے احتراف چونکہ ہر مسئلہ کی دلیل جانتے ہیں اس لئے یہ مقلدانہ ہوئے مجتہد ہوئے عرصہ ہوا۔ یہ سوال اٹھا تھا اسی وقت اس خادم نے یہ جواب دیا تھا کہ تقلید کی تعریف میں بلا دلیل کا تعلق تسلیم سے ہے۔ اس کا حاصل یہ ہوا کہ کسی کی بات کاماننا بلا دلیل ہو یعنی ماننے کے بنیاد دلیل نہ ہو کہ چونکہ اس قول کی دلیل بہت قوی ہے لہذا مان لیا ہے بلکہ ماننے میں دلیل کو قطعاً کوئی دل نہ ہو جیسے بچے ماں، باپ کی بات مانتے جاتے ہیں طالب علم استاد کی بات مانتے جاتے ہیں، مریض طبیب کی بات مانتے جاتا ہے یہ دوسری بات ہے کہ کسی بات کو مانا تو بلا دلیل ہے مگر اس کی دلیل بھی

جانتا ہو یا بعد میں جانے لگے دلیل جاننا تقلید کے منافی نہیں جبکہ وہ علت تسلیم نہ ہو دلیل کا جاننا اس وقت منافی ہے جبکہ تسلیم کی علت اور سبب دلیل ہو مثلاً یہ کہ چونکہ اس بات کی دلیل بہت قوی ہے لہذا یہ مان لیا اور فلاں کیدلیل بہت کمزور ہے لہذا اسے ترک کر دیا۔

اس طرح کامانا دلیل کی بنیاد پر ہوتا ہے یہ تسلیم القول بلا دلیل نہیں بد دلیل ہے لیکن اگر ہم ایک بات کو مان رہے ہیں مگر ماننے میں دلیل کو خل نہ ہو مانا بلا دلیل ہو تو یہ تقلید ہے خواہ اس کی دلیل جانتے ہوں خواہ نہ جانتے ہو۔ علماء احتجاف کا حال یہی دوسرا ہے کہ وہ سیدنا امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے اقوال اور ان کے مذہب مہذب کو بلا دلیل مانتے ہیں۔

اس کی دلیل یہ ہے کہ ابتداء شعور ہی سے ہم وضو، غسل، طہارت، نماز، روزہ وغیرہ سب مذہب امام اعظم رضی اللہ عنہ کے مطابق کرتے ہیں اور اس کی تفاصیل کو حق مانتے ہیں۔ جب شرح وقا یہ ہدایہ وغیرہ پڑھتے ہیں تو دلیل سے واقف ہوتے ہیں۔ اس لئے یہ مانا بلا دلیل ہو ایہ دوسری بات ہوئی کہ مان لینے کے بعد دلیل بھی جان گئے۔

(مولانا مفتی محمد شریف الحق صاحب امجدی اعظمی)

(بدعت کیا ہے؟)

غلط تصورات:

۱۳۰۲ھ میں ایک فتویٰ شائع ہوا جس میں مولود فاتحہ اور قیام وغیرہ امور خیر کو ناجائز، بدعت اور حرام کہا گیا، دلیل اس کی یہ دی گئی کہ یہ امور اس بیت کذائی کے ساتھ خیر القرون میں نہ تھے نہ حضور کے زمانہ میں، ستا بعین کے، نہ اماموں نے اس کا حکم دیا اس لئے یہ بدعت اور حدیث میں ہے۔

”کل محدثة بدعة و کل بدعة ضلالۃ“

خنی چیزیں بدعت ہیں اور ہر بدعت ضلالت ہے۔

اس دلیل کے دو انکڑے ہیں۔ (۱) مولود فاتحہ وغیرہ امور نئے اور بدعت ہے۔ (۲) ہر بدعت گمراہی ہے۔ دوسرا انکڑا تو حدیث شریف ہے۔ لیکن پہلا انکڑا کہ مولود فاتحہ وغیرہ بدعت ہیں یہ نہ قرآن میں ہیں نہ حدیث میں نہ کسی صحابی یا امام کا قول کہ کسی پرجست ہوتا یہ تو بالکلیہ مولود فاتحہ کے مخالفین کا ایجاد بندہ ہے۔ اس لئے اس کو ہم ثابت کرنے کے لئے اتنی بات اور بڑھائی گئی کہ جو کام خیر القرون میں نہ ہو وہ بدعت ہے اور یہ کام بالکل اسی صورت میں خیر القرون میں نہ تھے اس لئے بدعت پس ساری بحث کا مدار اس امر پر ہے کہ بدعت کیا ہے آیا وہی جو ان مخالفین میں ادا وغیرہ کا قول ہے یا کچھ اور۔

یہاں پر یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ مولود فاتحہ وغیرہ نیا ضرور ہے کہ موجودہ شکل و صورت میں بعد کی ایجاد ہے اور یہ حدیث اور پر مذکور ہوئی کہ ہر خنی چیز بدعت ہے

اس لئے مولود فاتح وغیرہ بھی بدعت ہو گا۔ لیکن اگر یہ شبه صحیح ہو تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ کے بعد تراویح کی باقاعدہ جماعت قائم کی اور صحابہ نے اس کی بیس رکعتیں مقرر کیں۔ کیا یہ فعل اور ان کے ہم عصر صحابہ اور وہ بدعتی اور گمراہ ہوں گے (معاذ اللہ رب العالمین) انہی غلیفہ ثانی رضی اللہ عنہ نے مسجد کی توسعی تفسیر جدید کی پھر اس میں خوب روشنی اور چرانگال کیا، کیا یہ بدعتی ہوئے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پہلی اذان جمعہ کے دن مقام زوراء پر ولائی کیا ذوالنورین کو بدعتی کہنے کی جرأت کسی میں ہے؟

مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری نے علم اصول فقہ میں ایک کتاب ترتیب دے کر شائع کی، تفسیر کی کتابیں چھپوا تھیں، شیخ انکل مولوی نذر حسین نے اسماء الرجال، علم اصول حدیث پڑھا پڑھایا اور آج کل کے سارے غیر مقلدین زیر و زبر لگا ہوا قرآن مجید چھپواتے شائع کرتے اور ہر ہر پارہ اور ہر سورۃ کی علامتیں الگ الگ لگوائے ہیں نئے قسم کے دینی مدرسے قائم کراتے اور دوسرہ حدیث کا انتظام کرتے انہیں پربس نہیں یہ دیوبند کا دارالعلوم اس کا نصاب تعلیم یہ مہمات کے لئے ختم بخاری کا درود وغیرہ وغیرہ بے شمار امور ہیں جس میں بلا امتیاز ہر کلمہ گو شریک ہے تو کیا یہ سب کچھ بھی بدعت اور سارا اسلامی گروہ بدعتی اور گمراہ ہے اگر نہیں تو مولود فاتح نے کیا قصور کیا کہ وہ تو نیا ہو کر بدعت قرار پائے کتاب فقہے محمدی، آل ائمیا جماعت اہل حدیث اور اس کی کافر نہیں اور اس کا اہتمام بدعت نہ ہو؟ اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ بدعت کی صحیح تعریف محقق ہو جائے۔

اس امر کی تحقیق مولوی عبدالسمیع صاحب مرحوم و مغفور نے اپنی کتاب انوار

ساطھے [1] میں بڑی تفصیل سے ذکر کی جس کو وہیں دیکھا جاسکتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بدعت کے بارے میں پانچ نظریے ہیں۔ چار وقت کی بنیاد پر جو غلط ہیں اور ایک موافقت و عدم موافقت کی بنیاد پر جو صحیح اور درست ہے۔

☆ جو چیز قرون ثالثہ (صحابہ تابعین، تبع تابعین) کے زمانہ میں ایجاد ہوں

وہ سنت میں داخل اور جو اس کے بعد ہو وہ بدعت و نہالت،

☆ صحابہ و تابعین کے زمانہ میں جو ایجاد ہو وہ جائز اور جو اس کے بعد ہو وہ بدعت و گمراہی۔

☆ صرف صحابہ کی ایجادیں بھی بدعت صرف حضور کی افعال و اقوال وغیرہ منت جو امور دلائل شرعیہ کے خلاف ہوں کسی زمانہ ایجاد ہوں کوئی موجود ہو بدعت سمجھے۔

☆ اور جو چیزیں دلائل شرعیہ کے خلاف نہ ہوں وہ جائز و درست۔

اب ہم تمودہ سب سے پہلے قول کا جائز لیتے ہیں جس سے بقیہ تین قولوں کی ساخت بھی نمایاں ہو جائے گی۔ یہ دعویٰ کہ ”جو چیزیں قرون ثالثہ میں ایجاد ہوں وہ سنت اور جو اس کے بعد ہوں وہ بدعت“ اس پر سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جب ہر چیز کا ثبوت آپ قرآن و حدیث، اقوال صحابہ، آئمہ مجتہدین سے طلب کرتے ہیں تو آپ خود اپنے اس قول کو سند لائیے کیا یہ کسی حدیث کے الفاظ ہیں؟ کیا قرآن عظیم کی یہ کوئی آیت ہے؟ اچھا کیا صحابہ اور آئمہ مجتہدین میں سے کسی کا قول وکھا سکتے ہیں کہ انہوں نے بدعت کی یہ تعریف کی ہے؟ اگر نہیں تو پھر کس طرح اس دعویٰ بے دلیل کو دوسروں کے سرخوب پتے ہو؟ اور کس منہ سے مولود،

مکتبہ فرید یہ ساہیوال سے طلب فرمائیں۔

فاتحہ، گیارہویں وغیرہ کے لئے قرآن و حدیث، اقوال صحابہ و آئمہ کی تصریح چاہتے ہو؟ کیا ساری پابندیاں ہمارے ہی لئے ہیں، تمہارے ذمہ کچھ نہیں جو منہ سے کہد و قرآن و حدیث۔

الغرض نہ تو کوئی آیت، نہ کوئی حدیث، نہ کسی صحابہ کا قول، نہ حکم آئمہ مجتہدین، مگر اصرار یہ کہ ہر اس چیز کو بدعت تسلیم کرو جو قرون ثالثہ میں ہیئت کردائی کے ساتھ نہ رہے ہوں بہت کچھ مطالبے کے بعد اس امر کی جودیل دی گئی۔ وہ یہ حدیث ہے۔

”خیر القرон قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم“
سب سے اچھا میرا زمانہ پھر ان لوگوں کا جو مجھ سے ملے ہیں پھر ان کا جوان سے ملے ہیں پھر ان کا جوان سے ملے ہیں۔

اولاً ہر عربی خواں اور ترجمے کے بعد ہر اردو داں یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس حدیث کو اصل مدعایے کوئی علاقہ نہیں۔ دعویٰ تو یہ کہ جو امر ان تین زمانوں میں ایجاد ہو وہ سنت ہے اور جو اس کے بعد ہو وہ بدعت ہے اور دلیل یہ کہ ”سب سے اچھا میرا زمانہ اور اس کے بعد جو لوگ ہیں ان کا زمانہ پھر جو لوگ ان کے بعد ہیں ان کا زمانہ“ اب اس حدیث کے کس لفظ کا مطلب ہے جو ان تینوں زمانوں میں ہو وہ سنت اور جو بعد میں ہو وہ بدعت اگر نہیں ہے تو اس حدیث سے یہ دعویٰ کس طرح ثابت ہو گا۔ حدیث میں تو صرف یہ بیان ہے کہ میرا اور میرے بعد تین زمانہ اچھا ہے تو کیا اچھے زمانہ میں جو بات ہوتی ہے سب اچھی ہوتی ہے۔ آخر حضور کے ہی زمانہ میں منافقین بھی تھے تو وہ بھی اچھے تھے؟ اچھے لوگ جتنا کام

کرتے ہیں سب اچھا ہی ہوتا ہے۔ حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی لڑائیاں سب سنت ہو گئیں۔

پھر اس حدیث میں راوی کو خود شک ہے کہ حضور نے دو مرتبہ قرن کا لفظ فرمایا تین مرتبہ اگر دو دفعہ والی روایت مانی جائے تو قرون شلشہ کے دعویٰ کا پتہ نہ چلے حالانکہ پہلے قول والے یہی کہتے ہیں۔ پھر قرن کے معنی زمانہ ہیں۔ ایک قرن کتنے برس کا ہوتا ہے خود اس میں بیجدا اختلاف ہے کوئی ۳۵ ھ تک قرون شلشہ کو ختم مانتا ہے تو کوئی ۲۲۰ ھ تک پس اگر ۳۵ ھ تک لججے تو اس کے بعد صحابہ کی ایجادیں ہی بدعت ٹھہری ہیں اور ۲۲۰ ھ تک سنت اس تقدیر پر رفض و خروج، جبر و قدر تمام گراہ فرقے سنی ہوں گے کہ سب ۲۲۰ ھ کے اندر اندر کے ہیں، مختصر یہ کہ یہ حدیث کسی طرح بھی پہلے قول والوں کی تائید نہیں کرتی، طرفہ یہ کہ اگر اس حدیث کا آنکھ بند کر کے وہی مطلب مان لیا جائے جو یہ لوگ سمجھانا چاہتے ہیں تو صرف یہ ثابت ہو گا کہ جو اس زمانہ میں ہو وہ سنت لیکن جو اس کے بعد ہو وہ بدعت اس کا اب بھی کوئی ثبوت نہیں یا بھی بلا دلیل ہے۔

باقیہ تینوں اقوال کا بھی یہی حال ہے کہ وہ باہم متعارض چوتھا تیسرے کو اور دوسرا پہلے کو اس طرح ایک صحیح ہو تو دوسرا باطل کیونکہ اس کی بنیاد ہی غلط ہے کہ دارومند اوقت ہے۔ پھر ان میں کتنی جرأت ہے پاکی سمجھ کہ اس کی بنیاد پر معاذ اللہ تو اسکے تابعین بلکہ صحابہ تک بدعتی اور گراہ اودین سے بھلکے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جیسا کہ اوپر کی تفصیل سے ظاہر ہے کہ ان میں بہتوں نے ہر زمانہ میں کچھ ایسے دینی امور ایجاد کئے جو زمانہ ماسبق میں ایسی ہیئت کے ساتھ موجود نہ تھے۔

یہی پریشان کن صورت حال ہے جو مولود فاتحہ وغیرہ امور خیر کو بدعت کہہ کر اور کہنے والوں کو درپیش ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں جس سے مولود فاتحہ وغیرہ تو بدعت قرار پائیں اور بنائے مدارس، ترتیب نصاب تعلیم دینی احادیث کریمہ کی کتابوں کو اس طرح شائع کرنا وہ بھی شروع و حواشی کے ساتھ، فقہ کی کتابوں کا لکھنا، قرآن شریف کے اعراب وغیرہ تنظیم جماعت الہادیث وغیرہ بایس ہست کذاں بے شمار دینی امور اور بدعت نہ ہوں۔ جب کبھی انہوں نے مولود فاتحہ کو بدعت کہا ان سے ان کا ثبوت طلب کیا گیا انہوں نے وہی حدیث ”کل بدعة ضلالۃ اور خیر القرون قرنی“ ذہرائی پس ان سے سوال ہوا اگر یہی بنیاد بدعت ہونے تھے ہونے کی ہے تو یہ سارے امور جن کو آپ رات دن ثواب جان کرتے ہیں یہ کیوں بدعت نہیں حالانکہ یہ سب تو ایجاد اور قرون ثلاثہ کے بعد کے ہیں اور مرجیہ، جبریہ، قدریہ وغیرہ گمراہ کیوں؟ سنت کیوں نہیں جبکہ وہ قرون ثلاثہ کے اندر کے ہیں۔

بدعت کی تحقیق:

احادیث کریمہ میں لفظ بدعت دونوں طرح مستعمل ہوا ہے کہیں وصف ضلالت کے ساتھ تو کہیں وصف حسن و نعم کے ساتھ۔

”وَمِنْ ابْتَدَعَ بَدْعَةً ضَلَالَةً لَا يُرِضُهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَثْمِ“
(مشکوٰۃ من ۱۳ صاحب الطابع)

جس نے بدعت ضلالت ایجاد کی جسے اللہ و رسول پسند نہ کرتے ہوں اس پر گناہ ہوگا ملا علی قاری علیہ الرحمہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں۔

”قَيْدٌ بِهِ الْأَخْرَاجُ الْبَدْعَةُ الْحَسْنَةُ“

بدعت ضلالت کی قید بدعت حسن کو اس حکم سے نکالنے کے لئے ہے۔

یہاں بدعت کا لفظ ضلالت کے ساتھ متصف ہے۔ اسی مخلوٰۃ ص ۱۱۵ پر ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے تراویح کی نماز باجماعت قائم کرائی اور فرمایا نعمت البدعتہ ہذه یہاں لفظ بدعت کلمہ نعمت کے ساتھ متصف ہے جس کے معنی تعریف و تحسین ہے۔ ان حدیثوں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ بدعت کی دو قسم ہے بدعت ضلالت اور بدعت حسن اور اسی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تعریف میں وقت اور زمانہ کی قید ایک گورکھ دھندا ہے جس کو حقیقت سے کچھ علاقہ نہیں۔ حضرت عمر نے اپنی ایجاد کو بدعت کہایا الگ بات ہے کہ اس کو بدعت حسن کہا۔

بدعت کی یہ فتیمیں مختلف علمائے اعلام و امامان ذوی الاحترام سے مردی ہیں۔

امام بنیهقی نے اپنی سند کے ساتھ امام شافعی رضی اللہ عنہ سے روایت کی:

” ما احدث و خالف کتاباً او سنة او اجماعاً او اشراً فهو البدعة
الضلاله وما احدث من الخير ولم يخالف من ذالك فهو البدعة
المحمودة ”
(بحوالہ انوار ساطعہ ص ۳۸ مطبوعہ محدثانی دہلی)

جونا ایجاد ہوا اور کتاب و سنت اجماع امت یا آثار صحابہ کے خلاف ہو بدعت ضلالت ہے اور جو بھلائی ایجاد ہوئی اور مذکورہ بالا اشیاء کے خلاف نہ ہو وہ بدعت محمودہ ہے۔

امام غزالی رضی اللہ عنہ احیاء العلوم شریف حلقہ اول و دوئم میں علی الترتیب فرماتے ہیں۔

" لا يمنع ذلك كونه محدثاً فكما من محدث حسن " (جلد اول)
كما چیز کا تو ایجاد ہونا بدعت نہیں، کتنے تو ایجاد امور خیر احسن ہیں۔

" انما المحمدور بدعـة تراـغم سـنة مـامـورـاـ بـهـا " (جلد دوم)
ممنوع وہ بدعت ہے جو کسی سنت کے خلاف ہو۔

شیخ عزیز الدین بن عبد السلام اپنی کتاب "القواعد" میں فرماتے ہیں۔

" البدعة اما واجبة کتدوین اصول الفقہ والکلام فی الجرح کمدھب
الجبریہ والقدیریہ واما مندویۃ کاحداث المدارس وكل احسان لم
یکن فی العهد الاول واما مکروہہ کر خرفة المساجد یعنی عند
الشافعی اما عند الحنفیہ فمباح واما مباحہ کالتوسع فی لذیذ الماکل
والمشارب "

بدعت یا تو واجب ہے جیسے اصول فقہ کو مدون کرنا یا علم جرح و تعدیل
میں کلام کرنا یا حرام ہے۔ جیسے جبریہ اور قدریہ کا نہ ہب یا مستحب ہے جیسے مدرسہ
بنانا اور ہر وہ اچھا کام جو حضور ﷺ کے عہد میں نہ تھا یا تو مکروہ ہے جیسے مساجد کی
ترسمیں شافعیہ کے وہاں حفیوں کے یہاں یا امر مباح ہے یا بدعت مباح ہے جیسے
عمدہ اور لنڈیہ کھانوں میں وسعت پیدا کرنا۔

اور بدعت ضلالہ و حسن کی یہ تعریفیں احادیث صحیحہ سے ماخوذ ہیں۔ مشکوٰۃ ص ۲۷
میں بخاری اور مسلم کے حوالہ سے ہے۔

" من احادیث فی امرنا ما لیس منه فهو رد "

جس نے ایجاد کیا ہمارے دین میں وہ چیز جو اس سے نہیں وہ مردود ہے۔
اس حدیث کی شرح میں صاحب مرقات فرماتے ہیں۔

"والمعنى ان من احدث في الاسلام رايًا لم يكن له من الكتاب والسنة
سندًا ظاهرًا او خفي او مستبط فهو مردود" (مرفات جلد اول ص ۲۷)

معنی یہ ہے کہ جس نے اسلام میں ایسی رائے ایجاد کی جس کے لئے کتاب و سنت
کو ظاہری دلیل یا پوشیدہ دلیل یا اخذ کردہ دلیل نہ ہو تو وہ مردود ہے۔

یہ حدیث اور اس کی شرح سے بدعت سینہ کی کتنی واضح، صاف، ستری،
بے داع تعریف ظاہر ہو گئی لوگ اس کو چھوڑ کرنے جانے کہاں مارے مارے
پھرتے ہیں۔

اور یہی حدیث اس امر پر بھی روشنی ڈال رہی ہے کہ وہ نو ایجاد چیز جس کی
دلیل شرع میں ہو وہ جائز ہے۔ چاہے جب ایجاد ہو اور یہی بدعت حسن ہے۔ اسی
لئے حدیث کے لفظ مالیس منه کی شرح میں آیا ہے۔

"فِيهِ اشارةٌ إِلَى أَنَّ الْأَحْدَاثَ مَا لَا يَنْازِعُ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ لِيُسْبَمُ مَذْمُومٌ"
اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو چیز کتاب و سنت کے
خلاف نہ ہو اس کا ایجاد کرنا بائیس ہے۔

اور یہ بدعت حسنہ نہ صرف یہ کہ شرعاً مذموم نہیں بلکہ شریعت مطہرہ کی طرف سے
اے کرنے کا حکم اور اس پر اجر و ثواب کا وعدہ ہے۔ اسی مشکلۃ ص ۳۳ میں ہے۔
"مَنْ سَنَ فِي الْإِسْلَامِ سَنَةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَاجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ
أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْءٌ"

جس نے نکالا اسلام میں کوئی اچھا طریقہ تو اس کا ثواب ملے گا، اور اس
پر عمل کرنے والوں کا ثواب بھی ملے گا اور کسی کا ثواب کم نہ ہوگا۔

امام نووی اپنی شرح جلد دو تھم ص ۳۴۰ میں فرماتے ہیں۔

”ان شعی علی الہدی کان لہ مثل اجور تابعیہ او علی الصلاۃ کان علیہ مثل آثام تابعیہ سواء کان ذالک الہدی او الصلاۃ هو الذی ابتدأه ام کان مسبوقاً اليہ وسواء کان ذالک تعليم علم او عبادة او آداب او غیر ذلک“

اگر کسی بیکنی کی طرف بلا یا تو اس نیکی پر عمل کرنے والوں کا ثواب بھی اس کو ملے گا۔ اور گمراہی کی طرف بلا یا تو اس کی پیروی کرنے والوں کا گناہ بھی اس کو ملے گا، اب وہ گمراہی یا بدایت خودا ہی کی ایجاد کردہ ہو یا اس کا موجود اس سے پہلے ہو چکا ہے پھر وہ فعل بھی عام ہے کہ از قسم علم یا از قسم عبادت ہو یا آداب وغیرہ ہو۔

الغرض ان حدیثوں، ان کی شروح اور تشرییحات علماء اسلام کا واضح اعلان ہیں ہے کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں۔ ”بدعت سیہ“ ”بدعت حسنہ“ بدعت سیہ وہ نو ایجاد چیز ہے جس کے لئے کتاب و سنت سے ظاہری یا پوشیدہ یا ماخوذ کسی قسم کی کوئی سند نہ ہو بلکہ جو سنت کوڈھانے والی ہو اور بدعت حسنہ وہ نو ایجاد امور ہیں جن کے لئے کتاب و سنت سے ظاہر یا خفی یا ماخوذ کوئی سند بھی دی جاسکے اس میں کسی زمانہ کی شرط نہیں کہ کب کی ایجاد ہے اور کب کی نہ ہو۔

وہ لوگ جو اس امر کے قائل ہیں جوئے کام قرون ثلاثہ مشہود لھا بالخیر میں نہ پائے گئے وہ بدعت، اس کے برخلاف وہ کام جو اس زمانہ میں صحابہ یا تابعین نے کئے اور ایجاد فرمائے وہ سب سنت ان کے لئے یہ ایک بڑی رحمت ہو گی کہ ایسا کام و محدثات الامور اور اس قسم کی وہ تمام احادیث جس میں بدعت سے اجتناب کا حکم آیا ہے کسی کے مخاطب صحابہ و تابعین نہ ہوں گے کیونکہ ان کی ساری

ایجادیں تو سنت ہی ہیں (معاذ اللہ) حضور نے خواہ مخواہ ہی ان کو بار بار اس سے روکا تہذید فرمائی حالانکہ وہ کرنا بھی چاہیں تو بدعت کرنہیں سکتے کہ ان کے سب افعال تو سنت قرار پا چکے۔ یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آج کل کے مدعاں علم تحقیق کے خیالات بھی پیش کر دیئے جائیں کہ وہ بدعت و سنت کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں تاکہ حق کا آفتاب مہر نیروز کی طرح دکنے لگے۔

غیر مقلد مولوی عبد اللہ رحمانی اپنی شرح موسوم بہ مرعات جلد اول ص ۱۲۲ میں لکھتے ہیں۔

” المراد بها ما احدث من الاعتقاد والقول والفعل وليس له اصل في الشرع ويسمى في عرف الشرع بدعة وما كان له الاصل في الشرع فليس ببدعة كتفسير القرآن وكتابه الحديث ”

اس سے مراد وہ اقوال اور افعال اور اعتقادات ہیں جو نو ایجاد ہوں اور ان کی اصل شریعت میں نہ ہو اور اسی کو عرف شرع میں بدعت کہا جاتا ہے اور جن امور کی اصل ہو وہ بدعت نہیں جیسے قرآن کی تفسیر اور حدیث کی تحریر۔

اسی میں چند سطر اور پر حدیث (من احدث فی امرنا) کی شرح میں ہے۔

” ان من احدث فی الاسلام رایا لم يكن له من الكتاب والسنة سندا ظاهرا او خفی ملفوظ او مستبط فهو مردود ”

جس نے اسلام میں ایسی رائے ایجاد کی جس کے لئے کتاب اور سنت سے کوئی ظاہری دلیل یا پوشیدہ ثبوت لفظ میں ہو خواہ اخذ کیا۔

ص ۱۵۸، ۱۵۹ میں ہے۔

” والمراد بالبدعة ما احدث في الدين ما لا اصل له في الشريعة يدل

علیہ واما ما کان لہ اصل فی الشرع یدل علیہ فلیس ببدعة شرعاً و ان
کان بدعة لغة واما ما وقع فی کلام السلف من استحسان بعض البدعة
فاما فی البدع اللغوية لا الشرعية فمن ذالک قول عمر " نعمت
البدعة هذه " الخ

بدعت سے مراد نو ایجاد امور ہیں جن کی اصل شریعت میں تو ہے اور
جس پر دلالت کرنے والی سند شریعت میں موجود ہو وہ شریعت میں بدعت نہیں
لغت کے لحاظ سے بدعت ہے اور بزرگوں کے قول میں جو بدعت کی تعریف ہے
تو اس سے یہی بدعاں لغویہ مراد ہیں شرعی نہیں جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا
قول " یہ اچھی بدعت ہے "۔

ان اقتباسات سے یہ ظاہر ہے کہ یہ لوگ بدعت حسنہ کو تسلیم نہیں کرتے اس
کو بدعت لغوی کہتے ہیں اور سنت میں داخل مانتے ہیں واما ما کان لہ اصل
فی الشرع کہہ کر اس کے کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اسی کتاب کے
س ۱۸۸ ص یہ حدیث (من سن سنۃ حسنة) ہے۔

" ای اتنی بطریقہ مرضیہ یشهد لها اصل من اصول الدين او صار باعثا
لترویج امر ثابت فی الشرع فله اجرها ای اجر السنۃ ومن بعده "

یعنی جس نے ایسا طریقہ دیا جو پسندیدہ ہو اور جس کی گواہی اور تائید
دلائل شرعیہ میں سے کوئی دلیل کرتی ہو، یا جو شخص شرع سے ثابت شدہ کسی امر کو
رانجح کرے تو اس کو اس سنت کا ثواب ملے گا اور اسکے بعد عمل کرنے والوں کا بھی۔

دیکھنے کس صفائی سے دوشقیں کرتے ہیں کسی ایسے امر کو رواج دے جو
شریعت میں ثابت شدہ ہے یا کسی ایسے امر کو ایجاد کیا جو ثابت تو نہیں لیکن اس کی

تائید دلائل شرعیہ سے ہوتی ہے اس کو اسی سنت کا ثواب ملے گا کوایسا امر بھی نکالنا جو ثابت شدہ نہ ہو مگر سنہ شرع سے پیش کی جاسکتی ہو سنت ہی ہے پس وہ چیز جس کو ہم آپ یا علماء اعلام اہل اسلام بدعت حسنہ کہتے ہیں وہ ان کے نزدیک سنت ہے لیکن نام بدلنے سے حقیقت تو نہیں بدلت جاتی ہم جس چیز کو بدعت حسن کہہ کر جائز کہتے ہیں آپ اسی کا نام سنت رکھ کر قبول کرتے ہیں چلیئے پہلی بھی۔

دوسری بات جو نہایت واضح ہو کر سامنے آئی کہ بدعت سیدہ (یا بقول ایک مطلق بدعت کے انہوں نے اس کے مقابل کا بدل دیا) کی یہ بھی وہی تعریف تسلیم کرتے ہیں جو ہم اعلام امت اسلامیہ سے نقل کر آئے ہیں کہ بدعت وہی ہے جو مصادم سنت ہو جس کی شریعت میں کوئی اصل نہ ہو یہ نہیں کہ فلاں فلاں وقت اور فلاں فلاں صاحب کی ایجادات سنت اور ما بعد بدعت اس کے یہ بھی مخالف ہیں کہ ایک جگہ بھی پوری بحث میں کہیں اس کا نام نہیں لیا۔ ان میں اور دیگر علمائے اہل سنت میں اگر کوئی فرق ہے تو صرف نام رکھنے کا کہ وہ لوگ جس کو بدعت سیدہ کہتے ہیں یہ مطلق بدعت اور وہ جس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں اس کو یہ بدعت لغوی اور سنت میں داخل مانتے ہیں اور ہم یہ واضح کر چکے کہ جس کے نام بدلنے سے حقائق تبدیل نہیں ہوتے اس لئے وہ نو ایجاد امور جو مخالف شرع نہ ہوں صرف اس بنا پر کہ صحابہ نے اس طرح ان کو نہیں کیا یا تابعین نے نہیں بردا۔ حضور کے زمانہ میں نہ تھے بدعت قرار نہیں دیئے جاسکتے ان کو بدعت اور ناجائز ثابت کرنے کے لئے شرع سے دلیل لانی ہو گی کہ اس حدیث یا آیت کے خلاف یا کم از کم یہ ثابت کرنا ہو گا کہ حدیث قرآن کے اس عظیم ذخیرہ میں کہیں بھی اس کی تائی نہیں ملتی اور یہ مشکل ہے۔

یہاں پہنچ کر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ امام عبدالغنی نابسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حدیقة نندیہ شرح طریقہ محمدیہ سے بدعت سے متعلق ایک طویل تحریر تقلیل کریں جس سے اس سلسلہ کی بہت سی غلط فہمیوں کا بخار دور ہو سکتا ہے۔

”ان العلماء قالوا البدعة خمسة و جهة كنظم الدائل لرد شبه الملاحدة وغيرهم ومندوبة كتصنيف الكتب وبناء المدارس ونحوها و مباهه كالتبسيط بالوان الاطعمة عند ضيافة الاخوان وغيرها ومكروهه وحرام وهم ظاهر ان فاذا علمت هذا التقسيم الذى تقدم بيانه فالمنارة المذكورة في نوع البدعة المستحبة لأنها عن المؤذنين في قصد هم لاعلام الناس بدخول وقت الصلوة المفروضة كالصلوة الخمس والجمعة المراد من الاذان شرعاً اذ معناه لغة مطلق الاعلام وفي الشرع هو الاعلام بوقت الصلاة وفي المنارة اعنة في انتشار ذلك بين المسلمين“

علماء نے فرمایا کہ بدعت کی پانچ قسمیں ہیں۔ واجب جیسے محدثین کے شہبے کا رد ترتیب دینا، اور مستحب ہے جیسے کتابوں کی تصنیف اور مدرسون کی بنا وغیرہ اور مباح جیسے احباب کی دعوت کے وقت انواع و اقسام کے کھانے بنانا وغیرہ۔ اور مکروہ و حرام ہے جس کی بے شمار مثالیں ظاہر ہیں، اس قسم پر مطلع ہونے کے بعد یہ ظاہر ہے کہ ”منارہ مسجد“ بدعت مستحبہ میں سے کیونکہ اس سے موزونوں کو اپنے ارادہ (یعنی لوگوں کو نماز پڑھگانہ اور جمعہ اعلان) میں مدد ملتی ہے اعلان سے ہماری مراد شرعی اذان ہے کیونکہ اعلان لفظ میں مطلق ہر چیز کے اعلان کو کہتے ہیں اور منارہ سے مسلمانوں کے درمیان اذان کی آواز پھیلانے میں جو مدد ملتی

ہے دوسرے ذریعے سے نہیں۔

”ما لیس فی غیرہا والمدارس المبنیۃ العلمن والقراءة القرآن وتصنیف الكتب الشرعیۃ فی علم التوحید والعقائد والاحکام الفقهیۃ والتفسیر والحدیث والۃ ذلک كالنحو والصرف واللغة ونحو هذا معینۃ للتعلیم بسبب تقریر المسائل وايضاحها وابراط کل شی فی محلہ من الابحاث المناسبة والاشکالات والاجوبۃ وتحریر الادلة وبيان الخلاف حتی یسهل معرفة ذلک العلم والمتعلم عن مھصول التبیغ من العلماء الاولین الى فضلاء المتأخرین“

ای طرح مدرسون کی بناء علم اور قرأت قرآن کے لئے اور شرعی کتابوں کی تصنیف از قسم علم توحید، عقائد، احکام فقهیہ، تفسیر اور حدیث اور اس کے مددگار علوم جیسے نحو، صرف، لغت یا اسی قسم کے اور علوم جو تعلیم میں مددگار ہوں یوں بھی مسائل کی تقریر اور اس کی وضاحت اور مسئلہ کے مناسب بحثوں کی حسن ترتیب، اعتراضوں کا جواب اور دلائل کی تحریر، یا خلافیات کا بیان جس سے اس علم کی معرفت متعلم کو آسان ہو اور متفقہ میں کے علوم متاخرین تک پہنچانے میں مدد ہو۔

”فکل احد مما ذكر من بناء المدارس والمنارة وتصنیف الكتب وترتيب الدلائل ما دون من قبل الشارع اذ قصدهبقاء ما شرع وتقواه وازاله ما يمانعه وهذا المعنى موجود فيما ذكر بل مامور به من قبل الشارع ولو على طريق العلوم كما قال تعالى ولا تقولوا على الله إلا الحق فبناء المنارة والمدرسة من جمله محافظه الصلة وتصنیف الكتب ونظم الدلائل من جملة قول الحق على الله وعدم قول الباطل ومارشیہ فی ذلک“

پس یہ ساری باتیں جو اور پر مذکور ہوئیں جیسے مدرسے، منابع، تصنیف، کتب ترتیب دلائل وغیرہ، شرع کی طرف سے ان کی اجازت ہے اس لئے کہ شریعت کا مقصد احکام شرع کی بمقابلہ اس کی تقویت اور اس کے مراحم کا دفاع ہے اور یہ بات مذکورہ بالا امور سے بد رجاء تم حاصل ہوتی ہے بلکہ یہ چیزیں شرعاً مأمور ہیں یہ اور بات ہے کہ ان کا جواز حکم عام میں حاصل ہے مثلاً اللہ تعالیٰ نے حافظوا علی الصلوٰۃ فرمایا (نمازوں کی حفاظت کرو) لا تقولوا علی اللہ الا الحق فرمایا (چیز بات ہی یو لو) پس منارہ اور مدرسہ کی بنا حفاظت صلاۃ میں داخل ہے اور تصنیف کتب اور ترتیب دلائل "قول الحق" کے زمرة میں شامل ہے اس قیاس پر اور امور کو جانچا جاسکتا ہے۔

"وَدُمْ وَقُوعَ كُلِّ مِنْ ذَالِكَ فِي الصُّورِ الْأُولِي زَمَانَ الصَّحَابَةِ وَالْتَّابِعِينَ وَتَابِعِي التَّابِعِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ إِمَّا لِعدَمِ الْحِاجَةِ إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْ ذَلِكَ مِنْ لَا سْتَغْنَاهُمْ بِكُثْرَةِ الْإِجْتِهادِ وَالْمُجْتَهَدِينَ عَنْ تَدْوِينِ الْعِلُومِ بِسَهْوَةِ مِرَاجِعِ الشَّفَاقَاتِ مِنْ أَئِمَّةِ الدِّينِ عَنْ تَصْنِيفِ الْكِتَابِ وَبِقَلْةِ الْمُخَالِفِينَ عَنْ نَظَمِ الدَّلَائِلِ أَوْ لِعدَمِ الْقُدْرَةِ فِيهِ لِعدَمِ الْمَالِ فِي اِنْفَاقِ عَلَى بَنَاءِ الْمَنَارَةِ وَالْمَدَارِسِ وَجَعْلِ الْاِقْافِ عَلَيْهَا وَالْوَظَائِفِ أَوْ لِعدَمِ التَّفْرِعِ لِفَعْلِ ذَلِكَ بِالاشْغَالِ لِيَلَهُ وَنَهَارًا وَظَاهِرًا بِاطْنَا بِالاَهْمَمِ مِنْ ذَلِكَ عَلَى حَسْبِ مَا يَعْمَلُونَ مِنْ قَتَالِ الْكُفَّارِ وَفَعْلِ الْبَلَادِ وَتَمْهِيدِ الْقَوَاعِدِ الْاسْلَامِيَّةِ وَالْقَوَانِينِ الْايَمَانِيَّةِ بَيْنِ الْعِبَادِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَى فَعْلِ السَّنَةِ النَّبُوَّةِ وَالسِّيرَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ وَالْقِيَامِ بِهَا فِي الْاَحْوَالِ كُلُّهَا صَوْتاً لَهَا مِنْ الضِيَاعِ وَالْاِسْتِبْدَالِ وَذَالِكَ مِنْ الْاعْذَارِ الْمَانِعَةِ لَا وَائِلَ عَنْ عَمَلِ ذَالِكَ كَعَدَمِ حدوثِ مَا يَقْنَعُنِيهِ فِي زَمَانِهِمْ

وجود ما یغنى عنه فی ذلک الزمان دون غيره وعدم تسهیم لمثله ”
 اگر یہ سوال ہو کہ اگر یہ پاتیں اسی مامور بنا تھیں تو خیر القرون میں یہ
 کیوں نہیں کی گئی تو جواب یہ ہے کہ مختلف و جمیں ہو سکتی ہیں مثلاً اس وقت اجتہاد
 اور مجتہدین کی کثرت تھی اس لئے انہوں نے اس کے باقاعدہ انتظام کی ضرورت
 محسوس نہ کی۔ کہ کتابیں تصنیف ہوں اور مخالفین کی کمی کی وجہ سے نظم دلائل کی
 حاجت نہ تھی مال کی کمی بنائے منارہ اور مدارس میں حاصل ہوئی یا یہ وجہ ہو کہ رات و
 دن علی الاعلان اور تہائی میں ہر طرح ہر دم ان امور سے زیادہ اہم معاملات میں
 مشغول رہے ہوں جیسے جہاد، فتح بلاد، قواعد اسلامیہ اور قوانین ایمانیہ کی تقویت اور
 نبی رسول اللہ کی محافظت یہ اور اسی قسم کے بہت سے ہو سکتے ہیں جو خیر القرون
 میں ان افعال کے وجود میں مانع ہوں۔

” ولو تتعینت کلمًا قيل في بدعة حسنة وجدته ماذونا فيه من قبل الشارع لكل أحد اشارة في آية او حديث او دلالة من آية او حديث لا يكاد ويخرج شيء من ذلك اصلاً ماذكر والقصور في عدم الاطلاع وقد سُنَّ عن بعض العلماء عن هذه المقامات المنصوبة حول الكعبة التي يصلون فيها لأنّ ائمّة أربعة على مقتضى مذاهب أربعة ما كانه السنة على ذلك ولا عصر التابعين ولا تابعيهم ولا هذا الانتماء الأربعه ولا أمر بها ولا طلبواها فاجاب بانها بدعة لكنها بدعة حسنة لا سيئة لأنها تدخل بدليل السنة الصحيحة وتقررها في السنة الحسنة لأنها لم يحدث لها ضرر ولا حرج في المسجد ولا في المصلين من المسلمين وتقربها في السنة الحسنة لأنها لم يحدث منها ضرر ولا حرج في المسجد ولا في المصلين من المسلمين فعمامة اهل السنة

والجماعۃ بل فیها عمیم النفع فی المطر والحر الشدیدة والبرد فیها للقرب عن الامام فی الجمعة وغيرها فھی بدعة حسنة و یسمون بفعلهم السنۃ الحسنة وان کان بدعة باهل السنۃ لا اهل البدعة لان صلی اللہ علیہ وسلم قال من سن سنۃ حسنة قسمی المبتدع للحسن مستأنا فادخله النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی السنۃ وقرن بذالک الابتداع وان لم یرد فی القول فقد ورد فی القول فقد ورد فی القول فالسان سنی لدخوله بتسمیة النبي صلی اللہ علیہ وسلم فيما قر من السنۃ وضابطه السنۃ ما قرره احد فعله النبي صلی اللہ علیہ وسلم ودام علیه واظہرہ ومن جملة فعله النبي صلی اللہ علیہ وسلم سبکوته علی امر لانه تقریر و اذن فی ابتداع السنۃ الحسنة الی یوم الدین وانه ما ذون له بالشرع وما جور علیها مع العالمین لها برواماها”

بدعت حسنة کے بارے میں جو کہا گیا اگر اس کا بغور مطالعہ کرو تو تم اس کے مامور من الشرع پاؤ گے اور ہر ایک کا اشارہ کسی آیت، حدیث میں، یا آیت یا حدیث کی دلالت ضرور ہو گی کوئی بدعت حسنہ اس اشارہ یا دلالت سے خالی نہ ہو گی کوئی اس کی تہہ تک نہ پہنچ سکے یا اور یہ بات ہے۔

کسی نے ایک عالم سے حرم شریف کے چاروں مصلی کے بارے میں پوچھا کہ یہ تو نہ عہد نبوت نہ زمانہ صحابہ نہ تابعین نہ تبع تابعین میں تحانہ خود ان اماموں نے اس کا حکم دیا تو انہوں نے فرمایا یہ بدعت حسنة ہے بدعت سیئہ نہیں کیونکہ یہ امر سنت صحیح کی دلیل اور تقریر سے سنت حسنة میں داخل ہے کہ اس کی بنا سے مسجد یا مسلمان مصلیوں میں کوئی حرج پیدا نہ ہو، بلکہ اس میں تو ایک عام نفع ہے۔ بارش اور سخت گرمی اور سخت سردی کے عالم میں اور جمعہ وغیرہ میں امام سے

نژد یکی کا فائدہ ہے تو یہ بدعت حسنہ ہی ہے۔ اور تم دیکھتے نہیں کہ وہ اپنے اسی اتباع سنت کی وجہ سے اہل سنت کبھی جاتے ہیں اہل بدعت نہیں کہ جاتے حالانکہ کام نیا کیا ہے کیونکہ حدیث میں اچھی نئی بات نکالنے والے کو سنت پر عمل کرنے والا کہا گیا، تو حضور نے اپنے فرمان میں ایجاد اور سنت کو ایک ساتھ ذکر کیا تو ان افعال کا سنت ہونا حضور کے فعل سے گوئا بست نہیں قول سے ثابت ہے پس نئی بات پیدا کرنے والا سنی ہے کہ حضور نے اس کو سنت قرار دیا۔ تو قاعدہ کلیہ یہ ہوا کہ حضور نے جس کو کیا کہا، اور مد اومت فرمائی اور ظاہر کیا سنت ہے اور حضور کا ایک کام یہ بھی تو ہے کہ کام کرتے دیکھ کر چپ رہے تو یہ اس بات کی اجازت ہے کہ قیامت تک اچھی باتیں نکالی جاسکتی ہیں اور ان پر اجر و ثواب ہے۔

امام موصوف کی اس مبارک تحریر سے حسب ذیل امور بصراحت ثابت ہوئے۔

☆ بدعت کی پانچ فرمیں ہیں۔ اجب، مستحب، مباح، مکروہ، حرام ظاہر ہے کہ پہلی تین کا تعلق حسنہ سے ہے اور آخری دو کا سینہ سے پس جس چیز کو نو ایجاد دیکھا آئکہ بند کر کے اس پر بدعت کا فتویٰ دیکھ گناہ قرار دینا حماقت ہے۔

☆ مسجد میں اذان کے لئے منارہ بنانا، دینی مدارس کی تعمیر، کتابوں کی تصنیف اور دلائل کی ترتیب بدعت مستحبہ میں سے ہے کہ منارہ اذان میں مددگار، مدرسہ اور کتابیں علم دین اور تعلیم قرآن اور تبلیغ شریعت میں مددگار، گویا جو کسی امر خیر کی تجھیں کا ذریعہ ہو وہ خود مستحب اور باعث ثواب تو کیا گیا رہوں، میلاد، فاتحہ، قیام وسلام، ایصال ثواب، رفتہ ذکر مصطفیٰ ﷺ میں معین و مددگار نہیں جو شرعاً محبوب و مأمور یہ ہیں۔

☆ اوپر جن بدعتات حسنہ کا ذکر آیا ان سب کی شریعت کی طرف سے

اجازت ہی نہیں شریعت نے اس کا حکم دیا ہے ماذون من الشرع ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ان سب کا مقصد شریعت کی بقاء اس کی تقویت، اس کی مخالفت کا ازالہ ہے اور اس کا پاتی رکھنا ہے۔ اس کی تقویت مامور من الشرع ہے تو جو ذرائع اس کے ہوں وہ ضرور ماذون ہوں گے۔

مامور من الشرع ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا حافظو علی الصلوٰۃ اور من اہرہ بنا نے اور مدارس تعمیر کرنے میں حفاظت صلوٰۃ ہے تو گویا علی سبیل العلوم یہی یہ امور بھی حافظو علی الصلوٰۃ کے امر میں داخل ہوئے اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ لَا تقولوا علی اللہ الْحَقُّ ، اور دینی کتابوں کی تصنیف اور دلائل کی ترتیب علی سبیل العلوم ہی یہی قول علی اللہ الحق کے مصدق میں شامل ہے لہذا مامور بہ ہوئے پس کیا فاتحہ مر و جہ او ر گیارہویں وغیرہ ایصال ثواب ولد صالح یہ عوالم کے عموم میں شامل ہو کر ماذون بہ شرعا نہ ہوں گے۔ اور میلاد و قیام و رفعنا لک ذکر ک اور واما بنعمت ربک فحدث کے عموم میں شامل ہو کر مامور بہ شرعا نہ ہوں گے۔

☆ کوئی شخص صرف اتنی سی بات سے ان امور خیز کو حرام اور بدعت نہ قرار دے کہ یہ امور زمانہ سلف میں نہ تھے زمانہ صحابہ و تابعین و تبع تابعین میں ان کا ظہور نہ ہوا کیونکہ اس کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں۔
(الل) اس زمانہ میں مجتہدین کی کثرت کی وجہ سے تصنیف کی ضرورت ہی نہ تھی۔


(ب) مخالفین تھے اس لئے مناظرانہ دلائل کی حاجت نہ تھی۔

(ج) ان کے پاس اتنا مال نہ تھا کہ یہ شاندار مساجد ان کے منارے، عالیشان در سے اور کتابوں کے بیش بہا مصارف برداشت کر سکتے اور اس کے لئے اوقاف و وظائف مقرر کرتے۔

(د) ان سے اہم امور میں مثلاً کافروں سے جہاد ملکوں کی فتح اور اسلام کے بنیادی اصولوں کی مضبوطی اور احادیث نبویہ کی حفاظت و اشاعت سے انہیں فرصت ہی نہ ملی کہ اس تزک و احتشام اور اس انتظام و اہتمام کے ساتھ ان امور کی طرف متوجہ ہوئے۔

یہ اور اس کے اور بہت سے اعذار ہو سکتے ہیں پس کیا میلاد وفات کے سلسلہ میں ان اعذار اربعہ میں سے کوئی بھی ممکن نہیں جو اس وقت میں اس ہیئت کے ساتھ ان کے عدم رواج کا سبب بنا ہو کہ بار بار ہم سے پوچھا جاتا ہے صحابہ نے مروجہ میلاد وفات کیوں نہیں کیا وہ خیر کے طالب نہ تھے کیا وہ رسول ﷺ سے کچھ کم محبت کرتے تھے؟ ہم کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس وقت اس سے اہم امور میں مصروفیت، قلت مال وغیرہ اعذار کی وجہ سے وہ اس اہتمام سے نہ کر سکے ہوں تو ان کا نہ کرنا اس کے حرمت کی دلیل کب ہے۔

(مولانا مفتی عبدالعزیز صاحب اعظمی)



﴿اسلام اور کمیونزم﴾

عام تجربات اور روزمرہ کے مشاہدات کی روشنی میں بے جھگ اور بے خوف و خطر یہ کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں جب بھی حق اور جھوٹ، حق اور باطل، امانت سعادت اور شقاوت شرافت اور رذالت، لطافت اور کشافت اور اطاعت اور بغاوت کی آمیزش ہوئی ہے تو فتح حق کی ہوئی ہے جھوٹ کی نہیں، حق کی کرنیں چکی ہیں باطل کی نہیں، امانت کا ذکر کا بجا ہے خیانت کا نہیں، سعادت نے سرپرستاج رکھا ہے شقاوت نے نہیں، شرافت کا نقابہ بجا ہے رذالت کا نہیں، لطافت نے دل و دماغ کے گوشوں میں جگہ پائی ہے کشافت نے نہیں اور اطاعت سر بلند اور سرفراز ہوئی ہے بغاوت نہیں!

اس کی وجہ یہ ہے کہ سچائی، حق، امانت، سعادت، شرافت، لطافت اور اطاعت ہی بنی آدم کا طرہ امتیاز ہے خود خالق عالم بھی اس کے ان اوصاف سے متصف ہونے پر فرماتا ہے ﴿ولقد کرمنا بنی آدم﴾ اور جب ذرا آگے بڑھتے ہیں تو پھر یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ قدرت نے تخلیق انسانی کو علمہ البيان سے سرفراز کرتے ہوئے ساری مخلوقات پر فوقيت دے کر اسے واضح کر دیا کہ حسن خلق کا پیکر سوائے اولاد آدم کے دوسرا نہیں ہو سکتا۔

اہل علم اور اہل واثق کے علاوہ کسی اجڑہ، جاہل اور گتوار آدمی سے بھی اگر یہ پوچھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے کس کا درجہ بلند ہے؟ تو یقین جانیئے وہ دماغ پر زور ڈالے بغیر بڑی آسانی سے کہدے گا۔ ”آدمی“ - کیونکہ وہ اپنی فکر و نظر کی تمام سماتوں میں جب اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر نظر ڈالتا ہے تو

اے سوائے آدمی کے اہل حق اس سے اسی اور افضل دکھائی نہیں دیتا!

دین فطرت کے داعیان علیہم السلام نے اپنے زمانہ دعوت میں انسانوں کو خلق و مروت کا پیکر بننے اور انسانی عظمت اور وقار کے سمجھنے اور اس سمجھ کے بعد اسے برقرار رکھنے کے لئے ہی فکری، نظری اور عملی تعلیم دی، جنہوں نے ان کا کہا مانا وہی صحیح معنوں میں اس انسانی معاشرہ کے افراد کہلانے اور دنیا نے ان کی پیروی کی۔

جب منصب نبوت کو حضرت رسول مقبول ﷺ کی ذات والاصفات سے سرفرازی ملی تو اس پیکر خلق عظیم نے سب سے پہلے "اللہ" کا تصور اس طرح کرایا کہ وہی سب سے بزرگ اور برتر ہے وہی سمجھوں کا خالق ہے اور ایک نہ ایک دن اسی کے پاس جانا ہے! اس لئے نظام حیات ایسا ہو جس میں نہ تو انسانوں کی ذات پات، رنگ، نسل، ماں اور قوم کی کوئی قید ہو اور نہیں ان کی آزادی میں غلامی کا شانہ بھی آسکے! بلکہ صحیح معنوں میں "مساوات" رہے۔ چاہے ان کا شہری حق ہو یا سیاسی ہو یا معاشی! اس نظام حیات کا تقاضا اور مقصد وجید صرف انسانیت کی فلاح و بہبود ہونا چاہئے۔

چنانچہ تاریخ کے اور اقی اس بات پر شاہد ہیں کہ (اسلامی) نظام حیات کا کوئی گوشہ اس خصوصیت سے خالی نہیں ہے۔ انسانوں کے شہری، سیاسی اور معاشی حقوق چاہے ذاتی یعنی انفرادی ہوں یا اجتماعی، ہر ایک کی روح وہی انسانیت کی فلاح و بہبود ہے ہاں اگر کوئی شرط ہے تو یہ وائرہ "اعتدال" سے باہر نہ ہو۔

مثال کے طور پر یہ تو سمجھی جانتے ہیں کہ ایمان بالغیب کے بعد نماز کا درجہ

ہے اور اسی بنابرائے "عماد دین" کہا گیا ہے۔ مگر یہ حکم نہیں ہے کہ دن رات کے چوبیس گھنٹے صرف نماز ہی میں مشغول رہیں بلکہ فرمان ہے۔ ان الصلوٰۃ کانت علی المؤمنین کتاباً موقوتاً روز کے لئے بارہ گھنٹیوں میں سے صرف ایک گھنٹہ اب کھانے اور پینے کے لئے عام اجازت "کلوا و اشربوا" کہ ساری حلال چیزوں کھاؤ پوچھ مگر "ولا تسرفوا" صدقہ اور خیرات کا بھی حکم ہے۔ مگر "ولاتبسطها کل البسط"

اسی طرح اور دوسراے اوامر کے متعلق بھی ہے جس کی تفصیل میں جانے کے لئے چونکہ رسالہ کے صفحات متحمل نہیں ہو سکیں گے، اس لئے اسے یہیں چھوڑتا ہوں مگر اس ضمن میں اتنا عرض کئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ہر ایک کے لئے "اعتدال" کی قید لگی ہوئی ہے جس کی غرض صرف یہی ہے کہ اسلام کا تصوراتی اور اجتماعی نظام درہم برہم نہ ہونے پائے اور ہر فرد اپنی علمی، عقلی وہی اور جسمانی طاقتوں اور صلاحیتوں کا پورے طور سے استعمال کرے اور اس سے خود بھی مقتمع اور مستفید ہو اور دوسروں کو بھی نہ صرف مقتمع اور مستفید کرے بلکہ ان میں بھی اپنی ان گوناگوں صلاحیتوں کو کام میں لانے کی لگن پیدا ہو اور وہ ایک مثالی معاشرہ اور مثالی نظام حیات کے مثالی افراد ہو سکیں۔

اسلام کے معاشری نظام میں ایسی سرمایہ داری (اپنی ضرورت سے فاضل بچی) ہوئی دولت جس کے حصول میں حرام اور ناجائز ذرائع مثلاً سود، سود و رسو، احتکار (ضرورت کی چیزوں کو اس لئے روک رکھنا کہ ان کی قیمتیں گراں ہو جائیں۔ بد دیانتی اور بے ایمانی وغیرہ استعمال نہیں کئے گئے ہوں، وہ بالکل جائز ہے اور

اسلام بھی ایسی سرمایہ داری کے خلاف نہیں۔ لیکن یہاں پر یہ بھی یاد رہے کہ اسلامی سرمایہ دار کا ”سرمایہ“ جیوں کا تیوں نہیں رہ سکتا اور نہ ہی وہ صرف بڑھتا ہی رہے گا کیونکہ جہاں پورے ایک سال کی مدت گذرے گی سرمایہ دار کو اس سرمایہ کی مجموعی رقم میں ڈھانی فیصلہ یعنی ہر سوروپے پر ڈھانی روپے کے حساب سے زکوٰۃ دینا ہوگی اور اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرنا ہو گا اگر نہیں کیا سنئے فرمان باری۔

﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الْأَذْهَبَ وَالْفِضْلَةَ وَلَا يَنْفَقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرُهُمْ بِعِدَابِ الظِّلَامِ ﴾

جو لوگ سونے اور چاندی کے ڈھیر جمع کرتے رہتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اسے خرچ نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔

اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن نشین رہے کہ زکوٰۃ کا یہ کیا حکم ہے؟ یہ ایسا اٹل ہے کہ اگر کوئی مسلمان زکوٰۃ کی ادائیگی میں ثالث مٹول کرے اور اس سے انکار کرے تو حاکم وقت اس سے جہاد کرنے کا مجاز ہے۔ دوسرا بات جو اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے کہ یہ سرمایہ اسی وقت تک اکٹھا رہے گا جب تک اس کا حاصل کرنے والا زندہ رہے گا، اس کے مرتے ہی اس کا سارا سرمایہ اس کے وارثوں میں ان کے حصوں کے مطابق تقسیم کر دیا جائے گا۔ اس میں نکتہ یہ ہے کہ اگر یہ اصول نہیں بنایا جاتا تو باپ کے بعد اس کا بڑا بیٹا اور پھر اس کے بعد اس کا بڑا بیٹا (جبکہ جا گیر دارانہ نظام کا عام وستور ہے) اس سرمایہ کا مالک اور مجاز ہوتا اور اسلام میں جا گیر دارانہ نظام رواج پا جاتا جو اسلامی نظام معاش کی روح کے بالکل منافی ہوتا

اللہ تعالیٰ کا فرمان سنئے:

﴿كُمْ لَا يَنْكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾
تاکہ دولت تم میں سے دولتمندوں کے درمیان محصور ہو کر نہ رہ جائے۔

محقری یہ کہ چونکہ اسلامی نظام اللہ تعالیٰ کا اتنا رہا ہے اس لئے اس میں انفرادی اور اجتماعی آزادی ہے اور یہ آزادی نہ صرف اس کی ذہنی اور جسمانی نشوونما کے لئے ہے بلکہ اس کے شہری سیاسی اور معاشی حقوق کو بھی حاصل ہے مگر ”سواءً أَسْبَلَ،“ (راہِ اعتدال) سے ایک انجی بھی ہٹ کر نہیں! اسی لئے یہ آسان، سہل الحصول، قابل قبول، آفاقتی، ہمہ گیر عالمگیر، پائیدار اور مخصوص ہے اور رہے گا! لیکن اس کو بخشنے کے لئے سب سے پہلے ایک اللہ کا تصور کرنا ہوگا اور حضرت سرکار دو عالمیت کو ہادی عالم اور حجت عالم مانتا ہوگا اور امور معادن اور جزا پر یقین کامل رکھنا ہوگا۔

اسلامی نظام حیات پر طائز نگاہ ڈالنے کے بعد اب مناسب یہ ہے کہ اشتہانی اصولوں پر ترتیب دیئے ہوئے نظام حیات کا سرسری جائزہ لیا جائے۔ تاکہ عام طور سے ہمارے نوجوانوں میں جو بے راہ روی آتی جا رہی ہے اس کا سد باب ہو سکے۔ بالفرض مجال اگر مجال اگر پورا سد باب نہ بھی ہو سکے تو کم سے کم اتنا تو ضرور ہو کہ اس ناچیز رقم، جسے اپنی عملی کم مانگی اور بے بضاعتی کا اقرار ہے، کے ذمہ جو فرش ہے وہ تو ادا ہو جائے۔ اشتہانی نظام حیات کو پیش کرنے سے پہلے اس کی ترتیب و تدوین کے محکمات کا پیش کرنا غالباً نامناسب نہ ہوگا۔

صنعتی انقلاب ۲۸ءے سے پہلے مغربی ممالک میں باڈشاہ مطلق العنان اور بے فکر تو ہوتے ہی تھے، عیش و آرام بھی استثنے ڈوبے رہتے تھے کہ انہیں اپنی رعایا

کے وکھ دروکی بالکل پرواہ نہ تھی، اپنا خزانہ ہمیشہ بھرا پڑا رکھنے کے لئے سامنتوں (زمین داروں اور رئیسوں) کو اپنا آہل کار بنا رکھا تھا، جو رعایا سے قہر و جبر کر کے کافی رقم وصول کرتے مگر بادشاہ کو ایک مقرر رقم دے دیا کرتے تھے مذہبی امور کے سلسلہ میں رعایا کو چرچ کے پادریوں کے پنجھ میں چارونا چار پھنسا پڑتا تھا اور یہ پادری طرح طرح کے حیلے اور بہانے کر کے کافی رقم ایشٹھتہ اور امیرانہ مٹھائیں باٹھ کے ساتھ عیش اور آرام کی زندگی گزارتے تھے! اس پر طرہ یہ کہ ان پادریوں کی بھی دو قسمیں تھیں، ایک امیر اور ایک غریب! غریب پادری بھی امیر پادریوں کو رٹک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اب دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہئے کہ بادشاہ سلامت اور امیر پادری بڑی شان و شوکت اور عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ لیکن تکلیف اور مصیبت اور عسرت و نگرانی صرف بے چارے تاجر، مزدور عوام اور دوسرے درجہ کے پادریوں کی قسمت میں لکھی ہوئی تھی۔

صنعتی انقلاب کے بعد جب خام اشیاء سے کافی سے زیادہ چیزوں تیار ہونے لگیں اور ان چیزوں کی منہج مانگی قیمتیں، صنعت کاروں کے گھر جانے کے بد لے کارخانہ داروں اور مل کے مالکوں کے پاس جانے لگیں تو سرمایہ داری اپنے نقطۂ عروج پر پہنچ گئی اور مزدوروں اور عام جتنا کی حالت بد سے بدتر ہو گئی سرمایہ داران غریبوں کو اپنے مکرو فریب اور ظلم و ستم کرنے نئے اوزادوں سے اس بری طرح سکھلنے لگے کہ انسانیت کی روح کا پہنچنے لگی اور ستم بالائے ستم یہ کہ نہ ان کا کوئی فریاد رس تھا اور نہ ہی پشت پناہ! اس لئے ان کی زندگی واقعی اجیرن بنی ہوئی تھی، آخر امید کی کرن نہ مودار ہوئی اور مزدوروں میں عام بیداری کی لہر دوڑ گئی کیونکہ ان کے (مزدوروں کے) بہ طاہر سر پرست اور ہمدرد یکے بعد دیگرے نہ مودار ہونے

لگے مثلاً سیمون FOURIER (1770ء سے 1825ء)، فوریٹ SIMON (1771ء سے 1837ء) رابرٹ اوون ROBERT OWEN (1771ء سے 1851ء)، لوئی بلان LOUIS BLANCE (1813ء سے 1882ء) مگر کارل مارکس (1818ء سے 1883ء) کو جو عزت اور شہرت نصیب ہوئی وہ ان میں سے کسی کے حصہ میں نہ آ سکی۔

مارکس 1818ء میں رائے لینڈ، جرمی کے شہرڑاڑ میں پیدا ہوا تھا، یہ یہودی تھا مگر اس کا خاندان اس کے بچپن میں پروٹسٹنٹ کا حلقة بگوش ہو گیا تھا اس نے یون اور برلن یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کی تھی، اس کا خاص موضوع تاریخ قانون اور فلسفہ تھا۔ اس میں خصوصیت کے ساتھ جرمی کے مشہور فلسفی ہیگل (1770ء سے 1831ء) کے فلسفہ کی طرف متوجہ تھا۔ یہ ہیگل وہی ہے جس کی مملکت کسی اصول کی پابندیوں ہوتی اور نہ کسی حیثیت سے جواب دہ ہوتی ہے۔ جس کی مثال جرمی کی تباہ شدہ کلیت پسند مملکت ہے۔

مارکس کے نظریہ اور اس کی وہی اور عملی کاوشوں سے اثر پذیر ہونے والوں نے پہلے اسے پیغمبری کا منصب دیا لیکن بعد میں اس کو (نحوہ باللہ) خدائی کے درجہ پر پہنچایا اور یمن کو پیغمبری کا منصب عطا کیا، مارکس کے دوستوں میں آنجلر (1820ء سے 1895ء) کا مقام بھی کم اہم نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مارکس اور آنجلر کی ملی جلی کوششوں سے جب اشتہاری منشور (COMMUNIST MANIFESTO) فروری 1848ء میں شائع ہوا تو دعوم مج گئی۔ اس کی متبوعیت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ بچھلی آدمی صدی میں اس کے

لاکھوں لاکھ نسخ مختلف زبانوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ لیکن اس دھوم مچنے کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیتا چاہئے کہ اس میں اسلام کے آغاز فکر یعنی خالق کائنات کے تصور سے پانکل ہزادی تھی۔ ان کا نقطہ آغاز ”روٹی“ اور ”مادہ“ تھا۔ سیدھے سادھے الفاظ میں اسے اس طرح کہیے کہ اسلام کا سنگ بنیاد خالق کائنات کا تصور اور اشتہالیت (کیونزم) کی بنیاد ”روٹی“ اور ”مادہ“

بہ بیں تفاوت رہ از کجاست تاہہ کجا !

اسلام عقائد و عبادات کا مجموعہ، زندگی کا ایک مربوط نظام عمل اور حکومت و معاشرت کا مکمل دستور ہے۔ اور کیونزم لاوینیت کا مجموعہ، زندگی، حکومت اور معاشرت کا نامربوط ادھور اور ناپیدار دستور ہے!

اسلام کسی کی محنت و مشقت سے کمائی ہوئی جائز اور حلال دولت کو اس سے اس لئے نہیں چھینتا کہ اس نے اتنی دولت کیوں جمع کر لی بلکہ اسے یہ بتلاتا ہے کہ چونکہ تم نے اپنی عقل اپنے دماغ، اپنی سوچ بوجھ اور اپنی محنت سے زمین کے سینہ کو چیر کر نکلنے والی چیزوں کو مفید اور کار آمد بنا کر جب پونچی اکٹھا کر کے اپنے کو باعث فخر اور لائق تاش بنا لیا ہے تو تم پر فرض یہ ہے کہ تم اپنے کنبے قبیلے اور اپنے معاشرہ کو بھی اسی طرح اپنی دماغی اور جسمانی مختتوں سے کام لینے کے لئے آمادہ کروتا کہ تمہارا معاشرہ ایک مشابی بن جائے اور اس کے لئے ضروری یہ ہو گا کہ تم ان کی مالی اعانت کرو۔

﴿ذُوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَّمَى وَالْمُسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيل﴾

انسان نہیں سوچے یہ اور بات ہے مگر ذرا سا بھی سوچنے پر ان باتوں کے

علاوه مزید یہ بات بھی آسانی سے ذہن میں آجائے گی کہ اسی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ فن کاروں اور صنعت کاروں کی اس لئے ہمت افزائی فرماتا ہے کہ وہ اس کی قدرت کے نمونوں کے صفحوں پر نیل بوئے ہنا کیس اور اس متن پر خوب خوب حاشیے چڑھائیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ مطبع نظر نہ ہوتا تو کس فن کار اور صنعت کار کو پڑی تھی کہ وہ اپنی دماغی اور جسمانی مختتوں کو کام میں لاتا جب کہ اسے یہ معلوم ہو جاتا کہ لاکھ مختت کروں مگر اس کا شرہ مجھے نہیں ملے گا۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ نہ اس میں جدت طرازی آتی اور نہ ہی وہ اپنی فن کارانہ صلاحیتوں میں بے جگہی سے اضافہ کرتا بلکہ مشین کی طرح بے سوچ سمجھے ایک کام میں لگا رہتا اور صرف کام کے اوقات کی مدت تک پہنچنے کے لئے وہ اس طرح گھنٹوں اور منٹوں کو گنتارہتا۔ مگر چونکہ کیونزم کے دستور میں ”خدا“ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اس لئے اس دستور کے بانیان مارکس، انجلز، لینن اور اشالن وغیرہ کے صحیفوں میں اقل تو سرمایہ داری اور شخصی دولت کا قلع قلع کرنے کے لئے احکام بنائے گئے اور فن کاروں اور صنعت کاروں کو ان کی مخت و مشقت کے شرہ سے یک قلم محروم کر دینے پر ایڈی چوٹی کا زور لگا کر ان کے لئے ایک محدود اور مقرر رکم مقرر کر دی گئی اولاد کوان کے والدین کے ترکہ سے محروم کر دیا گیا۔ سرمایہ داری کو نیست و نابود کر دینے کے پرده میں انسانیت کو کچل کر رکھ دینے اور اس کی آزادی کو ظلم و ستم کے لو ہے کے مضبوط جبڑوں سے چبوا دینے کے لئے ساری طاقتلوں کو کام میں لایا گیا۔ لیکن جب ان کے دستور کے خود قبیعین بھی زائر کے انسانیت سوز مظالم کو مٹانے کے لئے ایک پارٹی کی حیثیت سے جمع ہوئے تو دو حصوں میں بٹ گئے، یعنی ایک تو وہ ہوئے جو انقلاب اور خون ریزی سے گھبراتے تھے ان کی تعداد کم تھی

یہ مانشویک (MANSHEVIC) کہلاتے اور انقلاب اور جو خوب ریزی کو اور ظلم کو جائز سمجھتے تھے اور اسی کے دلدادہ تھے وہ بالشویک (BOLSHEVIC) ہوئے نتیجہ یہ ہوا کہ ان "اکاوم" میں ترمیم و تغیرت کی گئی اور یہ سلسہ آج تک قائم ہے اور قائم رہیگا۔ یہاں تک کہ انسانیت صحیح معنوں میں بیدار ہو جائیگی اور وہ خود ہی کھرے اور کھوئے کو الگ الگ کر کے رکھ دے گی۔

چونکہ میرے مضمون کے عنوان "اسلام اور کیوں نہ میں" کا تقاضا نہیں ہے کہ اسلامی یا اشتہاری ممالک کی داخلی اور خارجی سیاست پر بھی روشنی ڈالوں اس لئے مجھے یقین ہے کہ آپ بھی اس باب میں میرے ہمتوں ہوں گے کہ میں اپنی زبان قلم کو اس حرف آخر کے بعد خاموش کر دوں کہ

چونکہ اشتہاریت (کیوں نہ میں) کی بغاید نہیں مادیت پر ہے۔ اس لئے اس سے انسان کی تشفی ناممکن ہے۔ اور اس "مادیت" کا نتیجہ سوائے لذیت کے اور کچھ نہیں کیونکہ وہ فلسفہ جو نہیں "مادیت" پر مبنی ہو گا اور دنیا کو صرف "ذرات" کے ذریعہ سمجھانے کی کوشش کرے گا۔ اس میں کسی نہیں یا روحانی تصور کا سوال ہی نہیں پیدا ہو گا۔ ان کے یہاں تو مدد ہی سب کچھ ہو گا ان کا "خدا" ان کی "روٹی" ہو گی اور ان کا "انسان" اپنی دنیا کا آپ ہی "خالق" اور "نا ظالم" ہو گا۔

اس لئے اسلام اور کیوں نہ میں و مختلف اور متفاہد چیزیں ہیں، ان میں سے ایک کا دوسرے سے نہ تعلق ہوا ہے اور نہ ہو گا۔

(مولانا ابو الفرج صاحب جہنمی جترہ)






نام کتاب	نام کتاب	نام کتاب	نام کتاب
25/= سیرت مصلحت مفتتحہ (دو اساز)	مولانا عبد الرحمن علی	200= نجوم القرآن من تحریر آیات القرآن بدول	مولانا عبد الرحمن علی
10/= سیرت مصلحت مفتتحہ (دو اساز)	مولانا عبد الرحمن علی	300= نجوم القرآن من تحریر آیات القرآن بدم	مولانا عبد الرحمن علی
10/= دعوت اُمّت فی جواب عیا رائی	شیخ الحدیث سید ناظم الدین شاہ	300= نجوم القرآن من تحریر آیات القرآن بدم	مولانا عبد الرحمن علی
10/= ملت فی فربہ	تلایی فرمیدی	330= نجوم القرآن من تحریر آیات القرآن بدم	مولانا عبد الرحمن علی
15/= مقالہ حضرت	مولانا حضرت احمد نسافی	210= نجوم القرآن من تحریر آیات القرآن بدم	مولانا عبد الرحمن علی
15/= معرفت اسلام	مولانا حضرت مفتاح الدار	45= مراجح الراواج (اردو ماہیہ)	مولانا عبد الرحمن علی
15/= معرفت اسلام	مانوہ فضل اللہ بن تکھنڈی بدرود	525= تذكرة الاجنبیہ (عجمیہ)	مولانا عبد الرحمن علی
15/= معرفت اسلام	مانوہ فضل اللہ بن تکھنڈی بدرود	300= موت کا مختار حوالہ شریف (جناس)	مولانا عبد الرحمن علی
5= حیلۃ الاستغاث	مانوہ فضل اللہ بن تکھنڈی بدرود	200= موت کا مختار حوالہ شریف (ہمہ)	مولانا عبد الرحمن علی
10/= اربعین تشبیہ	مانوہ فضل اللہ بن تکھنڈی بدرود	30= موت کا مختار حوالہ شریف ہے	مولانا عبد الرحمن علی
15/= شب تبدی	مانوہ فضل اللہ بن تکھنڈی بدرود	165= اسلام میں گورنمنٹ کا مقام	مولانا عبد الرحمن علی
15/= فضائل صدقات	مانوہ فضل اللہ بن تکھنڈی بدرود	30= موتان کے ساتھ درشریف سنت ہے	مولانا عبد الرحمن علی
10/= الوانی ترجیح الکافی	مانوہ فضل اللہ بن تکھنڈی بدرود	30= سری چالک بکات سے کذاب ملائی	مولانا عبد الرحمن علی
15/= سیدنا محمد نبیک (اکریجی)	مولانا محمد نبیک بزراروی	30= انکو ملے چونا سنت ہے	مولانا عبد الرحمن علی
25/= حافظہ حماقہ	سکاٹ اون اکلوب	60= نماز کے بعد کرد کر دھماست ہے	مولانا عبد الرحمن علی
10/= ذکر حبیب	مولانا سید حسین الدین شاہ	75= فضائل رمضان	مولانا عبد الرحمن علی
15/= وظائف پڑی	مولانا سید حسین الدین شاہ	180= تکشیب ایمان فی عاصی تکریل ایمان	مولانا عبد الرحمن علی
.....	نوہ بہارت	30= حکم بیوی الدین مصلحت مفتتحہ	مولانا عبد الرحمن علی
150= مسیاد والی مفتتحہ	مولانا محمد یعقوب بزراروی	36= ادکام مساجد	مولانا عبد الرحمن علی
.....	حای (اربی حاشیہ)	210= نماز جیب بکریاء	مولانا عبد الرحمن علی
10/= ساقب بردی	محمد ریاض قادری	120= نور الائیشاح (اربی حاشیہ)	مولانا عبد الرحمن علی
78/= تدقیق اور حدیث رسال	مولانا سردار احمد حسن سیدی	45= اسرار ایمی فی الکتب ایمی	مولانا عبد الرحمن علی
18/= تحقیق ترقیاتی	مولانا سردار احمد حسن سیدی	60= تخفیف المذاہ	مولانا عبد الرحمن علی
80/= تذکرہ والی الدین	مولانا سردار احمد حسن سیدی	350= کنز الدقاۃ (اربی حاشیہ)	مولانا عبد الرحمن علی
150= مسیحی ایام حضرت مولیٰ علیہ السلام	اوراوشریعت (جلد اول)	330= اعلیٰ ائمہ اعلیٰ ائمہ القدوی	مولانا عبد الرحمن علی
150= مسیحی ایام حضرت مولیٰ علیہ السلام	اوراوشریعت (جلد دوم)	27= ایصال قوب سنت ہے	مولانا عبد الرحمن علی
140= الاحادیث المصنفۃ	مولانا عبد الرحمن علی	نامہ	نامہ
125= ترقی شریف (مساہیہ بالخطاط)	کلمہ درود مسیح اکتوبر	نامہ	نامہ
20= مولانا عبد الرحمن علی	الاحادیث المصنفۃ (صاہی)	نامہ	نامہ
20= مولانا عبد الرحمن علی	محدث علیہ السلام شریف	نامہ	نامہ
20= فرح نعمۃ الفکر	مولانا عبد الرحمن علی	نامہ	نامہ
20= مولانا عبد الرحمن علی	الاحادیث المصنفۃ (صدام)	نامہ	نامہ
20= زیرین	مولانا عبد الرحمن علی	نامہ	نامہ

حضرت قاضی عبد الرزاق بھڑالوی
دین جامعہ رسمیہ دینیہ العلوم را بدینی کی گرانقدر تصنیفات

نجم الفرقان تفسیر القرآن



مکتبہ مذکورہ تفسیر قاضی عبد الرزاق سے ایسا نسخہ کے حداں آتا ہے
کہ فرقان کے طبق مذکورہ مکتبہ مذکورہ کا نام نہیں

